

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم طورا عليهم اليه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی تقریباً تین سو تصانیف سے ماخوذ  
(۳۶۶۳) احادیث و آثار اور (۵۵۵) افادات رضویہ پر مشتمل علوم و معارف کا صحیح گرانمایہ

المختارات الرضویہ من الاحادیث النبویہ والاثر المرویہ  
المعروف بہ

# جامع الاحادیث

مع افادات

مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ

جلد ششم

مولانا محمد حنیف خاں رضوی بریلوی  
صدر المدرسین جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف

تقدیم، ترتیب، تخریج، ترجمہ

ALAHAZRAT NETWORK

اعلحضرت نیٹ ورک

www.alahazratnetwork.org

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يطوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة  
امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی تقریباً تین سو تصانیف سے ماخوذ (۳۶۶۳) احادیث  
وآثار اور (۵۵۵) افادات رضویہ پر مشتمل علوم و معارف کا گنج گرانمایہ

**المختارات الرضویہ من الاحادیث النبویہ والآثار المرویہ**

المعروف بہ

# جامع الحادیث

مع افادات

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ

جلد ششم

تقدیم، ترتیب، تخریج، ترجمہ

مولانا محمد حنیف خاں رضوی بریلوی

صدر المدرسین جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف

سلسلہ اشاعت..... ششم

نام کتاب..... فہارس جامع الاحادیث

ترتیب فہرست..... مولانا محمد حنیف خاں رضوی صدر المدرسین جامعہ نوریہ بریلی شریف

ترتیب آیات کریمہ..... مولانا محمد شکیل صاحب استاذ جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف

ترتیب مسائل ضمنیہ..... مولانا عبدالسلام صاحب رضوی استاذ جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف

پروف ریڈنگ..... مولانا عبدالسلام صاحب رضوی استاذ جامعہ نوریہ بریلی شریف

کمپوز ڈسٹنگ..... محمد ارشد علی جیلانی جبل پوری۔ محمد تطہیر خاں بریلوی

کمپوزر..... مولوی محمد زاہد علی بریلوی۔

تعداد..... (۱۰۰۰)

سن اشاعت..... ۱۴۲۲ھ / ۲۰۰۱ء

قیمت..... [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## ملنے کے پتے

۱۔ مرکز اہل سنت برکات رضا امام احمد رضا روڈ پور بندر گجرات

۲۔ کتب خانہ امجدیہ ٹیما محل جامع مسجد دہلی

۳۔ رضا دار الاشاعت آنندوہار بریلی شریف

۴۔

# فہارس کی فہرست

۵	فہرست آیات کریمہ
۲۹	فہرست اطراف حدیث
۱۷۷	فہرست عنوانات
۲۸۱	فہرست مسائل ضمنیہ
۴۰۵	حالات راویان حدیث <a href="http://www.alahazratnetwork.org">www.alahazratnetwork.org</a>
۵۷۹	فہرست کتب
۶۰۸	مآخذ و مراجع
۶۱۵	فہرست اسمائے راویان حدیث



[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)



# فہرس الآیات الکریمہ

[www.alhazratnetwork.org](http://www.alhazratnetwork.org)





# فهرس الآيات الكريمة

آيات	پاره / ركوع	جلد و صفحہ
سورة الفاتحه - ۱		
اياك نستعين	۱ ۱	۳۰/۱
اياك نعبد و اياك نستعين	۱ ۱	۱۵۱/۴
سورة البقره - ۲		
استعينوا بالصبر والصلوة	۲ ۳	۳۰/۱
يؤمنون بالغيب	۱ ۱	۳۰/۱
افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ۱	۱۰	۳۰/۱
' , , , ,		۲۲۴/ ۴
الم ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين		
الذين يؤمنون بالغيب -	۱ ۱	۴۵/۱
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم	۱ ۱۵	۳۵۸/۱
والله يختص برحمته من يشاء والله		
ذوالفضل العظيم	۱ ۱۳	۴۰۲/۱
حتى يتبين لكم الخيط الابيض		
من الخيط الاسود من الفجر	۲ ۷	۴۰۹/۱
والفتنة اشد من القتل	۲ ۸	۴۸۹/۱
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه	۲ ۸	۱۴۰/ ۲
' , , ,		۱۵۰/۲
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف	۲ ۱۲	۳۱۴/۲
الطلاق مرتان فامساك بمعروف		



۳۶۵/۲	۱۳	۲	او تسریح باحسان
۳۷۱/۲			، ، ،
۲۳۷/۲	۳	۲	انا لله وانا الیه راجعون
۳۹۲/۲	۶	۳	واحل الله البیع وحرّم الربوا
			والهکم الہ واحد لا الہ
۲۸۷/۳	۳	۲	الا هو الرحمن الرحیم
۳۰۹/۳	۷	۳	واشهدوا اذا تبایعتم
			یاایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات
۳۸۱/۳	۵	۳	ما رزقنا کم
			الذین یا کلون الربوا لا یقومون الا کما یقوم
۹۸/۴	۶	۳	الذی یتخبطہ الشیطان من المس
۱۰۳/۴			، ، ،
۲۱۹/۴	۹	۲	فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج
			قل بئسما یامرکم به ایمانکم
۳۲۱/۴	۱۱	۱	ان کنتم مومنین
			ربنا وابعث فیہم رسولا منهم
۳۵۷/۴	۱۵	۱	یتلوا علیہم الآیہ
۳۹۱/۴	۲	۱	فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا
۴۳۱/۴	۱	۲	فلنولینک قبلۃ ترضاها
۴۶۵/۴	۷	۱	وباءوا بغضب من اللہ
۴۶۵/۴	۱۱	۱	فباؤا بغضب علی غضب
			فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ
۵۰۲/۴	۱۱	۱	فلعنة اللہ علی الکفرین
۵۳۰/۴	۱۲	۲	ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین

انتم اعلم ام الله

۱ ۱۶

۶۱۱/۴

## سورة آل عمران-۳

يا اهل الكتب لم تحاجون في ابراهيم

وما انزل التوراة والانجيل الى قوله تعالى

والله ولي المؤمنين

۳ ۱۵

۲۱/۱

ما كان لبشر ان يوتيئه الله الكتب

والحكم والنبوة الآيه

۳ ۱۶

۲۲/۱

، ، ،

۱۷۲/۳

وشاورهم في الامر

۴ ۸

۳۷/۱

لا تتخذوا بطانة من دونكم

لا يألونكم خبالا

۴ ۳

۸۳/۱

، ، ،

۹۶/۱

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

يجتبي من رسله من يشاء

۴ ۹

۳۰/۱

ولا يحسبن الذين ييخلون بما آتاهم الله

من فضله الآيه

۴ ۹

۱۶۳/۲

الم الله لا اله الا هو الحي القيوم

۳ ۹

۲۸۷/۳

واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم الآيه ۳

۱۷

۳۵/۴

يزكيهم

۴ ۸

۱۲۲/۴

قل موتوا بغيضكم ان الله عليم

بذات الصدور

۴ ۳

۲۰۵/۴

ولله على الناس حج البيت من استطاع

اليه سبيلا

۴ ۱

۲۳۲/۴

فبما رحمة من الله لنت لهم الآيه

۴ ۸

۳۳۴/۴

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله

۴۰۴/۴	۹	۴	یجتبی من رسلہ من یشاء فلما احس عیسیٰ منهم الکفر الیٰ قولی تعالیٰ نحن انصار اللہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ , , ,
۴۳۶/۴	۱۳	۳	
۲۶/۴	۱۷	۳	
۴۳۶/۴			
۴۳۷/۴	۶	۵	و کأین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر ان هذا لہو القصاص الحق الآیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء الآیہ کل نفس ذائقۃ الموت ہو الذی یصورکم فی الارحام الآیہ
۴۷۶/۴	۱۴	۳	
۵۰۹/۴	۹	۴	
۵۷۱/۴	۱۶	۳	
۶۴۳/۴	۱۰	۴	
۶۵۰/۴	۹	۳	

## سورة النساء - ۴

۱۱/۱	۱۱	۵	فقد وقع اجرہ علی اللہ فابعثوا حکما ولو انہم اذ ظلموا انفسہم الآیہ , , ,
۳۰/۱	۲	۵	
۳۶/۱	۶	۵	
۲۷۳/۲			
۲۴۴/۴			
۴۶۰/۴			
			ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم الآیہ الرجال قومون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم والمحصنات من النساء
۹۵/۱	۹	۵	
۱۹۶/۲	۱۲	۴	
۳۱۴/۲	۳	۵	
۳۷۷/۲	۱	۵	

۲۷۸/۲	۱۴	۵	ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا حتى يتوفهن الموت او يجعل الله
۲۷۶/۳	۱۴	۴	لهن سبيلا
۹۸/۴	۱۲	۴	ياكلون اموال اليتيم ظلما الآيه
۱۰۳/۴			، ، ،
۲۲۲/۴	۱۱	۵	ان الذين توفيهن الملكه اطيعوا الله واطيعوا الرسول
۳۱۰/۴	۵	۵	واولى الامر منكم
۴۶۱/۴	۸	۵	من يطع الرسول فقد اطاع الله

## سورة المائدہ - ۵

اليوم اكملت لكم دينكم

۱۹/۱	۵	۶	واتممت عليكم نعمتى
۳۰/۱	۵	۶	وتعاونوا على البر والتقوى
۵۲۴/۱			، ، ،

لتجدن اشد الناس عداوة للذين

۹۴/۱	۱۵	۶	آمنوا اليهود والذين اشركوا
۳۸۴/۳	۶	۷	ان تعذبهم فانهم عبادك الآيه
۱۲۸/۴	۱۲	۶	انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآيه

يا ايها الذين آمنوا لا تسئلوا

۶۵۵/۲۳۲/۴	۴	۷	عن اشياء ان تبدلکم تسوكم
۵۳/۴	۷	۶	قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
۳۷۸/۴			، ، ،

فاعف عنهم واصفح



۳۳۴/۴	۷	۶	ان الله يحب المحسنين
۳۳۴/۴	۱۰	۶	وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط
۴۳۵/۴	۸	۶	رب انی لا املک الا نفسی الایہ
۴۳۵/۴	۱۴	۶	والله یعصمک من الناس
			یعیسیٰ بن مریم انت قلت للناس اتخذونی
۴۳۵/۴	۶	۷	وامی الہین من دون اللہ
۶۰۳/۴	۱۲	۶	ومن یتولہم منکم فانه منہم

## سورة الانعام - ۶

۶۷/۱	۱	۸	وکذلك جعلنا کل نبیٰ عدو الایہ
۶۸/۱	۱	۸	ولو شاء ربک ما فعلوه فذرہم وما یفترون
۶۸/۱	۱	۸	ولتصغی الیہ افئدة الذین
			افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم
۶۹/۱	۱	۸	الکتب مفصلا الایہ
۲۲۹/۲	۷	۸	من جاء بالحسنة فله عشر امثالها
۵۰۹/۴			، ، ،
۱۰۹/۲	۷	۸	ولا تزروا زرة وزراخری
۳۷۶/۳	۱	۸	تمت کلمات ربک الایہ
۹۲/۴	۱۹	۷	لا تدركہ الابصار وهو یدرك الابصار
۱۳۶/۴	۱۷	۷	وما قدروا اللہ حق قدره
۳۸۹/۴	۱۹	۷	وهو بکل شیء علیم
۹۷/۴	۲	۸	اللہ اعلم حیث یجعل رسالته
۴۷۶/۴			، ، ،
			واما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری
۶۰۳/۴	۱۴	۷	مع القوم الظالمین

## سورة الاعراف-۷

۹/۱	۱۰	۸	خذوا زینتکم عند کل مسجد
۱۷۹/۱	۴	۹	آمنّا برّب العلمین، ربّ موسیٰ وهارون
۱۹۰/۱	۱۲	۸	یصدون عن سبیل اللہ وییغونها عوجا
۱۰۵/۲	۱۴	۹	ان الذین اتقوا اذا مسهم الآیہ
۵۷/۴	۱۱	۸	فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا ولاتتعدوا بکل صراط توعدون وتصدون الآیہ
۷۴/۴	۱۸	۸	جاء تهم رسلنا یتوفونهم
۲۲۲/۴	۱۱	۸	

## سورة الانفال-۸

۲۲۳/۴	۳	۱۰	ولوتری اذ یتوفی الذین کفروا الملئکة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی اذ یمکربک الذین کفروا ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم , , ,
۳۲۳/۴	۱۶	۹	
۴۳۱/۴	۱۸	۹	
۴۳۳/۴	۱۸	۹	
۴۳۵/۴			

## سورة التوبة-۹

۲۱/۱	۱۴	۱۰	والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم
۹۴/۱	۱۶	۱۰	یاایہا النبی جاهد الکفار والمنافقین الآیہ ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المومنین ولیجہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله
۹۶/۱	۸	۱	
۳۴۰/۱	۱۱	۱۰	

۵۳۴/۱	۷	۱۰	ان احدمن المشرکین استجارک الآیہ
۵۳۷/۱	۱۰	۱۰	انما المشرکون نجس
۴۱/۲	۲	۱۱	صل علیہم ان صلاتک سکن لہم
۱۴۰/۲	۱۳	۱۰	لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا
۱۶۹/۲	۱۱	۱۰	والذین یکتزون الذہب والفضۃ
			ماکان للنبی والذین آمنوا ان
۴۱۳/۳	۳	۱۱	یستغفروا الآیہ
۶۶/۴	۶	۱۱	زادتهم ایمانا
			والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
۱۲۸/۴	۱۵	۱۰	اولیاء بعض
			لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین
۱۹۱/۴	۳	۱۱	الی قوله تعالی وكونوا مع الصادقین
			سیحلفون باللہ لکم اذ نقلبتم الیہم الی قوله تعالی
۱۹۱/۴	۱	۱۱	لا یرضی عن القوم الفاسقین
			قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر
۲۲۷/۴	۱۰	۱۰	ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ
۳۲۲/۴	۱۶	۱۰	اغنہم اللہ ورسولہ
۳۳۴/۴	۱۴	۱۰	رحمة للذین آمنوا منکم
			ولئن سلّتهم ليقولن انما کنا
۳۹۵/۴	۱۴	۱۰	نخوض ونلعب
۴۳۱/۴	۱۲	۱۰	وایده بجنودلم تروها
۴۳۶/۴	۱۳	۱۰	عفاله عنک لم اذنت لہم
			واللہ ورسولہ احق ان یرضوه ان
۴۶۲/۴	۱۴	۱۰	کانوا مومنین

٥٥٢/٤	١٢	١٠	الا تنصروه فقد نصره الله الآية
سورة يونس - ١٠			
٥٩/١	٥	١١	لقد جاءكم رسول من انفسكم الآية
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم			
١٣٦/٣	١٢	١١	ولا هم يحزنون
٢٧٦/٣	١٢	١١	لا تبديل لكلمات الله
سورة هود - ١١			
٣٠/١	٤	١٢	تلك من انباء الغيب نوحيها اليك
٣٩١/٤	٤	١٢	وقيل بعد اللقوم الظالمين
٤٣٣/٤	٧	١٢	يجادلنا في قوم لوط
٤٣٣/٤	٧	١٢	يا ابراهيم اعرض عن هذا
٥٠٩/٤	١٠	١٢	ان الحسنات يذهبن السيئات
سورة يوسف - ١٢			
٣٠/١	١٥	١٢	ان الحكم الا لله
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا			
٣٣٤/٤	٦	١٣	نوحى اليهم من اهل القرى
٣٨٩/٤	٣	١٣	فوق كل ذى علم عليم
سورة الرعد - ١٣			
سلام عليكم بما صبرتم فنعم			
٦٣/٢	٩	١٣	عقبى الدار
سورة ابراهيم - ١٤			
٣٨٤/٣	١٨	١٣	رب انهن اضللن كثيرا الآية
٢٢٣/٤	١٣	١٣	الر كتاب انزلناه اليك الآية



ولقد ارسلنا موسیٰ بایتنا ان

۲۲۳/۴	۱۳	۱۳	اخرج قومك من الظلمات الى النور
۳۳۱/۴	۱۳	۱۳	وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه
۴۳۲/۴	۱۸	۱۳	ربنا اغفر لی ولوالدی الآیه
۴۳۳/۴	۱۸	۱۳	ربنا وتقبل دعاء

### سورة الحجر - ۱۵

۲۶۸/۱	۳	۱۴	ان عبادی لیس لك علیهم سلطان
۳۶/۴	۵	۱۴	لعمرك انهم لفی سكرتهم یعمهون
			لا تمدن عینك الى مامتعنا به
۳۳۴/۴	۶	۱۴	ازواجاً منهم

### سورة النحل - ۱۶

۱۸۲/۱	۲۰	۱۴	الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
۳۴۲/۱	۱۷	۱۴	وجعل لكم سرايیل تقيکم الحر
			ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرين
۲۲۳/۴	۱۰	۱۴	الذین تتوفهم الملائكة ظالمی انفسهم
			کذلك یجزی الله المتقین الذین
۲۲۳/۴	۱۰	۱۴	تتوفهم الملائكة طیبین

### سورة بنی اسرائیل - ۱۷

۳۸۶/۳	۹	۱۵	عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً
۳۳۴/۴	۳	۱۵	ولا تجعل یدک مغلوله الى عنقک
۲۸/۴	۱	۱۵	سبحن الذی اسرى بعبده الآیه
۷۳/۴			، ، ،
۹۶/۴			، ، ،

۴۳۰/۴				
۴۳۳/۴	۹	۱۵	عسی ان یبعثک ربک مقام محمودا	
۴۳۵/۴				

## سورة الکہف - ۱۸

۱۲۸/۴	۱۶	۱۵	مالہم من دونہ من ولی	
۴۱۵/۴	۲۱	۱۵	فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا	
			آتنا غداء نالقد لقینا من سفرنا	
۴۱۵/۴	۲۱	۱۵	هذا نصبا	
۴۱۵/۴	۲۱	۱۵	ارایت اذاوینا الایہ	

## سورة مریم - ۱۹

۶۵۱/۴	۵	۱۶	لأهب لك غلاما زکيا	
-------	---	----	--------------------	--

## سورة طه - ۲۰

۶۵۲/۱	۱۰	۱۶	اقم الصلوة لذكری	
۶۶۷/۴/۲۵/۲	۱۲	۱۶	منها خلقناکم وفيها نعيدکم الایہ	
۳۳۳/۴	۱۱	۱۶	لاتنیافی ذکری	
۴۳۱/۴	۱۳	۱۶	وعجلت الیک رب لترضی	
			وانا اخترتک فاستمع لما یوحی الی	
۴۳۱/۴	۱۰	۱۶	آخر الآيات	
			ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او	
۴۳۵/۴	۱۱	۱۶	ان یطغی	

## سورة الانبیاء - ۲۱

۱۲۲/۴	۷	۱۷	وما ارسلناک الا رحمة للعالمین	
۴۶۱/۴				
			ان الذین سبقت لہم منا الحسنی الی	
۶۱۱/۴	۷	۱۷	قوله تعالیٰ کنتم توعدون	

## سورة الحج - ٢٢

واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير

١٢٦/١	١١	١٧	مشركين به
٢٥٦/٢	١١	١٧	واذن فى الناس بالحج
			وان يوما عند ربك كالف سنة
١١/٣	١٣	١٧	مما تعدون

## سورة المؤمنون - ٢٣

٢١٩/٢	١	١٨	فتبارك الله احسن الخالقين
٣٤١/٢	٦	١٨	فاذا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم الآية،
٣٨١/٣	٤	١٨	يا ايها الرسل كلوا من الطيبات الآية
٤٣٢/٤	٢	١٨	رب انصرنى بما كذبون

## سورة الزور - ٢٤

وتوبوا الى الله جميعا ايها المومنون

٤٠١/١	١٠	١٨	لعلكم تفلحون
			انكحوا الايامى منكم والصالحين
٨٢/٣	١٠	١٨	من عبادكم واماءكم
			لولا اذ سمعتموه ظن المومنون
٥٠/٤	٨	١٨	والمومنات بانفسهم خيرا
٢٦٦/٤	١٥	١٨	فليحذر الذين يخالفون عن امره
٣٢١/٤	١١	١٨	ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
٣٦٨/٤	١١	١٨	كمشكوة فيها مصباح
٣٦٩/٤	١١	١٨	الله نور السموات والارض
٣٧٢/٤			، ، ،

مثل نوره کمشکوة فیہا مصباح ۱۸ ۱۱ ۳۷۱/۴

### سورة الفرقان - ۲۵

تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده الآیہ ۱۸ ۱۶ ۱۵۳/۴

فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ۱۹ ۴ ۲۴۴/۴

### سورة الشعراء - ۲۶

وتقلبک فی الساجدین ۱۹ ۱۵ ۲۰/۱

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ۱۹ ۱۵ ۱۹۰/۱

، ، ، ۲۲۲/۴

، ، ، ۳۲۰/۴

واخفض جناحک لمن اتبعک

من المومنین ۱۹ ۱۵ ۳۳۴/۴

ولا تخزنن ینوم یبعثون ۱۹ ۱۵ ۴۳۰/۴

ففررت منکم لما خفتکم ۱۹ ۶ ۴۳۱/۴

واجعل لی لسان صدق فی الآخرین ۱۹ ۹ ۴۳۳/۴

ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی

فارسل الی ہارون ۱۹ ۶ ۴۳۴/۴

### سورة النمل - ۲۷

قل لا یعلم من فی السموات الآیہ ۲۰ ۱ ۳۰/۱

قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین ۲۰ ۱ ۳۴۹/۱

انی لا ینحاف لدی المرسلون ۱۹ ۱۶ ۳۳۴/۴

فلما جاء ہا نودی ان بورك من فی

النار ومن حولہا ۱۹ ۱۶ ۴۳۴/۴



## سورة القصص- ۲۸

انک لاتہدی من احببت الایہ ۲۰ ۹ ۴۱۴/۳  
, , , ۲۲۴/۴

نودی من شاطئ الوادی الايمن  
فی البقعة المبارکة من الشجرہ ۲۰ ۷ ۴۳۴/۴

## سورة العنکبوت- ۲۹

ان فیہا لوطا ۲۰ ۱۶ ۴۳۳/۴  
نحن اعلم بمن فیہا ۲۰ ۱۶ ۴۳۳/۴

## سورة لقمان- ۳۱

ان اشکرلی ولوالدیک ۲۱ ۱۱ ۲۰۴/۳

## سورة الاحزاب- ۳۳

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

یاایہا الذین آمنوا صلوا علیہ

وسلموا تسلیما ۲۲ ۴ ۴۱/۲

انما یریداللہ لیذهب عنکم الرجس

اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ۲۲ ۱ ۴۰۸/۳

یاایہالنبی انا ارسلناک شاہدا الایہ ۲۲ ۳ ۵۳/۴

ترجی من تشاء منهم وتؤوی الیک

الی قوله تعالیٰ فلا جناح علیک ۲۲ ۳ ۱۵۵/۴

النبی اولی بالمومنین من انفسہم ۲۱ ۱۷ ۵۸۴/۱۷۶/۴

ماکان لمؤمن ولا مؤمنة الایہ ۲۲ ۲ ۲۲۷/۴

لاتبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ ۲۲ ۱ ۲۳۸/۴

ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ۲۲ ۴ ۳۲۲/۴

دع اذاہم وتوکل علی اللہ ۲۲ ۳ ۳۳۴/۴

۴۴۸/۴	۲۲ ۲	ولكن رسول الله وخاتم النبيين
۶۳۳/۴	۲۲ ۴	ان الذين يؤذون الله ورسوله الآية
		سورة سبا - ۳۴
۳۳۱/۴	۲۲ ۹	وما ارسلناك الا كافة للناس
		سورة الفاطر - ۳۵
۶۴۱/۴	۲۲ ۱۴	اليه يصعد الكلمة الطيب الى قوله يرفعه،
۶۷۲/۶۷۱/۴	۲۲ ۱۷	ان الله يمسك السموات الى قوله من بعده
		سورة يس - ۳۶
۵۸۴/۱	۲۲ ۱۸	ونكتب ما قدموا وآثارهم الآية
۴۷۶/۴	۲۳ ۳	وامتازوا اليوم ايها المجرمون
		سورة الصافات - ۳۷
۴۳۰/۴	۳۳ ۷	انى ذاهب الى ربى سيهدين
۴۷۵/۴	۲۳ ۷	وجعلنا ذريته هم الباقيين
		سورة ص - ۳۸
۲۹۷/۲	۲۳ ۱۳	جنت عدن مفتحة لهم الابواب
۱۵۳/۴	۲۳ ۱۲	حتى توارت بالحجاب، ردوها على
۴۳۲/۴	۲۳ ۱۱	لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
		سورة الزمر - ۳۹
۱۷۵/۱	۲۴ ۳	ليس فى جهنم مثوى للمتكبرين
		سورة المؤمن - ۴۰
۳۹۱/۴/۵۳۷/۱	۲۴ ۱۳	وخسر هنا لك المبطلون
۶۴۴/۴	۲۴ ۷	لله الواحد القهار
۴۳۳/۴	۲۴ ۱۱	قال ربكم ادعوني استجب لكم

## سورة الشورى- ۴۲

۲۷۴/۳	۲	۲۵	و يستغفرون لمن فى الارض الايه
			ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين
۲۲۰/۴	۴	۲۵	ما لم يأذن به الله

## سورة الزخرف- ۴۳

۴۴۹/۳	۱۰	۲۵	وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون
-------	----	----	---------------------------------

## سورة الجاثية- ۴۵

۱۳۸/۳	۱۹	۲۵	افرايت من اتخذ الهه هواه
-------	----	----	--------------------------

## سورة الاحقاف- ۴۶

			فاصبر كما صبر اولو العزم
۳۳۴/۴	۴	۲۶	من الرسل

## سورة محمد- ۴۷

			واستغفر لذنبك وللمؤمنين
۴۳۲/۴	۶	۲۶	والمؤمنات

## سورة الفتح- ۴۸

۴۸۲/۱	۱۲	۲۶	سيماهم فى وجوههم من اثر السجود
۴۳۰/۴	۹	۲۶	ويهديك صراطا مستقيما
۴۳۲/۴	۹	۲۶	وينصرك الله نصرا عزيزا

## سورة الحجرات- ۴۹

۱۵۶/۱	۱۴	۲۶	يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكروا نثى
۳۴۲/۲	۱۴	۲۶	ان اكرمكم عند الله اتقاكم
۵۷۱/۴			, , ,

## سورة الذاريات- ٥١

هل اتاك حديث ضيف ابراهيم

المكرمين ٢٦ ١٩ ٤٣١/٤

## سورة الطور - ٥٢

الحقنابهم ذريتهم ٢٧ ٣ ٣٤١/٢

واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٧ ٣ ٣٤١/٢

## سورة النجم - ٥٣

والنجم اذا هوى ٢٧ ٥ ٥٣/٤

ان الى ربك المنتهى ٢٧ ٧ ٤٢٩/٤

فاوحى الى عبده ما وحي ٢٧ ٥ ٤٣٢/٤

وما ينطق عن الهوى ، الى قوله وحي يوحى ٢٧ ٥ ٤٣٢/٤

عند سدره المنتهى ، عندها جنة المأوى ٢٧ ٥ ٤٣٤/٤

اذ يغشى السدره ما يغشى ٢٧ ٥ ٤٣٤/٤

## سورة الرحمن - ٥٥

كل من عليها فان ٢٧ ١١ ٦٤٣/٤

## سورة الحديد - ٥٧

لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح الآيه ٢٧ ١٧ ٦١٠/٤

## سورة الحشر - ٥٩

ما اهلكم الرسول فخذوه ومانهاكم

عنه فانتهاوا ٢٨ ٤ ٥٠/١

، ، ، ٦٥٦/٣١٠/٤

هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب

والشهادة ٢٨ ٦ ٣٧/١

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس

ما قدمت لغد ٢٨ ٦ ١٩٦/٢

### سورة الممتحنة - ٦٠

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم

فى الدين ٢٨ ٨ ٩٣/١

انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم

فى الدين ٢٨ ٨ ٩٤/١

يا ايحك على ان لا يشركن بالله

شيأ الى قوله تعالى

ولا يعصينك فى معروف ٢٨ ٨ ٢٣٧/٤

### سورة الصف - ٦١

كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ٢٨ ٩ ٣٤٠/١

مبشرا برسول ياتى من بعدى

اسمه احمد ٢٨ ٩ ٣٥/٤

والله متم نوره ولو كره الكافرون ٢٨ ٩ ٤٨٧/٤

### سورة الجمعة - ٦٢

ذلك فضل الله يؤتيه الآيه ٢٨ ١١ ٣٢٣/٤

### سورة المنافقون - ٦٣

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآيه ٢٨ ١٣ ٥٣٩/٤

### سورة الطلاق - ٦٥

يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن

لعدتهن ٢٨ ١٧ ٣٦٧/٢

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ٢٨ ١٧ ٣٧١/٢

واشهدوا ذوی عدل منکم ۲۸ ۱۷ ۲۴۲/۴

### سورة التحريم - ۶۶

یوم لا یخزی اللہ النبی والذی آمنوا معہ ۲۸ ۲۰ ۴۳۰/۴

والملائکة بعد ذلك ظہیر ۲۸ ۱۹ ۴۳۱/۴

### سورة القلم - ۶۸

عسی ربنا ان یدلنا خیرامنہا انا الی

ربنا راغبون ۲۹ ۳ ۲۳۷/۱

کذلك العذاب الایہ ۲۹ ۳ ۵۴۱/۴

### سورة المعارج - ۷۰

الا علی ازواجہم او ماملکت ایمانہم ۲۹ ۷ ۳۰۳/۲

### سورة نوح - ۷۱

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس

سراجا ۲۹ ۹ ۵۳/۴

انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر

قومک الایہ ۲۹ ۹ ۴۷۶/۴

### سورة الجن - ۷۲

الا من ارتضی من رسول ۲۹ ۱۲ ۳۰/۱

علم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا

الا من ارتضی من رسول ۲۹ ۱۲ ۴۰۴/۴

### سورة المزمل - ۷۳

یا ایہا المزمل ۲۹ ۱۳ ۶۴۴/۱

انا سنلقى علیک قولاً ثقیلاً ۲۹ ۱۳ ۳۳۳/۴



## سورة المدثر - ۷۴

۹۷/۴	۱۵	۲۹	وما یعلم جنود ربك الا هو
۱۰۲/۴			' , , '

## سورة النزعت - ۷۹

۲۲۰/۴	۳	۳۰	فالمدبرات امرا
-------	---	----	----------------

## سورة المطففين - ۸۳

۱۲۹/۱	۸	۳۰	کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
۲۳۹/۳	۸	۳۰	ران

## سورة الطارق - ۸۶

۵۳/۴	۱۱	۳۰	وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب
۲۲۲/۴	۱۱	۳۰	ان كل نفس لما عليها حافظ

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## سورة البلد - ۹۰

۳۵۹/۴	۱۵	۳۰	لا اقسم بهذا البلد، وانت حل بهذا البلد
-------	----	----	--

## سورة الليل - ۹۲

۱۲۱/۱	۱۷	۳۰	فاما من اعطى واتقى الآيه
-------	----	----	--------------------------

## سورة الضحى - ۹۳

۲۹/۴	۱۸	۳۰	وللاخرة خير لك من الاولى
۴۵۸/۴			' , , '

۴۳۱/۴	۱۸	۳۰	ولسوف يعطيك ربك فترضى
-------	----	----	-----------------------

## سورة الم نشرح - ۹۴

۵۶/۴	۱۹	۳۰	ورفعنا لك ذكرك
------	----	----	----------------

٤٣٣/٤	١٩ ٣٠	ورفعنا لك ذكرك
٤٣٤/٤	١٩ ٣٠	الم نشرح لك صدرك
		سورة الماعون - ١٠٧
٤١٣/١	٣٢ ٣٠	الذين هم عن صلاتهم ساهون
		سورة الاخلاص - ١١٢
٨٨/٢	٣٧ ٣٠	قل هو الله احد
		سورة الفلق - ١١٣
	٣٩ ٣٠	ومن شر غاسق





## فہرس اطراف الحدیث والآثار



[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)



# فہرس اطراف الحدیث والآثار

## (المجلد الاول)

### ﴿الف﴾

۲۸۲	ابو امامہ بن سہل	ائت المیضاة فتوضا
۲۹۷	ابو ہریرہ	ابتغوا الخیر عند حسان الوجوه
۷۸۱	ابن عباس	ابنوا مسا جدکم جما
۷۸۰	انس	ابنوا المساجد واتخذوها
۷۴۳	ابو قرصافہ	ابنوا المساجد و اخرجوا القمامة،
۸۳۲	انس	اتمو الصف المقدم،
۸۳۷	انس	اتموا الصفوف فانی اراکم،
۳۳۷	خدیفہ بن یمان	اتی سباطة قوم،
۲۰۰	ابو ہریرہ	اتانی جبرئیل فقال: اتیتک،
۱۸۲	ابو ہریرہ	اتانی جبرئیل فقال لی: مر
۱۳۲	ثوبان	اتانی الروح الامین فقال: اخرج
۲۲۷	عبد اللہ بن ابی جعفر	اجراکم علی الفتیاء،
۸۰۴	ابن عمر	اجعلوا ائمتکم خیارکم،
۸۷۲	ابن عمر	اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا،
۴۰	ابن عباس	احب الا دیان الی اللہ،
۲۹۸	عبد اللہ بن جراد	اذا بتغیتم المعروف،
۳۲۲	ابو ایوب الانصاری	اذا اتی احدکم الغائط،
۶۱۷	ابو ہریرہ	اذا اذن الموزن ادبر،
۶۲۴	انس،	اذا اذن فی قریة،



۸۶۵	ابن عمر	اذا استاذنت احدکم امرأته ،
۵۰۴	ابو ہریرہ	اذا اشتد الحر فابردوا،
۸۲۹	ابو قتادہ	اذا اقيمت الصلوة فلا تقوموا،
۸۱۴	حذیفہ	اذا ام الرجل القوم،
۲۹۰	عبد اللہ بن مسعود	اذا انفلت دابة احدکم،
۵۹۹	ابن عمر	اذا بدأ حاجب الشمس،
۳۲۴	ابو قتادہ	اذا بال احدکم،
۳۶۵	ابن مسعود	اذا تطهر احدکم،
۳۶۴	ابو ہریرہ	اذا توضأ العبد المسلم،
۶۱۹	ابو ہریرہ	اذا تغولت لكم الغول،
۴۱۸	ابو سعید	اذا جاء احدکم الشيطان،
۹۰۷	محجن بن اورع	اذا جئت المسجد،
۵۳۱	ابن عمر	اذا حضر احدکم الامر،
۱۰۶	ابو ہریرہ	اذا ذكرها فليصلها،
۶۲۱	ابن عباس	اذا رأيتم الحريق فكبروا،
۷۶۱	ابو سعید	اذا رأيتم الرجل يعتاد،
۲۰۷	ابو سعید الخدری	اذا رأيتم الرجل يعتاد،
۱۲۷	انس بن مالک	اذا رأيتم صاحب يدعة،
۷۴۸	ابو ہریرہ	اذا رأيتم من يتناع،
۱۰۳	انس	اذا رقد احدکم عن الصلوة،
۱۰۵	زید بن ارقم	اذا رقد احدکم عن الصلوة،
۱۴۷	ابو ہریرہ	اذا سمعت الرجل يقول : هلك،
۷۰۰	ابو ہریرہ	اذا سمعتم الاقامة فامشوا،
۱۳۷	ابن عباس	اذا سمعتم به بارض،

۳۲۵	ابوقتادہ	اذا شرب احدکم فلا یتنفس،
۹۶۸	ابو سعید	اذا شک احدکم فی صلوٰتہ،
۸۶۲	ابو سعید	اذا صلی احدکم الی شیء،
۸۵۸	ابن عباس	اذا صلی احدکم الی غیر سترة،
۷۱۴	ابو ہریرہ	اذا صلی احدکم فخلع،
۷۱۳	ابو ہریرہ	اذا صلی احدکم فلا یضع،
۹۱۳	یزید بن اسود	اذا صلی احدکم فی رحلہ،
۹۱۰	ابن عمر	اذا صلیت فی اهلك ثم ادركت،
۹۰۸	یزید بن اسود	اذا صلیتما فی رحالکما،
۶۸۱	ابو موسیٰ	اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم،
۲۸۹	عتبہ بن غزوٰن	اذا ضل احدکم شیئا،
۳۰۰	یزید القسمی،	اذا طلبت الحاجات فاطلبوها،
۲۶۳	معاذ بن جبل	اذا ظهرت الفتن،
۵۷۷	انس	اذا عجل بہ السیر،
۵۷۶	انس	اذا عجل علیہ السفر یؤخر،
۸۳۷	ابو ہریرہ	اذا قلت لصاحبک یوم الجمعة،
۱۱۱۸	ابو ہریرہ	اذا قال الرجل لا خیه یا کافر،
۹۱۶	جابر	اذا قام احدکم یصلی،
۴۴۲	جابر	اذا قام احدکم یصلی
۹۷۷	ابن عمر	اذا کان احدکم یصلی یمسک،
۳۴۴	ابن عباس	اذا کان دما احمر،
۸	انس	اذا کان یوم القیامة ما ج الناس،
۹۵۷	ابن عباس	اذا كانت غداة الفطر،
۱۵۰	ابن عباس	اذا مدح الفاسق غضب الرب،

۷۶۷	ابو ہریرہ	اذا مررتم برياض الجنة ،
۴۱۲	زید بن خالد	اذا مس احدكم يوم القيامة ،
۴۲۵	انس	اذا نام العبد في سجوده ،
۶۲۳	ابو امامہ	اذا نادى المنادى فتحت،
۴۱۱	ابن عمر،	اذا نعس احدكم يوم القيامة،
۴۱۹	ابو ہریرہ	اذا وجد احدكم في بطنه ،
۳۴۲	ابن عباس	اذا وقع الرجل باهله ،
۴۷۸	ابو ہریرہ	اذا وقعت الفارة السمن،
۱۰۱۱	حبان بن منقذ،	اذن يكفيك الله ما اهمك،
۶۱۲	بعض الصحابة	اذن مرة في سفر فقال ،
۶۵۹	عمارة بن حزم	اربع فرضهن الله تعالى،
۸۸۸	رافع بن خديج	اركعوا هاتين الركعتين ،
۶۵	ابو ايوب الانصاري	اربع من سنن الهدى ،
۹۳	عائشة الصديقه	ارجع فلن نستعين بمشرك ،
۲۱۶	ابو امامة	استحيى من الله استحياءك ،
۲۸۵	ابو ہریرہ	استعن بيمينك على حفظك،
۲۸۴	ابن عباس	استعينوا بطعام السحر،
۲۸۸	معاذ بن جبل	استعينوا على انجاح الحوائج،
۲۸۶	ابن عمر	استعينوا وعلى الرزق بالصدقة ،
۲۸۷	انس بن مالك	استعينوا على النساء بالعرى ،
۲۶۵	والصبيه بن معبد	استفت عن نفسك ،
۳۳۳	انس	استنزهوا عن البول ،
۴۹۸	رافع بن خديج	اسفروا بالفجر،
۳۷۱	ابو ہریرہ ،	اشربوا اعينكم من الماء،

۷۹۷	ابو سعید،	اشتد غضب الله تعالى على قوم،
۹۰۴	ابو رمثہ،	اصاب الله بك يا ابن الخطاب،
۴۴۰	انس	اصبعك سواك عند و ضؤك،
۵۹۱	سعد بن ابی وقاص	اضاعة الوقت،
۳۰۲	ابو الربیع	اطلبوا الايادی عند فقراء،
۲۹۹	عائشہ	اطلبوا الحاجات عند حسان الوجوه،
۲۹۲	ابو سعید الخدری	اطلبوا الحوائج الى ذوی الرحمة،
۲۷۵		اطلبوا الخير عند حسان الوجوه،
۲۷۵	جابر بن عبد الله	اطلبوا العلم كل اثنين،
۲۷۴	انس بن مالك	اطلبوا العلم يوم الاثنين،
۲۹۳	ابو سعید الخدری	اطلبوا الفضل عند رحماء،
۲۹۴	علی المرتضی	اطلبوا المعروف من رحماء
۶۳۷	معاذ بن جبل	اعتموا بهذه الصلوة،
۹۸۵	ابن عباس	اعتموا تزدادوا حلما،
۹۸۷	اسامہ بن عمیر	اعتموا تزدادوا حلما،
۹۹۴	خالد بن معدان	اعتموا خالفوا المم،
۷۷۳	جابر بن عبد الله	أعطيت خمسالم يعطهن،
۴	اسامہ بن زید	افلا شققت عن قلبه،
۹۱۷	ابو هريره	افضل الصلوة بعد الفريضة،
۹۱۸	مغيره،	افلا اكون عبدا شكورا،
۶۸۷	ابو هريره	اقرب ما يكون العبد من ربه،
۸۴۱	انس،	اقيموا صفوفكم و ترا صوا،
۸۳۶	انس،	اقيموا صفوفكم و ترا صوا،
۸۴۲	ابن عمر	اقيموا الصفوف فانما،

۷۳۶	انس،	اکثروا مارأیت رسول اللہ ﷺ،
۹۳۴	ابو درداء	اکثروا الصلوۃ علی یوم القيامة،
۱۰۱۶	ابو بکر الصديق	اکثروا الصلوۃ علی فان،
۱۰۱۳	ابو امامہ	اکثروا من الصلوۃ علی،
۳۰۱	ابو خصيفه	التمسوا الخير عند حسان الوجوه،
۱۴۱	ابو بکرہ	الا اخبرکم باکبرا الکبائر،
۷۰۷	ابن مسعود	الا اخبرکم بصلوۃ،
۳۵۶	ابن عباس	الا اخبرکم بوضوء،
۵۷۰	ابن عباس	الا اخبرکم عن صلوۃ،
۵۷۳	ابن عباس	الا اخبرکم عن صلوۃ،
۷۹۵	جندب	الا ان من کان قبلکم،
۸۳۳	جابر بن سمرہ	الا تصفون کما تصف،
۷۵۷	ابن عباس	الا لا یصلین احد الی احد،
۵۲		الا انی اوتیت الكتاب،
۸۸	قیس بن ابی حازم	الا انی بری من کل مسلم،
۲۱	ابو هريره	اللہ ملک الملوك،
۷۹۶	ابو هريره	اللهم! لا تجعل قبری و ثناء،
۲۴	عبدالله بن مسعود	اللهم! انی اسئلك من کل،
۲۸۱	عثمان بن حنیف	اللهم! انی اسئلك واتوجه،
۶۶۱	ابو قتاده	اما انه ليس فی النوم تفريط،
۴۴۷	شريح بن عبید،	اما الرجل فلينثر،
۷۴۰	عائشه صديقه	امر ببناء المساجد،
۶۸۶	ابن عباس	امرت ان اسجد علی سبعة،
۹۷۱	ابن عباس	امرت ان اسجد علی سبعة،



۹۷۲	ابن عباس	امرت ان لا اکف الشعر،
۴۳۱	وائله	امرت بالسواک حتی خشیت،
۷۶۰	ابو ہریرہ	امرنا اذا کنتم،
۸۶۸	ام عطیہ	امرنا ان نخرجہن،
۲۶۷	ابن عباس	امرنا ان تکلم الناس،
۸۱	عبداللہ بن مسعود	امس خیر من الیوم،
۵۰۸	ابن عباس	امنی جبرئیل علیہ السلام عند البیت،
۴۹۳	ابو سعید	امنی جبرئیل علیہ السلام فی الصلوۃ،
۴۹۲	ابن عباس	امنی جبرئیل علیہ السلام مرتین،
۸۰۳	ابو امامہ	ان سرکم ان تقبل صلوٰتکم،
۸۰۵	ابو مرثد	ان سرکم ان یقبل اللہ صلوٰتکم،
۸۲۶	ابو ہریرہ	ان اثقل صلوۃ علی المنافقین،
۸۵۰	انس	ان احدکم اذا قام فی صلوٰتہ،
۷۷۵	ابو ہریرہ	ان احدکم اذا کان فی،
۶۰۹	زید بن حارث	ان اخاصدء اذن،
۱۷۶	عبداللہ بن مسعود	ان اشد اهل النار عذابا،
۱۷۱	عبداللہ بن مسعود	ان اشد الناس، عذابا،
۱۷۸	ابن عباس	ان اشد الناس عذابا،
۱۸۰	عائشہ الصدیقہ	ان اصحاب هذه الصور یعذبون،
۲۵۸	سعد بن ابیوقاص	ان اعظم المسلمین جرما،
۳۵۰	ابو ہریرہ	ان امتی یدعون یوم القیامۃ،
۴۷	عقبہ بن عامر	ان انسابکم هذه لیست،
۱۰۱۲	ابن مسعود،	اولی الناس یوم القیامۃ،
۱۲۴		ان اللہ تعالیٰ اختارنی،



۹۹۲	خالد بن معدان	ان الله تعالى اكرم هذه الامة ،
۹۹۰	علی	ان الله تعالى امدنى يوم بد،
۶۹۴	یحییٰ بن کثیر	ان الله تعالى کره لكم،
۲۵۹	مغیرہ بن شعبہ	ان الله تعالى کره لكم،
۳	ابو ہریرہ	ان الله تعالى لا ينظر صوركم،
۲۷۸	عبد اللہ بن عمرو	ان الله تعالى لا يقيض العلم ،
۱۹	ابو شریح	ان الله تعالى هو الحكم فلم تكنی،
۱۴		ان الله تعالى وترو يحب الوتر، ،
۸۴۷	عائشہ صدیقہ	ان الله تعالى وملئکتہ
۹۹۵	ابو درداء	ان الله تعالى وملئکتہ
۲۵۲	ابو ہریرہ	ان الله تعالى يبعث على رأس
۹۳۳	ابو موسیٰ	ان الله تعالى يبعث الايام،
۲۰۹	بعض الصحابة	ان الله تعالى عبدی المومن ،
۶۴۹	کعب بن عجرۃ	ان الله تعالى من صلی ،
۲۹۵	ابو سعید الخدری	ان الله تعالى يقول : اطلبوا الفضول
۶۴۸	قتادہ بن ربیع	ان الله تعالى يقول : انی فرضت،
۷۶۲	ابن مسعود	ان بيوت الله في الارض المساجد،
۳۹۱	اسامہ	ان جبرئیل علیہ السلام اتی ،
۴۹۴	جابر	ان جبرئیل علیہ السلام اتی ،
۱۸۳	ابن عمر	ان جبرئیل علیہ السلام قال لی :
۱۸۴	علی المرتضیٰ	ان جبرئیل علیہ السلام قال لی :
۳۷۲	میمونہ	ان رسول الله ﷺ اتی بمنديل
۴۳۰	عبد اللہ بن حنظلہ	ان رسول الله ﷺ امر الوضو
۳۷۸	سلمان	ان رسول الله ﷺ توضأ،

۴۵۶	ابو امامہ	ان رسول اللہ ﷺ توضاً بنصف مد
۴۳۲	ابن عباس	ان رسول اللہ ﷺ رجع فتوسك،
۹۵۰	انس	ان رسول اللہ ﷺ صلى يوم النحر
۲۱۱		ان رسول اللہ ﷺ طاف يوم الفتح،
۶۱۰	جابر	ان رسول اللہ ﷺ قال لبلال،
۸۷۶	انس	ان رسول اللہ ﷺ قنت شهراً،
۵۲۷	ابن عمر	ان رسول اللہ ﷺ كان اذا عجل به ،
۵۶۲	ابن عمر	ان رسول اللہ ﷺ كان اذا عجل به ،
۶۰۳	عبدالرحمن بن ابی لیلی	ان رسول اللہ ﷺ كان اهتم للصلاة،
۵۵۶	ابو ہریرہ	ان رسول اللہ ﷺ كان يجمع بين الصلوتين،
۵۵۵	عبدالرحمن بن ہرمز	ان رسول اللہ ﷺ كان يجمع بين الظهر
۹۵۳	ابو سعید	ان رسول اللہ ﷺ كان يخرج يوم العيد
۷۲۴	انس	ان رسول اللہ ﷺ كان يسر بيسم الله ،
۹۰۰	ابو امامہ	ان رسول اللہ ﷺ كان يصليها بعد الوتر،
۴۸۶	ابن عمر	ان رسول اللہ ﷺ كان يفعل ذلك ،
۷۷۳	علی	ان رسول اللہ ﷺ كان يقول في آخر و تره ،
۹۶۱	بریدہ	ان رسول اللہ ﷺ كان لا يخرج،
۷۰۸	ابن مسعود	ان رسول اللہ ﷺ كان لا يرفع،
۶۹۷	یزید بن حبیب،	ان رسول اللہ ﷺ مر على امرأتين،
۳۵۱	ابن عباس	ان رسول اللہ ﷺ مضمض
۳۵۸	ابو ہریرہ	ان رسول اللہ ﷺ مضمض غرفة عرفة ،
۷۱۶	ابو سعید	ان رسول اللہ ﷺ واصحابه يصلون في النعمان،
۹۴۹	ابن عمر	ان رسول اللہ ﷺ يصلي في الاضحى ،
۵۰۳	ابوذر	ان شدة الحر من فيح جهنم،

۴۲۶	عائشہ صدیقہ	ان عینی تنا مان ولا ینام قلبی،
۱۸۶	علی المرتضیٰ	ان فی البیت سترافیه تصاویر،
۱۰۰۲	ابو قتادہ	انکم تشیرون عشیتکم،
۳۵	محجم بن الادرع	انکم لن تدركوا هذا الأمر،
۵۹	عبد اللہ بن عمرو	ان لكل عمل شرة،
۱۰۱۵	عمار	ان لله تعالى ملکا،
۲۳۹	ابو موسیٰ الاشعری	ان من اجلال الله تعالى اکرام،
۹۳۰	اوس بن اوس	ان من افضل ايام کم،
۷۹۴	ابن مسعود	ان من شرار الناس،
۳۹۵	عمار	ان من الفطرة المضمضة،
۶۹۵	معاویہ بن حکم	ان هذه الصلوة لا تصلح،
۷۵۴	انس	ان هذه المساجد لا تصلح،
۹۳۲	ابولبا بہ	ان يوم الجمعة سيد الايام،
۹۷۸	عثمان بن طلحہ	انی كنت رأیت قرنی الکبش،
۲۰۱	ابو ہریرہ	انه رخص فيما يؤطأ،
۳۸۸	ابو نعامہ	انه سيكون فی هذه،
۳۳۱	ابن عباس	انهما ليعذبان،
۴۵۹	عبد اللہ بن زید	انه رأى النبی ﷺ، تواضاً،
۸۸۰	انس	انه رأى النبی ﷺ لم يزل يقنت،
۹۶۵	محمد باقر	انه رأى النبی ﷺ استسقى،
۴۴	عمرو بن العاص	ان الاسلام يهدم ما كان،
۴۱	ابو العوام البصری	ان الحق قديم،
۳۲	ابو ہریرہ	ان الدين يسر،
۱۷۳	ابن عمر	ان الذين يصنعون،

۴۱۳	ابو سعید	ان الشیطان لیأتی احدکم،
۱۶۹		ان الشیطان یجرى،
۶۱۸	جابر	ان الشیطان اذا سمع النداء،
۱۴۶	ام المومنین صفیہ	ان العبد اذا اخطأ،
۴۰۲	عمر بن علیہ	ان العبد اذا توضأ،
۴۳۸	ابو امامہ	ان العبد اذا غسل،
۲۳	ابو الدرداء	ان العلماء و رثة الانبیاء،
۴۹۱	ابو ہریرہ	ان للصلوة اولاً و آخراً،
۳۹۰	ابی بن کعب	ان للوضوء شیطاناً،
۶۸۲	ابو ہریرہ	انما الامام لیؤتم بہ،
۷۶۸	ابو ہریرہ	انما نبی لذكر الله،
۴۰۶	عمار	انما کان یکفیک ان تضرب،
۴۴۸	ام سلمہ	انما یکفیک ان تحتی،
۳۰۵	ابو امامہ	ان الماء طهور،
۴۷۷	ابو ہریرہ	ان المومن لا ینجس،،
۸۱۳	انس	ان النبی ﷺ استخلف
۹۶۴	انس	ان النبی ﷺ استسقی،
۴۵۷	ام عمارہ	ان النبی ﷺ توضأ فأتی باناء،
۴۵۸	ام عمارہ	ان النبی ﷺ توضأ فأتی بماء،
۵۲۱	ابن مسعود	ان النبی ﷺ جمع بین المغرب،
۷۰۴	وائل بن حجر	ان النبی ﷺ عقد فی جلوس
۶۰۵	ابی محذورہ	ان النبی ﷺ علمہ هذا الا ذان،
۹۹۳	علی	ان النبی ﷺ عممہ بیدہ،
۸۷۹	ابو ہریرہ	ان النبی ﷺ قنت بعد الركعة،



۴۴۶	عائشہ صدیقہ	ان النبی ﷺ کان اذا اغتسل ،
۵۸۴	ابن عمر	ان النبی ﷺ کان اذا عجل به ،
۷۳۸	جابر بن سمرہ	ان النبی ﷺ صلی صلوۃ ،
۷۳۷	جابر بن سمرہ	ان النبی ﷺ صلی الفجر ،
۴۲۳	عائشہ صدیقہ	ان النبی ﷺ کان لا یرقد ،
۸۷۵	انس	ان النبی ﷺ کان لا یقنت الا ،
۵۵۹	ابن مسعود	ان النبی ﷺ کا یجمع بین الصلوٰتین ،
۵۶۲	ابو سعید	ان النبی ﷺ کان یجمع بین الصلوٰتین ،
۵۶۱	ابو سعید	ان النبی ﷺ کان یجمع فی السفر
۵۶۴	ابو الطفیل	ان النبی ﷺ کان یجمع فی غزوۃ تبوک ،
۹۰۲	ام سلمہ	ان النبی ﷺ کان یصلی بعد الوتر ،
۹۱۹	عائشہ صدیقہ	ان النبی ﷺ کان یقوم من اللیل ،
۱۸۷	عائشہ الصدیقہ	ان النبی ﷺ لم یکن یتک ،
۱۹۱	ابن عباس	ان النبی ﷺ لما رأى الصور ،
۱۹۲	ابن عباس	ان النبی ﷺ لما رأى الصور ،
۸۸۶	کعب بن عجرہ	ان النبی ﷺ اتی مسجد ،
۳۵۳	ابن عباس	ان النبی ﷺ کان یفعلہ
۶۹۶	نویلہ بنت مسلم	اولئک قوم آمنون بالغیب ،
۷۹۹	ام سلمہ	اولئک قوم اذا مات فیہم ،
۹۸۴	علی	ایتوا المساجد حسرا و مقنحین ،
۸۹۰	ابو ہریرہ	ایعجز احدکم ان یتقدم او یتأخر ،
۴۷۹	ابن عباس	ایما اہاب دبغ فقد طهر ،
۸۰۹	طلحہ بن عبید اللہ	ایما رجل ام قوما و ہم ،
۴۳۹	ابو امامہ	ایما رجل قام الی وضوئہ ،

۷۷۴	محمود بن ربيع	این تحب ان اصلی فی بیتک،
۴۸۷	ابو موسیٰ	این السائل عن وقت الصلوة،
۱۴۳	النواس بن سمعان	الا ثم ماحاك فی صدرك،
۴۲	عائذ بن عمرو	الاسلام يعلو ولا يعلى،
۷۰۵	ابن عمر،	الاشارة بالا صبع اشد،
۶۰۶	ابو هريره	الا مام ضامن،
۴۲۷	انس	الا نبينا نام اعينهم ولا تنام،
۲۰۵		الا يمان بضع و ستون،

## ﴿ب﴾

۷۶۵	بريده	بشر المشائين فى الظلم،
۳۹	جابر بن عبد الله	بعثت بالحنيفة السمحة،
۶۳۰	مالك بن صعصعه	بيننا انا عند البيت،
۹۴۱	انس	بينما النبي ﷺ،

## ﴿ت﴾

۶۳۲	ابن عباس	تجب الصلوة على الغلام،
۴۹۵	زيد بن ثابت	تسحر نامع رسول الله ﷺ،
۳۴۶	ابن عباس	تصدق بدينار،
۱۰۵	ابن عباس	تعرف الى الله فى الرخاء،
۲۵۴	ابو هريره	تعلموا العلم،
۸۲۸	ابو سعيد	تقدموا فأتموأبى،
۱۲۵	عبد الله بن مسعود	تقربوا الى الله ببغض اهل المعاصى،
۶۰۰	انس	تلك صلوة المنافق،
۴۰۸	سلمان	تمسحوا بالارض،



۳۲۹	انس	تنزهوا من البول ،
۲۵۳	ابو ہریرہ	تواضعوا لمن تتعلموا ،
۳۵۴	ابن عباس	توضاً النبی ﷺ فادخل ،
۳۵۷	ابن عباس	توضاً النبی ﷺ فغرف ،
۳۹۷	جابر	توضاً النبی ﷺ فنضح فرجه ،
۳۵۵	ابن عباس	توضاً النبی ﷺ مرة مرة ،
۳۵۹	ابن عمر	توضاً النبی ﷺ واحدة ،
۸۶۳	ابو ہریرہ	التسبیح للرجال والتصفیق ،
۴۰۴	جابر	التیمم ضربة ،
۴۰۷	عائشہ صدیقہ	التیمم ضربتان ،

### ﴿ث﴾

۱۱۵	انس بن مالک	ثلث من اصل الايمان ،
۱۴۵	انس بن مالک	ثلث من اصل الايمان ،
۳۳۴	بریدۃ الاسلمی	ثلث من الجفاء ،
۴۸۴	انس	ثلث من حفظهن ،
۴۸۰	علی	ثلاثا لا تؤخرورهن ،
۸۱۱	ابن عباس	ثلاثة لا ترفع صلواتهم ،
۱۴۲		ثلاثة لا يستخف بحقهم ،
۸۰۸	ابن عمر	ثلاثة لا يقبل الله منهم ،
۸۱۰	عطاء بن دینار	ثلاثة لا يقبل الله منهم ،
۸۱۲	انس	ثلاثة لعنهم الله ،
۶۲۲	سهل بن سعد	ثنتان لا تردان ،
۹۴۵	ابن عباس	ثم اتى النساء فوعظهن ،
۹۴۶	جابر	ثم كطب الناس ،

## (ج)

۳۹۲	ابو ہریرہ	جاءنی جبرئیل فقال : اذا توضأت،
۳۹۹	ابو ہریرہ	جاءنی جبرئیل فقال : اذا توضأت فانتضح،
۵۳۷	ابن عباس	جمع رسول اللہ ﷺ بین الظهر والعصر،
۵۶۰	ابن مسعود	جمع رسول اللہ ﷺ بین الظهر والعصر،
۵۵۷	ابن عمرو	جمع رسول اللہ ﷺ بین الصلوتین،
۵۵۳	معاذ بن جبل	جمع رسول اللہ ﷺ فی غزوة تبوک۔
۵۴۳	عمرو بن شعیب	جمع رسول اللہ ﷺ مقيما غير مسافر،
۷۵۳	وائله	جنبوا مساجدکم صبیانکم،
۹۲۸	عمرو بن عسبه	جوف الليل الآخر فصل،
۶۰۷	انس	الجفاء کل الجفاء، معاذ بن
۶۰۸	معاذ بن انس	الجفاء کل الجفاء والكفر،

## (ح)

۱۵۷۹	ابو امامہ	حاملات والذات مرضعات،
		حبك الشئ يعمى ويصم،
۱۶۵	معاویہ بن حیدہ	الحسد یفسد الايمان،
۲۰۶	ابو امامة الباهلی	الحیاء من الايمان،

## (خ)

۷۱۸	شداد بن اوس	خالفوا اليهود والنصارى،
۵۶۷	ابو جحیفہ	خرج بالهاجرة، فتوضأ،
۴۰۹	جابر	خرج فصلی بالظهر،
۵۴۵	ابن مسعود	خرج علينا فكان يؤخر،
۵۶۵	ابو جحیفہ	خرج علينا بالهاجرة،

۵۶۹	ابو جحیفہ	خرج علیہ حلۃ حمراء،
۵۶۸	ابو جحیفہ	خرج کانی انظر الی و بیض،
۴۰۳	عائشہ صدیقہ	خرجنا فی بعد اسفاره حتی اذا،
۶۴۷	عبادہ	خمس صلوات افترضہن،
۶۳۹	عبادہ	خمس صلوات کتبہن اللہ،
۶۴۶	ابو درداء	خمس من جاء بہن،
۲۳۵	ابو ہریرہ	خمس من العبادة قلة الطعام،
۲۳۶	ابو ہریرہ	خمس من العبادة، النظر،
۷۴۱	ابن عمر	خير البقاع المساجد،
۳۶	عمران بن حصین	خير دينکم ایسرہ،
۸۵۲	ابو ہریرہ	خير صفوف الرجال اولها،
۹۳۱	ابو ہریرہ	خير يوم طلعت علیہ الشمس،

www.alahazratnetwork.org

## ﴿د﴾

۲۰۲	عاشۃ الصدیقہ	الدواوین ثلثہ،
۱۳۶		الدواء من القدر،
۳۱	تمیم الداری	الدين النصيحة لله و لرسوله،
۳۳	ابو ہریرہ	الدين يسر،

## ﴿ذ﴾

۲۵۷	ابو ہریرہ	ذررونی ما ترکتکم، فانما هلك،
۲۶۳	ابن عباس	ذنب العالم ذنب واحد،
۱۴۸		الذنب شؤم علی غیر فاعله،



۸۴۰	انس،	راصوا صفوفکم وقاربوا،
۸۳۹	انس	راصوا الصفوف،
۳۷۷	معاذ بن جبل	رأیت رسول اللہ ﷺ اذا توضأ،
۵۸۲	ابن عمر	رأیت رسول اللہ ﷺ اذا جذبہ،
۵۸۵	ابن عمر	رأیت رسول اللہ ﷺ اذا جذبہ،
۵۲۹	ابن عمر	رأیت رسول اللہ ﷺ اذا عجلہ السیر،
۵۴۹	ابن عمر	رأیت رسول اللہ ﷺ اذا عجلہ السیر،
۳۵۲	ابن عباس	رأیت رسول اللہ ﷺ توضأ
۵۴۰	ابن عباس	رأیت رسول اللہ ﷺ جمع بین الظهر،،
۷۰۱	واثل بن حجر	رأیت رسول اللہ ﷺ وضع یمینہ علی،
۷۱۲	عمر بن ابی سلمہ	رأیت رسول اللہ ﷺ یصلی فی ثوب واحد،
۲۱۷	خولہ بنت قس	رب متخوض فیما شاءت نفسہ،
۴۲۵	بعض الصحابہ	رضیت لامتی مارضی لها ابن عبد،
۱۰۰۰	جابر	رکعتان بعمامة خیر،
۱۵۹	ابن عمر	الراشی والمرتشی فی النار،



۳۷۵	عائشہ صدیقہ	سئل عن الرجال،
۷۱۷	سعید بن زید	سألت انسا اکان،
۱۴۶/۱		سباب المسلم کالمشرف،
۱۳۸	عائشہ الصدیقہ	ستة لعنتهم ولعنهم اللہ،
۵۹۲	عبادہ،	ستكون علیکم امراء،
۶۶	عبد اللہ بن عمرو	سیأتی علی امتی ما اتی،

۱۲۸	ابن عمر	سیاتی قوم لہم نبز یقال ،
۸۳۸	ابو امامہ	سدوا الخلل ، فان الشیطان ، ،
۹۱۵	عبادہ	سیکون امراء یشغلہم،
۹۰۹	عبادہ	سیکون علیکم بعد امراء،
۷۵۲	ابن مسعود	سیکون فی آخر الزمان،
۱۸	عبد اللہ بن الشیخیر	السید اللہ ،

## ﴿ص﴾

۴۸۶	جابر	صل معی ،
۵۳۶	ابن عباس	صلی الظهر ،
۶۳۱	ابو رافع	صلی غداة ،
۹۵۱	جندب بن عبد اللہ	صلی یوم النحر،
۹۹۸	ابن عمر	صلوة تطوع او فريضة ،
۸۹۹	ابن عمرو	صلوة الرجال قاعدا،
۸۹۵	قیس بن عمرو	صلوة الصبح رکعتان ،
۷۷۸	ابن عمر	صلوة فی مسجدی افضل ،
۷۷۷	ابو ہریرہ	صلوة فی مسجدی هذا خیر،
۸۸۳	زید بن ثابت	صلوة المرء فی بیتہ ،
۸۷۱	ابن مسعود	صلوة المرأة فی بیتہا،
۵۹۸	سعد بن ابی وقاص	صلاتان لا یصلی بعدہما،
۸۱۷	ابو ہریرہ	صلوا خلف کل بروفاخر،
۶۳۳	مالک بن حوریت	صلوا کماراً یتمونی ،
۷۲۰	انس	صلیت خلف رسول اللہ ﷺ،
۷۲۱	انس	صلیت خلف رسول اللہ ﷺ،
۷۲۲	انس	صلیت خلف رسول اللہ ﷺ،



۷۲۳	انس	صلیت خلف رسول اللہ ﷺ،
۷۲۶	عبد اللہ بن مغفل	صلیت خلف رسول اللہ ﷺ،
۷۰۲	واثل بن حجر	صلیت مع رسول اللہ ﷺ،
۵۳۹	ابن عباس	صلیت مع النبی ﷺ بالمدينة،
۵۳۵	ابن عباس	صلیت مع النبی ﷺ، ثمانیا،
۷۲۵	عبد اللہ بن مغفل	صلیت مع النبی ﷺ،
۶۳۶	ابو ہریرہ	الصلوة خیر موضوع،
۹۹۶	انس	الصلوة فی العمامة،
۴۸۲	عبد اللہ بن مسعود	الصلوة لوقتہا،
۸۸۱	حنظلة الكاتب	الصلوة مثنی مثنی

### ﴿ط﴾

انس بن مالک ۲۲۵	طلب العلم فريضة،
-----------------	------------------

۴۲۸	علی	طیبوا افواہکم بالسواک،
-----	-----	------------------------

### ﴿ع﴾

۶۰		عدلت شهادة الزور،
۳۹۳	عائشہ صدیقہ	عشر من الفطرة،
۳۹۸	زید بن حارثہ	علمنی جبرئیل الوضوء،
۶۵۱	فضالہ زہرانی	علمنی رسول اللہ ﷺ،
۸۳۰	ابو ہریرہ،	علی مکانکم،
۱۵۶		علی العید ما اخذت حتی تودیہ،
۶۰	عریاض بن ساریہ	علیکم بسنتی وسنة،
۸۸۲	زید بن ثابت	علیکم بالصلوة فی بیوتکم،
۲۲۷	ابن عباس	العلم افضل من العبادة،



۲۲۹	يعض الصحابة	العلم افضل من العمل ،
۲۲۶	عبد الله بن عمرو	العلم ثلاثة، آية محكمة ،
۲۲۸	ابو هريره	العلم خير من العبادة ،
۲۳۰	عبادة بن الصامت	العلم خير من العمل ،
۹۸۲	على	العمائم تيجان العرب،
۹۸۳	انس	العمائم تيجان العرب،
۹۹۷	معاذ	العمائم تيجان العرب،
۹۸۸	عمران	العمائم وقار المؤمن،
۹۸۶	ركانه	العمامة على القلنسوة فضل،

## ﴿ف﴾

۳۴۷	عبد الحميد بن زيد	فامره ان يتصدق بخمس دينار
۹۹۱	عبد الاعلى	فان العمامة سيماء الاسلام،
۹۴	خبيب بن اساف	فانا لا نستعين بالمشركين ،
۹۵	ابو حميد الساعدي	فانا لا نستعين بالمشركين ،
۹۱۲	ابو ايوب	فذلك لهم سهم جمع،
۹۸۱	ركانه	فرق ما بيننا و بين المشركين ،
۹۴۷	براء بن عازب	فصلى العيد الركعتين ،
۹۲۷	ابن عباس	فصلى ولم يتوضأ،
۲۳۷	ابن عباس	فقيه واحد اشد على الشيطان،
۹۲۸	عمرو بن عبسة	فكلهم يصلوها قبل الخطبة ،

## ﴿ق﴾

۲۲	رجل من الصحابة	قال الله تبارك و تعالى، يا ابن آدم ،
۱۷۲	ابو هريره	قال الله تبارك و تعالى: و من اظلم،

۱۹۵	اسامة بن زید	قاتل اللہ قوما یصورون ،
۷۹۰	ابو ہریرہ	قاتل اللہ الیہود والنصارى ،
۹۴۴	حکم بن حزن	قام متوکاً علی عصا او قوس،
۹۵۵	عبد اللہ بن سائب	قد قضینا الصلوۃ فمن،
۸۷۷	انس	قنت رسول اللہ ﷺ شہرا،
۸۷۸	انس	قنت رسول اللہ ﷺ شہرا،

### ﴿ک﴾

۵۶۳	علی بن حسین	کان اذا اراد ان یسیر،
۵۷۵	انس	کان اذا ارادا ان یجمع،
۵۷۴	انس	کان اذا ارتحل قبل ،
۴۴۵	جابر	کان اذا اغتسل من جنابة،
۳۹۶	سفیان بن الحکم	کان اذا بال يتوضأ،
۳۷۰	ابو ایوب	کان اذا توضأ، تمضمض،
۴۳۴	ابو ایوب	کان اذا توضأ تمضمض،
۵۵۸	اسامہ بن زید	کان اذا جذبہ السیر، ،
۴۲۹	عائشہ صدیقہ	کان اذا دخل بدأ بالسواک،
۳۲۳	انس بن مالک	کان اذا دخل الخلاء،
۹۴۲	ابن عمر،	کان اذا دنا من منبره، ا
۱۰۱۰	ابی بن کعب	کان اذا ذهب ربع الليل ،
۹۴۳	جابر	کان اذا صعد المنبر سلم،
۹۰۱	زرارہ بن ابی اوفی	کان اذا صلی صلوۃ احب ان یداوم،
۷۳۹	ابن عمر	کان اذا صلی الفجر،
۵۰۵	انس	کان اذا کان الحرابرد،
۵۷۹	انس	کان اذا کان فی سفر فزاغت،

۵۸۰	انس	کان اذا کان فی سفر فزالت،
۵۷۸	انس	کان اذا کان فی سفر فزالت،
۶۴۰	ابو ہریرہ	کان اصحاب رسول اللہ ﷺ لا یرون شیاء،
۵۳۰	عائشہ	کان فی السفر یؤخر الظهر،
۱۹۳		کان فی الکعبۃ صور فامر،
۵۰۷	ابن مسعود	کان قدر صلوۃ رسول اللہ ﷺ الظهر،
۳۷۶	عائشہ	کان لرسول اللہ ﷺ خرقۃ،
۹۵۲	ابن عمر	کان ابوبکر وعمر،
۶۶۰	عزیزہ بنت تجرۃ	کان واصحابہ اذا صلوا،
۸۰۲	ابن عمر	کان یأتی مسجد قبا،
۴۴۴	جابر	کان يأخذ ثلث اکف،
۶۶۱	سائب بن یزید	کان یؤذن بین یدی،
۵۵۰	ابن عباس	کان یجمع بین الصلوۃ،
۵۵۱	ابن عباس	کان یجمع بین المغرب والعشاء،
۵۴۸	ابن عمر	کان یجمع بین المغرب والعشاء،
۵۵۲	انس	کان یجمع بین ہاتین،
۴۵۴	عائشہ، صدیقہ	کان يتوضأ بالمد،
۴۶۱	انس	کان يتوضأ بالمکوک،
۴۴۹	عائشہ صدیقہ	کان يتوضأ وضوءہ للصلوۃ،
۹۵۴	ابو سعید	کان یخرج یوم الفطر،
۹۴۰	ابن عمر	کان یخطب خطبتین،
۱۵	ام المومنین ام سلمہ	کان يدعو لہؤلاء الکلمات،
۳۴۱	ام المومنین عائشہ	کان یدنی رأسہ الکریم،
۸۵۳	ابن عمر	کان یرکز لہ الحربۃ،

۴۲۱	ابن عباس	کان یسجد وینام ،
۸۴۴	نعمان بن بشیر	کان یسوی صفوفنا،
۹۰۵	عائشہ صدیقہ	کان یصلی ثلاث عشرة
۸۸۴	عبد اللہ بن شقیق	کان یصلی بالناس المغرب،
۸۹۲	عائشہ صدیقہ	کان یصلی ثلاث عشرة ،
۵۲۰	ابن مسعود	کان یصلی الصلوۃ لوقتہا،
۸۸۷	عائشہ صدیقہ	کان یصلی المغرب،
۴۷۰	عائشہ	کان یغتسل لمبلاہذا،
۳۱۳	ابن عباس	کان یغتسل بفضل میمنۃ،
۸۵۴	ابن عمر	کان یغدوا الی المصلی ،
۸۵۵	ابن عمر	کان یغدوا الی المصلی ،
۶۶۴	ابو سعید	کان یقرء فی صلوۃ الظهر،
۶۶۵	ابو قتادہ	کان یقرء فی صلوۃ الظهر،
۶۸۵	جابر بن صمرہ	کان یقرء فی الظهر و العصر،
۹۰۳	عائشہ	کان یو تربواحدة،
۹۰۹	بریدہ اسلمی	کان لا یخرج یوم الفطر،
۸۷۴	ابو ہریرہ	کان لا یقنت فی الصبح،
۷۹۸	عمرو بن دینار	کانت بنوا اسرائیل اتخذوا قبور،
۸۲۱	صدیقہ	کانت صلوۃ رسول اللہ ﷺ فی شہر،
۱۳۱	عبد اللہ بن عمرو	کتب اللہ مقادیر الخلق،
۳۴۹	علی المرتضی	کذا کان وضؤ نبی اللہ ﷺ،
۱۱۴	ابن عمر	کفوا عن اهل لا الہ الا اللہ ،
۲۴۵	عبد اللہ بن مسعود	کلاواللہ! لتأمرن بالمروف،
۲۲۱	ابو ہریرہ	کل سلامی من الناس،

۷۷۰	ابو ہریرہ	کل کلام فی المسجد،
۱۵۳		کل المسلم علی المسلم حرام،
۴۹۹	رافع بن خدیج	کلما اسفر تم بالفجر،
۵۰۰	رافع بن خدیج	کلما اصبحتم بالصبح،
۱۷۰	ابن عباس	کل مصور فی النار،
۴۵	ابو ہریرہ	کل مولود یولد علی الفطرة،
۴۶۴	عائشہ	كنت اغتسل انا و النبی ﷺ،
۹۷۵	انس	کنا نتقی هذا علی عهد،
۵۴۱	ابن عباس	کنا نجمع بین الصلوتين علی عهد،
۹۷۴	قرة بن ایاس	کنا ننهی ان نصف بین،
۹۵۸	ام عطیہ	کنا نو مر ان نخرج،
۵۹۲	ابو ذر	کیف اتت اذا بقيت فی قوم،
۹۱۱	ابو ذر	کیف اتت اذا كانت علیک،
۵۹۴	ابن مسعود	کیف بکم اذا اتت علیکم،

## ﴿ل﴾

۲۴۸	علی	لأن بهدی الله عزوجل علی یدک
۵۱	ابو رافع	لا الفین احدکم متکأ علی اریکیته،
۵	علی المرتضی	لا اله الا الله،
۵۴۲	ابن عباس	لا ام لك،
۳۷۹	انس،	لا باس بالمنديل بعد الوضوء،
۹۲۰	ایاس بن معاویہ	لا بد من صلوة، بلیل،
۷۶	عمر بن الخطاب	لا تجالسوا اهل القدر،
۷۸۴	ابو مرثد غنوی	لا تجلسوا علی القبور،
۸۹	عمرو بن العاص	لا تحدثوا فی الاسلام، حلفاء،



۲۶۹	ابن عباس	لا تحدثوا من امتی احادیثی،
۱۸۵		لا تدخل الملائكة بیتا فیہ کلب،
۹۸۹	رکاة	لا تزال امتی علی الفطرة،
۴۹	عمر بن الخطاب	لا تزال طائفة من امتی،
۸۶	سمرة بن جندب	لا تساکنوا المشرکین ولا تجامعوهم،
۹۶	انس بن مالک	لا تستضيؤا بنار المشرکین،
۳۶۸	ابن عمر	لا تسرف، لا تسرف،
۲۰	ابو سعید الخدری	لا تسموا ابناء کم حکیم،
۷۸۵	ابن عباس	لا تصلوا الی قبر،
۷۱۵	ابن عباس	لا تضعهما عن یمینک،
۳۱۱	عمر بن الخطاب	لا تفعلی یا حمیراء فانه،
۳۰۴	ابن عمر	لا تقبل الصلوة بغير الطهور،
۳۳۸	ابن عمر	لا تقرأ الحائض ولا الجنب،
۱۱۶	ابو الدرداء	لا تکفروا احدا من اهل القبلة،
۲۷۲	ابن عباس	لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحیم،
۸۶۴	ابن عمر	لا تمنعوا اماء الله،
۴۱۰	عبد الله بن زید	لا تنصرف حتی تسمع صوتا،
۴۲۴	حذیفه	لا حتی تضع جنبک علی الارض،
۱۳۹	ابن عباس	لا صغیره مع الاصرار
۵۹۶	ابو سعید	لا صلوة بعد الصبح حتی ترتفع،
۷۵۷	ابو هریره	لا صلوة لجار المسجد لا فی،
۴۳	عباده بن الصامت	لا ضرر ولا ضرار فی السلام،
۱۶۱	ابو سعید الخدری	لا ضرر ولا ضرار، من ضرار،
۱۱	عمران بن حصین	لا طاعة لأحد فی معصية، الله،



۱۲	انس بن مالک	لا طاعة لمخلوق،
۱۷	ابو ہریرہ	لا ملک الا اللہ ،
۴۰۹	ابو ہریرہ	لا وضوء الا من صوت،
۸۰	انس بن مالک	لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ ،
۸۰۶	ابو مسعود	لا یوم الرجل فی سلطانہ ،
۹۶۷	وقبہ بن عامر	لا یوم عبد قوما،
۲۰۴	انس بن مالک	لا یؤمن احدکم حتی اکون،
۲۱۲	انس بن مالک	لا یؤمن احدکم حتی یحب،
۸۱۶	جابر	لا یؤمن فاجر مو منا،
۳۱۹	ابو ہریرہ	لا ییولن احدکم فی الماء الدائم ،
۴۲۲	ابن عباس	لا یجب الوضوء علی من ،
۱۶۳	ابو ہریرہ	لا یجتمع فی جوف عبید،
۴۸	ابن عمر	لا یجتمع اللہ ہذہ الامۃ،
۱۵۵	انس بن مالک	لا یحل مال امرء مسلم،
۸۰۰	جابر	لا یدخل مسجدنا ہذا بعد،
۸۰۱	جابر	لا یدخل مسجدنا ہذا مشرک ،
۲۳۲	ابو امامۃ الباہلی	لا یتخف بحقہم الا منافق،
۲۲۳	جابر بن	لا یتخف بحقہم الا منافق،
۸۸۹	مغیرہ بن شعبہ	لا یصلی الامام فی مقامہ ،
۹۶۹	ابو ہریرہ	لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد،
۳۰۳	ابو ہریرہ	لا یقبل اللہ صلوۃ احدکم ،
۶۸	حذیفہ بن یمان	لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ ،
۱۶	ابو سعید الخدری	لا یقول العبد لسیدہ مولائی ،
۲۱۴	ابو ہریرہ	لا یلدع المؤمن من جحر واحد،

۷۵۱	ابن عمر	لا یمرفیہ بلحم نئی،
۷۴۵	عثمان بن ابی طلحہ	لا ینبغی ان یکون فی قبلۃ البیت،
۸۴۳	نعمان بن بشیر	لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ ،
۷۹۲	علی	لعن اللہ قوما اتخذوا،
۷۹۳	اسامہ بن زید	لعن اللہ قوما اتخذوا
۱۶۰	علی المرتضیٰ	لعن اللہ من آوی محدثا،
۵۴	علقمہ بن عبداللہ	لعن اللہ الواسمات،
۷۷۹	عائشہ	لعن اللہ الیہود، والنصارى،
۷۸۳	عائشہ	لعنة اللہ علی الیہود، والنصارى،
۷۹۱	عائشہ	لعنة اللہ علی الیہود والنصارى
۴۵۰	عائشہ	لقد كنت اغتسل انا و،
۸۲۳	کعب بن عجرہ	لقد هممت ان آمر رجلا،
۴۳۶	ابو ہریرہ	لولا ان اشق علی امتی لا مرتہم،
۴۳۷	علی	لولا ان اشق امتی لا مرتہم،
۷۵		لکل امة مجوس و مجوس امتی،
۶۲۸	ابن عباس	لم یحجر النبی ﷺ،
۸۹۳	عائشہ	لم یکن النبی ﷺ علی شیء،
۶۰۱	عبداللہ بن زید	لما امر رسول اللہ ﷺ بالناقوس،
۷۷۹	ابن عمر	لما فرغ سلیمان بن داؤد علیہما السلام،
۵۶۶	جابر بن عبداللہ	لما کان یوم الترویۃ توجہوا،
۱۴۲	ابن عمر	لن تزوال قدما شاهد الزور،
۶۳۸	انس	لو ان رجلا دعا الناس الی عرق،
۲۳۱	ابو الدرداء	لو تعلمون ما اعلم،
۸۶۰	ابو ہریرہ	لو یعلم احدکم ما لہ فی،

۸۵۹	ابو جہیم	لو يعلم المار بین یدی،
۸۶۱	عبد الحمید بن عبدالرحمن	لو يعلم المار بین یدی،
۴۴۳	ابو ایوب	لیس شیء اشد علی الملکین،
۶۵۳	جابر	لیس شیء اشد علی الملک،
۶۵۷	ابو ہریرہ	لیس صلوۃ اثقل علی المنافقین،
۹۶۶	عمر	لیس علی من خلف الامام،
۴۲۰	ابن عباس	لیس علی من نام ساجدا،
۴۲۳	عمرو بن شعیب	لیس علی من نام قائما،
۱۰۰۸	ابو قتادہ	لیس فی النوم تفريط،
۱۵۷	ابو ہریرہ	لیس لنا من غشنا،
۱۱۹	ابو ذر الغفاری	لیس من دعا رجلا بالكف،
۲۳۴	عبادۃ بن الصامت	لیس من امتی من لم يعرف،
۱۵۸	علی المرتضیٰ	لیس منا غش مسلما،
۱۵۱	عبد اللہ بن مسعود	لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان،
۳۴۳	ابن عباس	الذی یأتی امرأته
		﴿م﴾
۲۲۲	مقدام بن معد یکرہ	ما اطعت زوجتک
۱۲۰	ابو سعید الخدری	ما اکفر رجل رجلا قط الالباء،
۴۷۶	ابن عباس	ما امرت بتشیید المساجد،
۳۲۷	عائشۃ الصدیقہ	ما امرت کلما بلت ان اتوضأ
۲۴۹	ابن عباس	ما انت محدث قوما حدیثا،
۶۶۲	ابو ہریرہ	ما بین المشرق والمغرب قبلہ،
۵۱۵	ابن عمر	ما جمع بین المغرب والعشاء،
۲۶۸	ابن عباس	ما حدث احدکم قوما لحديث،

۸۵۶	مقداد بن الاسود	ما رأیت صلی الی عود
۵۱۳	عبد اللہ بن مسعود	ما رأیت صلی صلوۃ لغير میقاتہا،
۵۱۴	عبد اللہ بن مسعود	ما رأیت صلی صلوۃ لغير میقاتہا،
۷۱۰	جابر بن سمرہ	مالی اراکم رافعی ایدیکم،
۶	انس بن مالک	ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ،
۹۲۲	عائشۃ الصدیقۃ	ما من امرء تكون صلوۃ اللیل،
۹۶۳	اسماء بنت ابی عمر	ما من شیء لم اکن رأیتہ،
۶۵۲	انس	ما من صباح ولا رواح،
۷۷۲	انس	ما من صباح ولا رواح،
۹		ما من عبد قال: لا الہ الا اللہ،
۱۴۴		ما من عبد قال: لا الہ الا اللہ،
۱۳۵		ما منکم من احد الا و قد،
۴۰۱	عقبہ بن عامر	ما من مسلم یتوضا
۳۸۵	ابن عمرو	ما هذا اسرف،
۲۵۰		مثل العالم الذی یعلم،
۲۵۱		مثل من یعلم الناس،
۶۳۵	ابن عمر	مروا اولادکم بالصلوۃ،
۶۳۴	عمرو بن شعیب	مروا صبیا نکم،
۱۰		معاذ اللہ ان اعبد غیر اللہ،
۱۴۹		معلون من یعمل عمل قوم لوط،
۱۰۹		من آذی ذمیا فاناا خصمه،
۱۵۲		من آذی مسلما فقد آذانی،
۳۴۵		من اتی امرأته فی حیضہا،
۹۲۳	ابو درداء	من اتی فراشه وهو ینوی،

۷۵۵	عبد اللہ بن حفص	من اجاب داعی اللہ ،
۲۱۹	عائشة الصدیقہ	من احب شیئاً اکثر
۶۲	بلال	من احیی سنة من سنتی ،
۶۳	عمرو بن عوف	من احیی سنة من سنتی ،
۶۱	انس بن مالک	من احیی سنتی فقد احبنی ،
۵۸	ابن عمر	من اخذ بسنتی فهو لی ،
۷۵۸	عثمان بن عفان	من ادرك الاذان فی المسجد،
۱۶۲	سهل بن حنیف	من اذل عنده مؤمن فلم ينصره ،
۳۲۶	خزیمہ بن الثابت	من استطاب بثلاثة احجاز،
۲۱۳	جابر بن عبد اللہ	من استطاع منكم ان ينفع اخاه ،
۲۶۰	ابن عباس	من استعمل رجلاً من عصابة ،
۱۶۸	ابو ہریرہ	من اعان على قتل مومن ،
۷۵۰	جابر	من اكل البصل والثوم ،
۲۶۱	ابو ہریرہ	من اكل بالعلم طمس اللہ،
۷۴۹	ابو سعید	من اكل من هذه الشجرة،
۱۱۱	ابن عباس	من بدل دينه فاقتلوه ،
۷۴۴	عثمان	من بنى مسجد الله نبي الله له ،
۷۴۲	علی	من نبى لله مسجدا بنى الله له،
۸۵۱	معاذ بن انس	من تخطى رقاب الناس ،
۴۸۳	عمر	من ترك الصلوة فلا دين له ،
۶۴	ابن عباس	من تمسك بسنتی ،
۵۰	بعض الصحابة	من تواضع لعنتی لاجل غناه ،
۳۶۱	ابو غطفیف	من توضأ على طهر كتب الله ،
۳۶۳	عثمان	من توضأ فاحسن الوضوء،



۳۷۵	ابو ہریرہ	من توضاً فمسح،
۳۶۶	ابو ہریرہ	من توضاً و ذکر اسم اللہ،
۸۵	سمرہ بن جندب	من جامع المشرک و سکن معہ،
۴۸۱	حنظلہ الکاتب	من حافظ علی الصلوات
۵۷	جابر بن عبد اللہ	من خالف سنتی فلیس منی
۲۴۴	انس بن مالک	من خرج فی طلب العلم
۳۱۵	ابن عباس	من خیل لہ فی صلاتہ
۶۷	ابو ہریرہ	من دعا الی ضلالہ
۳۶۷	حسن ضبی	من ذکر اللہ عند الوضوء
۱۶۶	ابو الدرداء	من ذکر عمران بشیء لیس فیہ
۵۶	ابو ایوب الانصاری	من رغب عن سنتی فلیس منی
۸۰۷	مالک بن حویرث	من زار قوما فلا یؤمهم
۱۳۰	ابن عمر	من سلم علی صاحب بدعة
۷۷	عمران بن حصین	من سمع بالدجال فلیناً عنہ
۷۴۷	ابو ہریرہ	من سمع رجلاً ینشد ضالۃ
۶۹	ابو جحیفہ	من سن سنة حسنة
۹۷	عبد اللہ بن مسعود	من سود مع قوم فهو منهم
۶۶۷	جابر بن عبد اللہ	من صلی خلف الامام
۶۶۸	جابر بن عبد اللہ	من صلی خلف الامام
۶۶۶	جابر	من صلی رکعة لم یقرء
۶۹۳	عبدالرحمن	من صلی صلوة یشک فی
۶۵۸	انس بن مالک	من صلی صلوات لوقتها
۱۰۱۴	بعض الصحابة	من صلی روح محمد ﷺ
۱۰۰۹	انس	من صلی علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ



۶۵۴	عثمان	من صلی العشاء فی جماعة
۷۱۹	ابو ہریرہ	من صلی فی ثوب واحد،
۸۹۸	عمران	من صلی قائما فهو افضل
۱۷۴	ابن عباس	من صور صورة فان الله،
۲۵۵	ابو امامہ	من علم عبدا آية من،
۶۱۵	صدیق	من فعل مثل ما فعل خلیلی،
۹۳۸	علی	من قال يوم الجمعة لصاحبه،
۶۸۰	زید بن ثابت	من قرء خلف الامام فلا صلوة له،
۱۳	علی المرتضی	من كان يحب ان يعلم منزلة،
۹۷	عبداللہ بن مسعود	من كثر سواد قوم فهو منهم،
۸۹۴	ابو ہریرہ	من لم يصل ركعتي الفجر،
۵۵	عائشہ الصدیقہ	من لم يعمل بسنتی،
۷۲	معاذ بن جبل	من مشی الى صاحب بدعة،
۶۸۹	سہل بن سعد،	من نابہ شیء فی صلوتہ،
۱۰۰۷	انس	من نسی صلوة او نام،
۱۰۰۱	انس	من نسی صلوة فليصلها،
۱۰۰۴	ابو ہریرہ	من نسی صلوة فوقتها اذا ذكرها،
۸۴۵	ابن عباس	من نظر الى فرجة في الصف،
۷۱	عبد اللہ بن بسر	من وقر صاحب بدعة اعان،
۸۲۷	ابو سعید	من يتصدق على ذا،
۹۳۹	ابن عباس	من يتكلم يوم الجمعة،
۱۸۱	عائشہ الصدیقہ	من اشد الناس عذا با يوم القيامة،
۶۳۹/۱	قیس بن عمر	مهلا يا قيس، اصلا تان معا۔

## ﴿ن﴾

۵۰۱	رافع بن خدیج	نا دوا الصلوة الصبح حتی ،
۲۶۴	انس بن مالک	نضر اللہ عبدا سمع مقاتلی ،
۶۷۶	انس ،	نعم اذا رأت الماء ،
۷۱۱	سلمہ بن اکوع	نعم وازردہ ولو بشوكة ،
۳۱۲	عبد اللہ بن سرجس	نہی ان تغتسل المرأة بفضل ،
۳۳۶	جابر بن عبد اللہ	نہی ان یبول الرجل قائما ،
۸۴	جابر بن عبد اللہ	نہی ان یصافح المشركون ،
۸۱۵	ابو مسعود	نہی ان یقوم الامام ،
۵۹۵	عمر	نہی عن الصلوة بعد الصبح ،
۵۹۷	ابو ہریرہ	نہی عن الصلوة بعد العصر ،
۷۸۶	انس	نہی عن الصلوة علی القبر ،
۹۷۰	جابر	نہی عن الصلوة فی ،
۲۱۸	حذیفہ بن الیمان	نہی المؤمن ان یذل نفسه ،
۲	انس بن مالک	نية المؤمن خیر من عملہ ،
۶۹۹	ابی بن کعب	النور یوم القيامة ،

## ﴿و﴾

۸۴۶	ابو ہریرہ	وسطوا الامام وسدو الخلل ،
۷۰۳	ابن عمر	وضع رسول اللہ ﷺ کفہ الیمنی ،
۳۷۳	میمونہ	وضعت للنبی ﷺ غسلا ،
۴۹۰	عبد اللہ بن عمرو	وقت صلوة الظهر مالم یحضر ،
۴۸۸	عبد اللہ بن عمرو	وقت الظهر اذا زالت ،
۸۲۲	ابو ہریرہ	والذی نفسی بیدہ لقد هممت ،

۶۳۷	ابو ہریرہ	والذی نفسی بیدہ لو یعلم،
۱۴	ابو ہریرہ	واللہ ! لان یهدی اللہ بک
۲۹	جبیر بن مطعم	ویحک اتدری ما تقول،
۱۲۲	ابو سعید الخدری	ویلک و من يعدل اذا لم اعدل،



۳۴۸	ابن عباس	ہکذا رأیت رسول اللہ ﷺ يتوضأ،
۵۸۷	ابن عمر	ہکذا رأیت رسول اللہ ﷺ يفعل،
۷۸۹	ابن عمر	ہکذا رأیت رسول اللہ ﷺ يفعل
۷۳۵	ابن مسعود	ہکذا فعل رسول اللہ ﷺ،
۵۳۲	علی	ہکذا کان یصنع،
۵۲۸	ابن عمر	ہکذا کنا نصنع،
۳۶۰	عمرو بن شعیب	ہکذا الوضوء فمن زاد،
۶۵۰	ابن مسعود	هل تدرون ما يقول ربکم،
۸۲۴	ابو ہریرہ	هل تسمع النداء بالصلوة،
۸۲۵	ابن ام مکتوم	هل تسمع حی علی الصلوۃ،
۵۹۰	سعد بن ابی وقاص	هم الذین يؤخرون الصلوۃ،



۹۲۵	ابو قتادہ	یا ابا بکر! مررت بک،
۷۹	ابوذر الغفاری	یا ابا ذر! تعوذ باللہ،
۶۲۶	علی	یا ابن ابی طالب، ! انی اراک،
۲۷۰	ابن عباس	یا ابن عباس! لا تحدث قوما حدیثا
۲۳	ابو موسی الاشعری	یا ایہا الناس! اربعوا علی انفسکم
۹۶۲	جابر	یا ایہا الناس! انما الشمس و القمر،

۹۲۶	ابو ہریرہ	یا بلال ! انت تقرء من هذه ،
۳۰۹	ابن عمر	یا صاحب المقرأة، ! لا تخبره ،
۱۷۹	عائشة الصديقة	یا عائشة ! اشد الناس عذابا عند الله ،
۳۸۷	ابن شہاب	یا عبد الله ! لا تسرف،
۹۲۹	ابن عمرو	یا عبد الله ! لا تكن مثل فلان ،
۱۹۴	جابر بن عبد الله	یا عمر،! الم آمرک ان لا تدع،
۳۳۵	عمر بن الخطاب	یا عمر! لا تبلى قائما
۴۱۴	ابن عباس	یأتى احدکم الشیطان ،
۱۲۱	علی المرتضی	یأتى فی آخر الزمان، قوم،
۲۷	ابن عمر	یا خذ الجبار سمواته ،
۱۷۵	ابو ہریرہ	یخرج عنق من النار یوم القيامة ،
۱۲۳	ابو سعید الخدری	یخرج ناس من قبل المشرق،
۲۶	ابو ہریرہ	ید الله ملأی،
۲۵	ابو موسی الاشعری	ید الله یسطان ،
۲۸	ابن عمر	یطوی الله تعالی السموات،
۶۲۹	ابن عمر	یغفر للمؤذن منتهی ،
۷۸	ابو ہریرہ	یکون فی آخر الزمان دجالون ،
۱۲۹	ابو ہریرہ	یکون فی آخر الزمان دجالون ،
۵۵۴	معاذ بن جبل	یوشک یا معاذ! ان طالت،

www.alahazratnetwork.org

OY OY OY OY OY OY OY  
OY OY OY OY OY OY OY

## آثار الصحابة والتابعين

٩٠٦	ابو بكر الصديق	اتق الله يا عمر،!
٣٦٩	ابو بكر الصديق	اذا تطهر الرجل ،
٣٦٨	ابو بكر الصديق	اذا توضأ العبد فذكر اسم الله ،
٧٦٩	ابو بكر الصديق	انما بنيت للذكر ،
٧٥٦	عمر الفاروق	اتدرى اين انت،
٥١٦	عمر الفاروق	ان الجمع بين الصلوتين فى وقت
٤٨٥	عمر الفاروق	ان اهم امر كم عندى الصلوة،
٥١٧	عمر الفاروق	ثلث من الكبائر، الجمع بين ،
٥٤٤	عمر الفاروق	جمع عمر بين الظهر والعصر،
٧٨٨	عمر الفاروق	القبر اما مك،
٥٢٤	عمر الفاروق	كنيف ملئ علما،
٦٥٥	عمر الفاروق	لان اشهد صلوة الصبح،
٦٥٦	عمر الفاروق	لان اشهد صلوة الصبح،
٨٢٠	عمر الفاروق	لم ار سليمان فى صلوة الصبح ،
٦٨٤	عمر الفاروق	ليت فى فم الذى يقرء خلف،
٦٦٣	عمر الفاروق	ما بين المشرق والمغرب قبله ،
٧٧١	عمر الفاروق	من اراد ان يلفظ او ينشد،
٦٩٢	على المرتضى	اذا استطعكم الا امام فاطمونه،
٦٩٨	على المرتضى	اذا صلت المرأة فلتحتفز،
٣٧٤	على المرتضى	ان تحت كل شعرة جنابة ،
٣٣٥	على المرتضى	انه اذا توضأ يسوك فاه باصبعه ،



- ۴۹۷ کان علی بن ابی طالب یصلی بنا، علی المرتضیٰ
- ۹۳۵ لا جمعة ولا تشریق الا فی ، علی المرتضیٰ
- ۶۹۱ من السنة ان تفتح علی الامام، علی المرتضیٰ
- ۶۴۱ من لم یصلی فهو کافر، علی المرتضیٰ
- ۷۸۲ نور الله علی عمر قبره ، علی المرتضیٰ
- ۵۱۰ هذا الکلب یعلمنا السنة ، علی المرتضیٰ
- ۳۸۱ یا ابن عباس! الا اریک کیف کان ، علی المرتضیٰ
- ۸۳۵ اخرو هن من حیث اخرهن، عبد الله بن مسعود
- ۵۴۶ اذا بادر علیکم الحاجة ، عبد الله بن مسعود
- ۶۷۰ انصت فان فی الصلوة لشغلا ، عبد الله بن مسعود
- ۴۱۶ ان الشیطان یطیف باحدکم، عبد الله بن مسعود
- ۴۱۷ ان الشیطان یطیف باحدکم ، عبد الله بن مسعود
- ۷۶۶ ان من سنن الهدی الصلوة فی ، عبد الله بن مسعود
- ۷۶۴ حافظوا علی هؤلاء الصلوات، عبد الله بن مسعود
- ۶۷۱ کان لا یقرء خلف الامام، عبد الله بن مسعود
- ۶۶۹ لم یقرء خلف الامام، عبد الله بن مسعود
- ۶۴۳ من ترک الصلوة فلا دین له ، عبد الله بن مسعود
- ۷۶۲ ولو انکم صلیتم فی بیوتکم، عبد الله بن مسعود
- ۵۱۲ هذا والله وقت هذه الصلوة ، عبد الله بن مسعود
- ۵۲۲ لا جمع بین الصلوتین الا بعرفة ، عبد الله بن مسعود
- ۹۷۶ لا تصفوا بین الاساطین، عبد الله بن مسعود
- ۸۴۹ لا یصلین احدکم بینہ و بین ، عبد الله بن مسعود
- ۵۷۲ اذا کنتم سائرین فتابک، عبد الله بن عباس
- ۴۰۰ اذا وجدت شیئا من البلة ، عبد الله بن عباس



۵۳۹	عبد اللہ بن عباس	انہ صلی بالبقرۃ الاولیٰ ،
۳۸۳	عبد اللہ بن عباس	انہ قرءھا وارجلکم بالنصب
۵۷۱	عبد اللہ بن عباس	انہ کان اذا نزل منزلا ،
۳۷۴	عبد اللہ بن عباس	انہ کرہ ان یمسح بالمندیل ،
۶۴۲	عبد اللہ بن عباس	من ترک الصلوۃ فقد کفر ،
۹۶۰	عبد اللہ بن عباس	من السنۃ ان لا ینخرج یوم الفطر ،
۴۸۹	عبد اللہ بن عباس	وقت الظہر الی العصر ،
۷۳۷	عبد اللہ بن عباس	الجہر بیسم اللہ الرحمن الرحیم ،
۸۳۴	انس بن مالک	صلیت انا و الیتیم فی بیتنا ،
۶۸۸	انس بن مالک	کنا نفتح علی عہد رسول اللہ ﷺ ،
۳۸۹	انس بن مالک	لا خیر فی صلب الکثیر ،
۹۹۹	عبد اللہ بن عمر	اتحب العمامۃ قلت: سالم ،
۶۷۵	عبد اللہ بن عمر	اذا صلی احدکم خلف الامام ،
۷۳۴	عبد اللہ بن عمر	الیس لك ثوبان ،
۸۹۷	عبد اللہ بن عمر	انہ جاء والامام یصلی ،
۵۸۸	عبد اللہ بن عمر	انہ لم یرا بن عمر جمع بینہم ،
۷۷۶	عبد اللہ بن عمر	ان المسجد کا علی عہد ،
۹۱۴	عبد اللہ بن عمر	انما ذلک الی اللہ یجعل ،
۶۷۷	عبد اللہ بن عمر	تکفیک قرأۃ الامام ،
۵۸۱	عبد اللہ بن عمر	حین جمع سارحتی غاب الشفق ،
۸۹۱	عبد اللہ بن عمر	کان ابن عمر یصلی فی مکانہ ،
۵۸۳	عبد اللہ بن عمر	کان اذا جد بہ السیر جمع ،
۶۷۲	عبد اللہ بن عمر	لم یکن الصدقۃ علی عہد رسول اللہ ﷺ ،
۶۷۶	عبد اللہ بن عمر	من صلی خلف الامام کفتہ

۴۷۲	ابو سعید خدری	كان طعامنا يو ميذ الشعيو،
۴۷۱	ابو سعید خدری	لما كثر الطعام فى زمن معاوية،
۴۵۲	جابر بن عبد الله	كان يكفى من هوا و فى منك،
۴۵۱	جابر بن عبد الله	يكفى من الغسل من الجنابة،
۶۰۴	عبد الله بن زيد انصارى	رأيت رجلا عليه ثوبان،
۶۰۲	عبد الله بن زيد انصارى	رأيت فيما يرى النائم،
۵۲۳	حذيفه	برسول الله ﷺ عبد الله
۶۱۳	حسن بن على	من قال حين يسمع المؤذن،
۸۴۸	سهل بن سعد	كان بين مصلى و بين الجدار،
۶۴۵	ابو الدرداء	لا ايمان لمن لا صلوة له،
۶۷۸	زيد بن ثابت	لا يقرء المؤتم خلف الامام،
۶۷۹	زيد بن ثابت	من قرء خلف الامام فلا صلوة،
۶۸۳	سعد بن ابى وقاص	وددت ان الذى يقرء خلف،
۸۸۵	سائب بن يزيد	لقد رأيت الناس فى زمن عمر،
۸۲۱	عفيف الكندى	يا عباس! امر عظيم،
۹۲۴	حجاج بن عمرو	يحسب احدكم اذا قام من الليل،
۳۵۲	ربيع بنت معوذ	اتانى ابن عباس فسألنى عن هذا،
۴۶۰	ربيع بنت معوذ	وضأت رسول الله ﷺ،
۸۶۷	ام المومنين حفصه	كنا نمنع عوا تقنا ان يخرجن،
۸۶۹	ام المومنين عائشه	لو ادرك رسول الله ﷺ، ما احدث،
۹۳۶	عطا بن ابى رباح	القرية الجامعة ذات الجماعة،
۳۸۴	عطا بن ابى رباح	لم ارا احدا يمسح على القدمين،
۵۱۹	عبد الرحمن بن يزيد	حج عبد الله فأتينا المزدلفة،
۵۱۸	عبد الرحمن بن يزيد	خرجت مع عبد الله الى مكة،

- كان عبد الله يؤخر الظهر ويعجل العصر، عبد الرحمن بن يزيد ۵۳۴
- ان وائل رأى مرة يفعل ذلك، ابراهيم النخعي ۷۰۹
- الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة، ابراهيم النخعي ۷۳۱
- صليت مع الرضا في العصر، ابراهيم النخعي ۵۱۱
- كانت الصديقة تؤمر النساء، ابراهيم النخعي ۸۱۸
- كانت الصلوة في العيدين، ابراهيم النخعي ۹۵۶
- كنا نجمع بين الظهر و العصر، ابراهيم النخعي ۵۳۳
- ما اجتمع كما اجتمعوا على التنوير، ابراهيم النخعي ۵۰۲
- ما ادركت احد يجهر، ابراهيم النخعي ۷۳۲
- انا اعرابي ان جهرت ببسم الله، عكرمه مولى ابن عباس ۷۲۹
- المؤذنون اطول الناس اعناقا، مجاهد ۶۲۸
- انما يفعل ذلك الاعراب، حسن البصري ۷۲۰
- اللهم احفظ حدقتي، طاؤس ۶۱۴
- من قال حين يسمع، خضر ۶۱۶
- يا شعيب! لا ينفعك ما كتبت، سفيان الثوري ۷۳۳
- ان ام المومنين امتهن وقامت، ريطه حنفيه ۸۱۹
- ان اول من قرء خلف الامام، علقمه بن قيس ۶۷۴
- لأن اعرض على جمرة، علقمه بن قيس ۶۷۳
- لم يقرء علقمة خلف الامام، علقمه بن قيس ۶۷۲

OYOYOYOYOYO  
OYOYOYO

# فهرس اطراف الحديث والآثار

## (المجلد الثانی)

### ﴿الف﴾

١٠٨٤	ابن عباس	آخر ما كبر النبي ﷺ على،
١٦١٨	ابن عمر	البغض الحلال الى الله تعالى،
١٠٤٣	جابر	اتى النبي ﷺ عبد الله بن ابي اوفى،
١٢٦٨	ابو عسيب	اتانى جبرئيل بالحمى والطاعون،
١٣٤٣	ابو بكر	اتقوا النار ولو بشق،
١٧١٠	جابر	اتيت النبي ﷺ وهو فى المسجد،
١٨٢٨	ابن مسعود	اثنا عشرة كعدة نقباً،
١٨٨٢	وحشى	اجتمعوا على طعامكم،
١٨٠٠	سعيد	اجلدوه ضرب مائة سوط،
١٦٥٢	ابو حمير	اجملوا فى طلب الدنيا،
١٤٠١	ابو هريره	احصوا هلال شعبان لرمضان،
١٦٤٤	ابو تميمه	اختك هى،
١٠٨١	عاصم بن عمر	اخذ الرابة زيد بن حارثه،
١٧٩٨	عائشه	ادراء الحدود عن المسلمين،
١٠٥٦	ابو هريره	ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين،
١٦١٤	عتبه بن عبد سلمى	اذا اتى احدكم اهله،
١٦٧٢	ابى بن كعب	اذا اختلف النوعان،
١٨٧٨	ابن عمر	اذا اضطررتم اليها فاعسلوها،
١٧٥٤	ابن عمر	اذا اعتملت هذه الاسقيه،

۱۴۴۳	عمر	اذا اقبل الليل من ههنا،
۱۸۶۰	انس	اذا اكلتم الطعام فاخلعوا،
۱۸۰۶	ابن عمر	اذا تبا يعتم بالعينة،
۱۱۷۲	ابن عمر	اذا تصدق احدكم بصدقة،
۱۴۸۳	زيد بن ارقم	اذا حج الرجل عن والديه،
۱۸۵۵	ابو سعيد	اذا رأى احدكم الرؤيا،
۱۸۵۷	جابر	اذا رأى احكم الرؤيا،
۱۲۶۷	عبد الرحمن بن عوف	اذا سمعتم به بارض،
۱۲۶۰	عبد الرحمن بن عوف	اذا سمعتم الطاعون بارص،
۱۱۱۶	عبد الرحمن بن عوف	ذا غسلتموني وكفنوني،
۱۴۵۹	عبد الرحمن بن عوف	اذا قرب الى احكم الطعام،
۱۸۹۱	انس	اذا كثرت ذنوبك فاسق،
۱۰۳۰	ابن عمر	اذا امات احدكم فلا تحبسوه،
۱۱۷۰		اذا مات الانسان انقطع،
۱۰۹۳	جابر	اذا مات الرجل من اهل،
۱۱۶۴	عائشه	اذا مات صاحبكم فدعوه
۱۰۲۵	ابو موسى	اذا مات ولد العبد،
۱۱۹۸	ابو هريره	اذا مر الرجل بقبر بعرفه،
۱۱۸۷	ابو سعيد	اذا وضعت الجنازة واحتملت،
۱۲۸۴	محمود بن لبيد	اذا هبط واديا فاهبطوا غيره،
۲۶۲۳	عائشه	اتريدن ان ترجعى الى رفاعه،
۱۱۴۷	انس	اتقى الله واصبرى،
۱۲۲۱	ابو هريره	اثنتان فى الناس هما بهم كفر،
۱۳۶۸	زياد بن نعيم	اربع فرضهن الله،



۱۳۷۸	یعلیٰ بن عطا	ارجع فقد بايعناك،
۱۳۸۷	سلمان	استكثروا فيه من اربع،
۱۳۵۴	سهل بن سعد	اسماع الاصم صدقة،
۱۷۱۲	ابو هريره	اشتروا له بغير فاعطوه،
۱۷۵۷	ابو موسى	اشربا ولا تسكرا،
۱۶۱۰	سائب بن يزيد	اشيدوا بالنكاح،،
۱۳۸۲	عبد الله بن بسر	اطلبوا الحوائج بعزة الانفس،
۱۵۴۱	رجل من الصحابه	اعطها درعك الحطيمه،
۱۵۷۵	عائشه	اعظم الناس حقا على المرأة،،
	عائشه	اعلنوا هذا النكاح،
۱۳۸۸	ابو هريره	اغزوا تغنموا،
۱۰۳۷	ام عطيه	اغسلها ثلاثا او خمسا،
۱۸۹۲	عمر	افضل الاعمال ادخال السرور،
۱۰۴۶	جابر	افضل الدعا الحمد لله،
۱۳۳۹	ابو امامه	افضل الصدقة سرا،
۱۴۲۲	انس	افضل الصوم بعد رمضان،
۱۴۵۴	انس	افطروا مرة مع رسول الله ﷺ،
۱۷۳۰	ابو امامه	اقسم ربي لعزته،
۱۷۰۵	ابو هريره	اكل تمر خبير هكذا،
۱۵۴۵	ابو هريره	اكمل المؤمنين ايمانا،
۱۶۸۰	جابر	الم تر الى العمال،
۱۲۵۴	ابو هريره	اللهم ! اجعل فناء امتي،
۱۲۵۵	ابو موسى	اللهم ! اجعل فناء امتي،
۱۱۲۵	حارث بن نوفل	اللهم ! اغفر لاخواننا،



۲۸۱۱	ابراہیم بن اشہل	اللہم ! اغفر لا ولنا،
۱۴۷۸	ابو ہریرہ	اللہم ! اغفر للحاج،
۱۱۷۳	حصین بن وحوح	اللہم ! الق طلحة و یضحک الیک،
۱۱۲۴	ابو ہریرہ	اللہم ! انت ربہا،
۱۱۲۹	ابو حاصر	اللہم ! انک خلقتنا و نحن،
۱۶۴۵	مغیرہ بن شعبہ	امراۃ المفقود، امراۃ حتی،
۱۳۲۵	ابو ہریرہ،	اما علمت انا لا ناکل صدقۃ،
۱۵۱۶	حمید الطویل	اما واللہ انی لا خشا کم،
۱۳۱۱	ابن مسعود	امرنا باقام الصلوۃ،
۱۵۲۲	ابو ہریرہ	انا اول من یفتح باب الجنۃ،
۱۳۲۶	ابو لیلی	انا اهل البيت لا یحل لنا الصدقۃ،
۱۲۲۶		انا برئ ممن حلق و سلق
۱۵۱۹	عوف بن مالک	انا و امراۃ سفعاء الحذین،
۱۱۳۹	بعض الصحابۃ	انس ما یكون للمیت فی قبرہ،
۱۵۸۹	ابو ذر	انظر فانک لست بخیر،
۱۶۸۲	عبادہ	ان سرک ان تطوق،
۱۶۵۶	کعب بن عجرہ	ان کان قد خرج معی،
۱۸۷۹	ابو ثعلب	ان وحدثم غیرہا، فلا تا کلوها،
۱۸۸۰	ابو ثعلب	ان وحدثم غیرہا فلا تا کلوها،
۱۸۰۲	عمرو بن عبسہ	ان تجہر ما کرہ ربک،
۱۸۱۵	صعصعہ بن صوحان	ان یعلم اللہ فیکم خیر،
۱۳۲۴	ابو رافع	ان آل محمد لا تحل،
۱۳۲۰	حسن بصری	ان آل محمد لا تحل،
۱۴۱۲	ابن عمر	انا امة امیہ،

۱۸۷۲	ابو ثعلبہ	انا نغروا رض العدو،
۱۶۹۸	عبد اللہ بن سلام	ان ابواب الربا اثنان و سبعون،
۱۴۴۱	ابن عمر	ان احب الصيام الى الله تعالى،
۱۸۸۶	جابر	ان احب الطعام الى الله تعالى،
۱۶۷۸	بن عباس	ان احق ما اخذتم عليه اجرا،
۱۰۷۲	عمران	ان اخاكم النجاشي توفي،
۱۵۲۴	سلمہ بنت جابر	ان اسرع امتي بي تحونا،
۱۶۴۹	عائشہ	ان اطيب ما اكلتم من كسبكم،
۱۰۹۸	جابر	ان اول تحفة المؤمنين،
۱۰۹۴	سلمان	ان اول ما يشر به،
۱۰۹۷	ابن عباس	ان اول يجازي به،
۱۲۹۲	علقمہ	ان تمام اسلامكم ان،
۱۱۶۶	عائشہ	ان جبرئيل اتاني،
۱۰۷۷	ابو امامہ	ان جبرئيل اتى،
۱۰۸۷	ابو امامہ	ان جبرئيل اتى،
۱۰۷۹	انس	ان جبرئيل اتى،
۱۰۸۰	انس	ان جبرئيل اتى،
۱۵۷۲	ابن عباس	ان حق الزوج على الزوجة،
۱۷۱۱	ابو ہریرہ	ان خياركم احسنكم قضاء،
۱۰۱۸	ابن مسعود	ان روح القدس نفث،
۱۶۵۴	ابو امامہ	ان روح القدس لفث في روعي،
۱۱۶۹	جابر بن عتيك	ان رسول الله ﷺ اخذ بيد رجل،
۱۸۶۵	انس	ان رسول الله ﷺ امرنا ان،
۱۴۹۱	ابن عمر	ان رسول الله ﷺ صلى المغرب والعشاء،

۱۱۳۰	انس	ان رسول اللہ ﷺ کان یأتی احدا،
۱۳۹۳	عائشہ	ان رسول اللہ ﷺ کا یدرکہ الفجر،
۱۳۸۳	عمر	ان رسول اللہ ﷺ کان ینفق،
۱۱۴۴	ابن عباس	ان رسول اللہ ﷺ لعن زائرات،
۱۴۰۰	سعید بن فیروز	ان رسول اللہ ﷺ مدہ للرویۃ،
۱۰۷۵	ابو ہریرہ	ان رسول اللہ ﷺ لعنی للناسی،
۱۰۷۰	ابو ہریرہ	ان رسول اللہ ﷺ نعٰی لہم،
۱۲۳۵	جابر بن عتیک	ان شہداء امتی اذا لقلیل،
۱۳۴۰	عمرو بن عوف	ان صدقۃ المسلم تزد،
۱۰۴۲	ابن عمر	ان عبد اللہ بن ابی لم توفی،
۱۸۵۹	عائشہ	ان کثرۃ الاکل شؤم،
۱۶۰۹	عائشہ	ان کسر عظم المیت،
۱۸۷۰	ام سلمہ	انکم تختصمون الی،
۱۸۷۰	رائطہ	ان لعوق القصعہ،
۱۹۳۶	ابن عباس	ایما یحرم من المنیۃ،
۱۸۰۴	عمر	انما لا مرء مانوی،
۱۶۵۵	ابو ہریرہ	ان من الذنوب ذنوبا،
۱۸۷۲	قیصہ	ان من الطعام طعاما،
۱۰۷۶	حذیفہ بن اسید	ان نبی اللہ ﷺ بلغۃ،
۱۱۶۷	عقبہ	ان نبی اللہ ﷺ خرج یوم،
۱۰۷۱	جابر	ان نبی اللہ ﷺ صلی علی النجاشی،
۱۸۱۹	ابو موسیٰ	ان هذا الامر فی قریش
۱۸۱۸	معاویہ	ان هذا الامر فی قریش،
۱۲۶۳	عبدالرحمن بن غنم	ان هذا الطاعون دعوة،

۱۶۵۱	خولہ بنت قیس	ان هذا المال خضرة حلوة ،
۱۳۱۹	عبد المطلب بن ربيعة	ان هذه الصدقات انما ،
۱۲۲۵	ابو هريره ،	ان هذه النوائح يجعلن ،
۱۵۴۴	انس	ان الله تعالى امرني ان ازوج ،
۱۳۸۰	مغيره	ان الله تعالى حرم عليكم ،
۱۶۰۳	عائشه	ان الله تعالى حرم من الرضاعة ،
۱۵۰۶	جابر بن سمره	ان الله تعالى سمى المدينة طابة ،
۱۳۶۱	سعد بن وقاص	ان الله تعالى طيب ولا يقبل الا الطيب ،
۱۵۴۵		ان الله تعالى لم يجعل شفاء ،
۱۳۱۵	ابن عباس	ان الله تعالى لم يفرض الزكوة الا ،
۱۳۴۶	انس	ان الله تعالى ليدرء بالصدقة ،
۱۳۳۷	عائشه	ان الله تعالى ليربى لا حدكم ،
۱۸۸۹	حسن بصرى	ان الله تعالى يباهى ،
۱۶۵۹		ان الله تعالى يحب العبد المومن
۱۴۴۴		ان الله تعالى يقول : ان احب
۱۷۱۸		ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا
۱۶۰۹	ابن عباس	ان الانصار قوم فيهم ،
۱۵۰۳	ابو هريره	ان الايمان ليأرز الى المدينة ،
۱۶۹۱	انس	ان الدرهم يصيبه الرجل ،
۱۶۹۵	اسود بن وهب	ان الربا ابواب ،
۱۷۰۰	ابن عباس	ان الربا نيف و سبعون ، بابا ،
۱۸۵۲	انس	ان الرسالة والنبوة ،
۱۰۲۱	ام سلمه	ان الروح اذا قبض تبعه ،
۱۲۴۴	حبان بن حيله	ان الشهيد اذا تشهد ،

۱۳۲۱	ابن عباس	ان الصدقة حرام علی محمد،
۱۳۳۱	عبدالمطلب بن ربیعہ	ان الصدقة لا تنبغی لآل محمد
۱۳۴۲	انس	ان الصدقة لتطفی،
۱۳۴۱	انس	ان الصدقة وصلة،
۱۲۵۹	معاذ،	ان الطاعون رحمة لکم،
۱۵۱۱	بعض الصحابة	ان الکعبة تحشر کالعروس،
۱۵۴۹	محمد بن عبداللہ	ان للزوج من المرأة،
۱۲۳۸	عبادہ	ان للشہید عند اللہ سبع خصال،
۱۵۴۷	ابو ہریرہ	ان المرأة، خلقت من ضلع،
۱۴۱۷	عائشہ	ان الملائکۃ، لتصافح رکاب،
۱۸۲۴	ابو ہریرہ	ان الملك فی قریش، ،
۱۰۲۱	ابن مسعود	ان الملك المؤکل علی الرحم،
۱۲۰۱	ابن عباس	ان الميت اذا دفن یسمع،
۱۱۹۹	انس	ان الميت اذا وضع قبره،
۱۲۱۴	ابن عمر	ان الميت لیعذب۔
۱۲۱۵	عمر	ان الميت لیعذب،
۱۲۱۶	ابن عمر	ان الميت لیعذب،
۱۲۱۷	ابن عباس	ان الميت لیعذب یبعض بکاء الہ ،
۱۲۱۸	عمران	ان الميت لیعذب یمکاء الحی ،
۱۲۰۰	براء بن عازب	ان الميت یسمع خفق نعابهم،
۱۸۶۴	جابر	ان النبی ﷺ امر بلعق،
۱۸۰۷	ابو طلحہ	ان النبی ﷺ امر یوم بدر،
۱۹۲۶	علی	ان النبی ﷺ امرہ،
۱۵۳۴	وہی بنت عائشہ	ان النبی ﷺ تزوجها



۱۸۷۶	عمران	ان النبی ﷺ توضاً،
۱۴۵۲	انس	ان النبی ﷺ جاء الى سعد،
۱۸۱۱	کعب بن مالک	ان النبی ﷺ خرج يوم الخميس،
۱۰۸۶	عطا بن ابی رباح	ان النبی ﷺ صلى على جنازة،
۱۵۵۲	ام سلمه	ان النبی ﷺ قال نها: انی،
۱۴۵۵	معاذ بن زهره	ان النبی ﷺ كان اذا افطر،
۱۴۰۳	طلحه بن عبید اللہ	ان النبی ﷺ كان اذا رأى،
۱۲۴۷		انه كان عذابا يبعثه الله تعالى
۱۲۰۴	ابو هريره	انه الآن يسمع خفق نعالهم،
۱۸۰۱	سهل بن سعد	انه لضعيف عن الجلد،
۳۸۰	ميمونه	انها اتت النبی ﷺ بخرقة،
۱۳۶۲	عائشه	انها كانت تغتسل هي والنبي،،
۱۷۳۲	ابن عمرو	ان النبی ﷺ نهى عن الخمر،،
۱۵۳۰	علی	ان النبی ﷺ نهى عن نکاح،
۱۵۰۷	سعد بن ابی وقاص	انی احرم ما بين لا بتی المدينه،
۱۳۹۴	عائشه	انی ارجو ان اخشا کم لله،
۱۰۴۱	ابن عباس	انی البستها قميص،
۱۱۶۵	عائشه	انی بعثت الى اهل البقيع،
۱۳۶۸	ابو هريره	انی لا نقلب الى اهلی،
۱۴۳۹	ابن عمر	انی لست مثلكم،
۱۷۱۶	ابو موسی	انی واللہ! ان شاء اللہ لا احلف،
۱۹۳۱	عدی بن حاتم	امر الدم لما شئت،
۱۰۶۲	انس	اول تحفة المومن ان يغفر،
۱۰۹۵	انس	اول تحفة المومن ان يغفر،



۱۰۹۶	ابن عباس	اول ما يتحف به المؤمن ،
۱۹۲۳	علی	اهدى النبي ﷺ ،
۱۸۳۳	حذیفہ بن الیمان	ایما رجل استعمل رجلا ،
۱۶۷۴	یعلیٰ بن مرہ	ایما رجل ظلم شبرا ،
۱۵۴۰	ابن عباس	این درعك الحطیمة ،
۱۵۴۲	نجیح	این درعك الحطیمة ،
۱۸۲۱	ابو موسیٰ	الا مرء من قریش ، ،
۱۸۱۷	انس	الائمة من قریش ،
۱۵۶۲	ابن عباس	الا یم احق بنفسها ،
۱۳۴۹	علی	اما کروا بالصدقة ،
۱۶۳۲	عبادہ	امانت بثلاث فی ،

## ﴿ب﴾

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۱۲۹۸	ابو ذر	بشرالکانزین برضف ،
۱۲۹۹	اخنف بن قیس	بشرالکانزین بکی ،
۱۴۲۰	انس	بعثت نبیا فی السالع ،
۱۹۲۴	علی	بعثنی النبی ﷺ ،
۱۵۲۳	ام سلمہ	بلغنی انه لبس ،
۱۳۹۲	ابو امامہ	بینما انا نائم اتانی ،
۱۸۸۴	سلمان	البركة فی الثلاثة ،
۱۸۳۵	ابن عمر	البينة علی من ادعی ،

## ﴿ت﴾

۱۴۶۵	ابن مسعود	تا بعوا بین الحج والعمرة ،
۱۵۸۱	عائشہ	تخیروا لنطفکم ،

۱۵۸۲	انس	تخیروا لنطفکم ،
۱۵۸۳	عائشہ	تخیروا لنطفکم
۱۹۴۲	اسامہ بن شریک	تداوا عباد اللہ
۱۵۸۴	انس	تزوجوا فی الحجر الصالح ،
۱۶۱۹	ابو موسیٰ	تزوجوا ولا نطلعوا ،

### ﴿ث﴾

۱۶۷۷	ابو ہریرہ	ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ،
۱۷۹۷	ابن عباس	ثلاثة لا تقربهم الملائكة ، بخیر ، ،
۱۶۲۷	ابو موسیٰ	ثلاثة لا يدخلون الجنة ،
۱۵۱۸	ابو موسیٰ	ثلاثة يوتون اجرهم مرتين ،
۱۵۳۲	جابر	ثم نهى عن المتعة ،
۱۶۶۴	رافع بن خدیج	ثمن الكلب خبيث ،

### ﴿ج﴾

۸۱/۲	ابن عمر	جاء اعرابی الى النبی ﷺ ،
۱۱۳۵	ابن عمر	جلس رسول الله ﷺ على قبر مصعب ،
۱۱۳۶	ابو ہریرہ	جلس رسول الله ﷺ على قبر مصعب ،
۱۴۷۵	ابو ہریرہ	جهاد الكبير والصغير ،
۱۵۷۹	ابو امامہ	حاملات والذات مرضعات ،
۱۴۷۳	ابو ہریرہ	حج مبرور
۱۴۸۰	صفوان بن سلیم	حجوا تستغنوا ،
۱۴۸۲	ابن عباس	حجی عنها ،
۱۲۹۰	حسن بصری	حصنوا اموالکم بالزکوة ،
۱۲۹۱	بعض الصحابة	حصنوا اموالکم بالزکوة ،

۱۵۷۴	ابو سعید	حق الزوج علی زوجة
۱۱۰۳	ابو ہریرہ	حق المسلم علی المسلم،
۱۴۶۳	ابو موسیٰ	الحاج یشفع فی اربع،
۱۴۷۶	جابر	الحج المبرور لیس له،
۱۴۶۶	ابن عمر	الحجاج العمارو فد الله،

### (خ)

۱۶۷۹	ابو سعید	خذوها وضربوها لی سهم،
۱۳۷۲	جابر	خیر الصدقة ما کان عن،
۱۵۴۶	ابن عباس	خیرکم خیرکم لا ہلہ،
۱۵۲۰	ام ہانی	خیر نساء رکن الابل،

### (د)

۱۶۹۰	عبد الله بن حنظله	درهم ربابا یأکله الرجل،
۱۱۲۰	علی	دعا رسول الله ﷺ علی جنازة،
۱۱۰۲	ابو ہریرہ	دلونی علی قبرها،
۱۸۹۶	ابن عباس	الدرجات افشاء السلام،
۱۶۵۰	ابن عمر	الدنيا حلوة خضرة،

### (ذ)

۱۸۴۸	حذیفہ	ذهبت النبوة فلا نبوة بعدی،
۱۸۵۱	ام کرز کعیه	ذهبت النبوة و بقيت المبشرات،

### (ر)

۱۴۴۷	عائشہ	رأيت رسول الله ﷺ وهو صائم،
۱۵۷۷	ابن عباس	رأيت النار فلم اركاليوم،

۱۷۸۰	ابن مسعود	رأیت النبی ﷺ يشرب النبيذ،
۱۸۶۳	سائب بن یزید	رأیت النبی ﷺ يشرب النبيذ،
۱۲۶۲	اسامہ بن زید	رجزارسل علی بنی اسرائیل،
۱۸۶۴	ابو ہریرہ	روياً الرجل الصالح،
۱۸۵۶	ابو ہریرہ	روياً الرجل الصالح،
۱۸۴۲	عباس	روياً المسلم الصالح،
۱۸۵۶	ابو ہریرہ	روياً المسلم الصالح،،
۱۸۴۱	ابو سعید	روياً المسلم الصالح جزء،
۱۸۴۵	انس	روياً المسلم الصالح وهی جزء،
۱۸۴۳	ابو رزین	روياً المومن جزء من اربعین،
۱۸۴۴	انس	روياً المومن جزء من سنة،
۱۸۴۰	عبادہ	روياً المومن جزء من سنة،
۱۶۹۷	براء بن عازب	الربا اثنان و سبعون،
۱۲۹۶	بعض الصحابة	الربا احد و سبعون بابا،
۱۶۹۹	ابن مسعود	الربا ثلثة و سبعون بابا،
۱۶۹۳	ابو ہریرہ	الربا سبعون حربا،
۱۶۹۴	ابو ہریرہ	الربا سبعون بابا،
۱۸۴۷	ابن عمر	الرؤيا الصالحة جزء من،
۱۸۵۰	ابن عمر	الرؤيا الصالحة جزء من،



۱۱۳۷		زار رسول الله ﷺ شهداء احد،
------	--	----------------------------



۱۸۰۵	ابو ہریرہ	سافروا تستغنوا،
------	-----------	-----------------

سنوا لهم سنة،	عبدالرحمن بن عوف ۱۹۳۵
شہرا عید لا یكونان،	سمرہ ۱۴۱۴
شهران لا ینقصان،	ابو بکرہ ۱۴۱۳

## ﴿ش﴾

الشهداء خمسة،	ابو ہریرہ، ۱۲۳۴
الشہید یشفع فی سبعین،	ابو درداء ۱۲۳۶
الشہید یغفرلہ فی اول دفعۃ،	ابو ہریرہ، ۱۲۳۷

## ﴿ص﴾

صلی النبی ﷺ علی جنازۃ،	عوف بن مالک ۱۱۱۸
صلی النبی ﷺ علی جنازۃ،	ابن عباس ۱۱۱۹
صلی النبی ﷺ علی جنازۃ،	یزید بن رکانہ ۱۱۲۱
صلی النبی ﷺ علی قتلی احد،	عتبہ ۱۱۶۸
صلی النبی ﷺ علی المیت،	ابو ہریرہ ۱۱۲۲
صلوا علی کل میت،	۱۰۸۳
صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ،	۱۰۸۲
صلوا الذی بینکم و بین،	جابر ۱۳۵۲
صم رمضان والذی یلیہ،	مسلم قرشی ۱۴۳۵
صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة،	انس ۱۲۲۲
صوموا تصحوا،	عائشہ ۱۳۸۹
صوموا لرؤیتہ و افطروا،	ابو ہریرہ ۱۳۹۵
صیام یوم عرفۃ کصیام،	عائشہ ۱۴۲۷
الصدقة تسد سبعین،	رافع بن خدیج ۱۳۴۷
الصدقة تطفی الخطیئة،	عاصم عدوی ۱۳۲۴۴



۱۳۴۸	انس	الصدقة تمنع سبعین توعا،
۱۳۵۱	جابر	الصدقة تمنع سبعین القضاء السوء،
۱۳۴۵	رافع بن مکث	الصدقة تمنع میتة السوء،
۱۳۳۴	سلمان بن عامر	الصدقة على المسکین صدقة،،
۱۵۱۵	ابو درداء	الصدقة فی المسجد الحرام،
۱۰۶۱	ابو هريره	الصدقة واجبة علیکم على کل،
۱۳۵۰	انس	الصدقات بالغدوات،

### ﴿ض﴾

۱۹۰۱	ابو درداء	الضعیف یأتی برزقه،
------	-----------	--------------------

### ﴿ط﴾

۱۵۷۸	ابن عباس	طاعتھن لا زواجهن،
۱۸۸۵	سمرة بن جندب	طعام الواحد یکفی الاثنین،
۱۶۴۷	انس	طلب الحلال واجب،
۱۶۴۶	ابن مسعود	طلب کسب الحلال فريضة،
۱۶۶۱	رکب مصری	طوبی لمن طاب کسبه،
۱۲۵۱	ربیع بن ایاس	الطاعون شهادة لا متی
۱۲۵۰	صفوان بن امیه	الطاعون شهادة لا متی
۱۲۵۳	ابن مسیب	الطاعون شهادة لكل مسلم،،
۱۲۴۸	انس	الطاعون شهادة،، لكل مسلم،
۱۲۵۷	ابو موسی	الطاعون وخز اعدائکم،

### ﴿ع﴾

۱۰۲۹	حصین بن جواح	عجلوا فانه لا ینبغی لجيفة،
۱۲۹۶	ابو هريره	عرض على اول ثلاثة،



۱۲۹۶	ابو ہریرہ	عرض علی اول ثلثہ
۱۳۹۰	ابن عباس	عری الاسلام و توا عبدالدين،
۱۰۳۲	عائشہ	علام تنصون میتکم،
۱۰۳۳	عائشہ	علام تنصون میتکم،
۱۶۷۶	سمرہ بن جندب	علی الید ما اخذت حتی تودیہ،
۱۶۵۸	ابن عمر	عمل الرجل بیده،
۱۶۸۱	ابو ہریرہ	العامل انما یوفی اجرہ،
۱۴۴۷	ابو ہریرہ	العمرة الى العمرة كفارة،

### ﴿غ﴾

۱۵۸۰	ابن عباس	غربها قال : اخاف،
------	----------	-------------------

### ﴿ف﴾

۱۰۴۰	سهل بن سعد	فاخذها النبي ﷺ،
۱۷۹۹	ابو امامہ	فأمن ان يأخذ و اله مائة شمراخ،
۱۶۴۱	ابن سيرين	فامر ان يراجعها،
۶۱۲	ابو ہریرہ	فانظر اليها، فان في اعين،
۱۳۹۶	ابن عمر	فان غم عليكم فاكملوا،
۲۰۳	ابن عباس	فانه يسمع خفق نعالهم،
۱۱۷۶	سعد بن عبادہ	فاى الصدقة افضل قال الماء،
۱۶۴۳	ابن عمر	فجعلها واحدة،
۱۷۹۴	ابن عباس	فدعا به فأخذه ثم دعا بماء،
۱۵۹۵	ابو ہریرہ	فرخ الزنا لا يدخل الجنة،
۱۲۷۲	ابو ہریرہ	فرمن المجذوم كما تضر،
۱۷۵۶	مجاهد	فشد وجهه ثم امر به،

۱۷۵۵	ابو مسعود	فشمہ فقطب فصب علیہ،
۱۶۰۵	محمد بن حاطب	فصل ما بین الحلال والحرام،
۱۰۷۳	عمران	فصلینا خلفہ و نحن لا نری،
۱۴۵۰	ابو ہریرہ	فطرکم یوم یفطرون،
۱۲۵۸	ابو موسیٰ	فناء امتی بالطعن و الطاعون،
۱۴۱۹	انس	فی رجب لیلة یکتب،
۱۴۱۸	سلمان	فی رجب یوم ولیلة،
۱۳۵۶	ابو ہریرہ	فی کل ذات کبد حری،
۱۳۵۷		فیما یا کل ابن آدم،
۱۳۲۱	جابر	الفار من الطاعون کا لفار،
۱۲۶۵	جابر	الفار من الطاعون کا لفار،
۱۴۴۹	عائشہ	الفطر یوم یفطر الناس،

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## ﴿ق﴾

۱۵۳۶	ابو ہریرہ	قال سلیمان علیہ السلام لا طوفن،
۱۲۴۲	ابو ہریرہ	قتل الرجل صبرا کفارة،
۱۲۴۱	عائشہ	قتل الصبر لا یمر بذنب،
۱۸۲۳	عبد اللہ بن خطب	قدموا قریشا ولا تقدمواھا،
۱۸۲۲	ابو بکر	قریش ولایة هذا الامر،
۱۱۳۴	ابو ہریرہ	قل السلام علیکم یا اهل القبور،

## ﴿ك﴾

۱۸۶۱	حسن بصری	كان رسول الله ﷺ، اذا اتی،
۱۴۵۷	بن عباس	كان رسول الله ﷺ اذا افطر،
۱۸۳۹	ابو ہریرہ	كان رسول الله ﷺ اذا انصرف من،

۱۴۰۴	رافع بن خدیج	كان رسول الله ﷺ اذا رأى،
۱۴۴۵	سهل بن سعد	كان رسول الله ﷺ اذا كان صائما،
۱۸۳۸	سمره	كان رسول الله ﷺ كما يكثر ،
۱۴۹۰	ابن عباس	كان رسول الله ﷺ يصلى الصلوة،
۱۲۳۰	انس	كان عنده عصبية لرسول الله ﷺ،
۱۷۱۴	ابن مسعود	كان فى الامم السابعة رجل عاص،
۱۳۲۷	معاويه	كان النبی ﷺ اذا اتى ،
۱۴۵۶	معاويه بن زهراء	كان النبی ﷺ اذا افطر،
۱۴۵۸	ابن عمر	كان النبی ﷺ اذا افطر،
۱۴۶۰	انس	كان النبی ﷺ اذا افطر،
۱۴۰۶	حدیر اسلمی	كان النبی ﷺ اذا رأى،
۱۴۰۷	عبدالله بن مطرف	كان النبی ﷺ اذا رأى
۱۴۰۲	عباده	كان النبی ﷺ اذا رأى
۱۴۰۵	ابن عمر	كان النبی ﷺ اذا رأى،
۱۱۱۷	ابو هريره	كان النبی ﷺ اذا صلى ،
۱۰۴۵	عثمان	كان النبی ﷺ اذا فرغ،
۱۱۷۴	عثمان	كان النبی ﷺ اذا فرغ،
۱۴۴۶	ابو درداء	كان النبی ﷺ اذا كان صائما،
۱۴۰۸	انس	كان النبی ﷺ اذا نظر،
۱۲۴۵	جابر	كان النبی ﷺ ليجمع بين ،
۱۱۳۱	محمد بن ابراهيم تيمى	كان النبی ﷺ ياتى قبور،
۱۸۶۲	ابو هريره	كان النبی ﷺ يضعها على الحضيض،
۱۶۱۳	انس	كان النبی ﷺ يطوف على النساء،
۱۴۴۸	انس	كان النبی ﷺ يفطر قبل ،

۱۰۴۴	ابن مسعود	كان النبی ﷺ يقف على ،
۱۹۴۱	ابن عباس	كان النبی ﷺ بكرة من الشاة ،
۱۱۰۴	مولی التومة	كانوا اذا تضایق بهم المصلی صالح ،
۱۰۳۶	عمرو بن مره	كانوا يستحبون اذا وضع الميت ،
۱۰۳۷	خيثمه	كانوا يستحبون اذا وضع الميت ،
		كفى بالمرء اثما ان يضيع ، ۱۶۶۸
۱۶۸۴	على	كل قرض جر منفعة ، فهو ربوا ،
۱۳۱۴	ابن عمر	كل ما ادرى زكوته ،
۱۹۳۲	رافع	كل ما فرى الاوداج ،
۱۷۶۱	بن عمر	كل مسكر حرام ،
۱۲۷۴	عبد الله بن ابی اوفی	كلم المجذوم و بينك وبينه ،
۱۸۸۳	عمر	كلوا جميعا ولا تفرقوا ،
۱۹۲۱	سلمه بن اكوع	كلوا واطعموا ،
۱۹۲۲	ابو سعيد	كلوا واطعموا ،
۱۰۴۷	ابو موسى	كنا مع النبی ﷺ فى سفر ،
۱۲۲۷	جرید بن عبد الله	كنا نرى الاجتماع الى اهل البيت ،
۱۸۷۵	جابر	كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ،
۱۲۷۰	ابو ذر غفارى	كنا مع صاحب البلاء تواضعا ،
۱۸۹۷	ابو هريره	الكفارات اطعام الطعام ،

## ﴿ل﴾

۱۶۶۲	صفوان بن اميه	لا اذن لك ولا كرامة ،
۱۸۱۲	عائشه	لا امثل به فيمثل الله بى ،
۱۱۵۰	ابو هريره	لأن اطأعل جمرة ،
۱۱۵۵	ابن مسعود	لأن اطأعل جمرة ،

۱۱۵۳	عقبہ بن عامر	لأن امشى على جمرة،
۱۱۵۲	ابو ہریرہ	لأن يجلس احدكم على جمرة،
۱۷۲۲	ابو ہریرہ	لأن يلج احدكم،
۱۴۱۷	ابن عباس	لئن بقيت الى قابل،
۱۲۷۶	ابن عباس	لا تحدوا النظر الى،
۱۲۷۷	حسین بن علی	لا تديموا النظر الى،
۱۲۷۵	ابن عباس	لا تديموا النظر الى المجذومين،
۱۱۶۰	عائشہ	لا تذكروا موتاكم الا بخير،
۱۱۶۲	عائشہ	لا تذكروا هلكاكم الا بخير،
۱۸۶۹	جابر	لا ترفع القصعة حتى،
۱۱۶۱	عائشہ	لا تسبوا الاموات فانهم،
۱۱۶۳	مغیرہ	لا تسوا الاموات، فتؤذوا به،
		لا تشرب الخمر حين يشربها،
۱۷۶۲	قیس	لا تشربوا في الدباء،
۱۰۶۸	ابن عمر	لا تصلوا صلوۃ مرتين،
۱۲۳۶	عبد اللہ بن بسر	لا تصوموا يوم السبت،
۱۸۱۲	صالح بن کیسان	لا تغدروا ولا تمثل،
۱۲۵۶	عائشہ	لا تفنى امتي الا بالطعن،
۱۳۹۷	حذیفہ	لا تقدموا الشهر حتى،
۱۷۲۱	ابو ہریرہ	لا تنذروا فان النذر،
۱۱۵۱	عمرو بن حزم	لا تؤذ صاحب هذا القبر،
۱۱۵۲	عمارہ بن حزم	لا تؤذ صاحب القبر
۱۴۳۸	ابو سعید	لا تواصلوا فايكم اراد،
۱۲۹۴	عائشہ	لا زكوة في مال حتى،



۱۸۳۴	علی	لا طاعة لاحد فی معصية،
۱۲۷۱	ابو هريره	لا عدوى ولا طير،
۱۳۳۰	سلمان	لا ناكل الصدقة،
۱۷۲۰	عائشه	لا نذرفی معصية،
۱۳۰۶	ابن مسعود	لا وى الصدقة ملعون،
۴۹۹/۲	ابن عباس	لا هجرة بعد الفتح،
۱۵۹۶	ابو موسى	لا يبغي على الناس الا ولد،
۱۶۷۱	ابن عمر	لا يحل سلف و بيع،
۱۳۳۶	ابن عمرو	لا يحل الصدقة لغنى،
۱۵۲۷	ابو هريره	لا يخطب الرجل على خطبة،
۱۵۲۸	ابن عمرو	لا يخطب الرجل على خطبة،
۱۵۹۷	ابن عمرو	لا يدخل الجنة ولد زنية،
۱۸۲۹	جابر بن سمره	لا يزال الاسلام عزيزا،
۱۸۲۷	جابر بن سمره	لا يزال امر الناس،
۱۸۳۰	ابو جحيفه	لا يزال امر امتی،
۱۸۳۱		لا يزال الدين قائما،
۱۳۷۶	جابر	لا يسال لوجه الله الا الجنة،
۳۱۰/۲	ابو هريره	لا يصبر على لأواء المدينة،
۱۵۵۵	ابو هريره	لا يصلح لبشر ان يسجد، لبشر،
۱۳۶۳	ابن عباس	لا يغبطن جامع المال،
۱۳۶۲	ابن مسعود	لا يكسب عبد مالا،
۱۱۰۱	عائشه	لا يموت احد من المسلمين،
۱۶۹۲	عائشه	لدرهم ربا شد جرما،
۱۶۸۹	ابن مسعود	لدرهم يصيبه الرجل من الربوا،



۱۷۲۳	ابن عمر	لعن الله عزوجل الخمر و شاربها،
۱۱۴۵	ابن عباس	لعن الله عزوجل زائرات القبور،
۱۹۳۳	علی	لعن الله عزوجل من ذبح لغير الله،
۱۳۰۷	علی	لعن رسول الله ﷺ، اكل الربا،
۱۶۸۵	ابن مسعود	لعن رسول الله ﷺ اكل الربا،
۱۷۸۶	جابر	لعن رسول الله ﷺ اكل الربا،
۱۷۲۵	انس	لعن رسول الله ﷺ في الخمر،
۱۶۲۴	علی	لعن رسول الله ﷺ المحلل،
۱۲۲۸	جابر	لقد تضايق علی هذا الرجل،
۱۵۴۸	ایاس بن عبد الله	لقد طاف بآل محمد نساء كثير،
۱۰۱۷	ابو سعيد	لقنوا موتاكم لا الا الا الله،
۱۸۵۳	ابو هريره	لم يبق من النبوة الا المبشرات،
۱۰۳۴	ابن عمر	لم يكن يسمع من رسول الله ﷺ،
۱۳۰۵	علی	لن يجهد الفقراء اذا جاعوا،
۱۳۳۳	مسعود	لها اجران زينب امرأة ابن
۱۶۳۵	انس	ليرا جمعها،
۱۶۵۷	انس	ليس بخير كم من ترك دنياه،
۱۳۱۸	ابو هريره	ليس علی المسلم في عبده،
۱۵۹۲	عائشه	ليس علی ولد الزنا من وزر،
۱۵۵۰		ليس منا من خيب امرأه،
۱۸۱۹	جبیر بن مطعم	ليس منا من دعا الى عصبه،
۱۲۰۸	ابن مسعود	ليسمعون كما تسمعون،



۱۳۲۲ ابن عباس ما اختصنا رسول الله ﷺ،

۱۱۴۶	ابن عمرو	ما اخرجك من بيتك يا فاطمه ،
۱۷۳۳	جابر	ما اسكر كثيره فقليله حرام،
۱۳۵۵	مقداد بن معدیكرب	ما اطعمت زوجك فهو،
۱۶۴۸	مقداد بن معدیكرب	ما اكل احد طعام ماقط،
۱۲۰۹	عبید بن مرزوق	ما انتم باسمع منها،
۱۹۳۰	رافع بن خدیج	ما انهرا الدم و ذكر،
۱۳۱۶	ام سلمه	ما بلغ ان تؤذى زكوة،
۱۲۸۸	ابو هريره	ما تلف مالى فى برولا بحر،
۱۶۲۰	انس	ما حلف بالطلاق مومن ،
۱۲۸۷	عائشه	ما خالطت الصدقة،
۱۱۷۷	انس	ما شبهت خروج المومن،
۱۱۷۱	ابن عمرو	ما على احدكم اذا اراد،
۱۸۵۸	مقداد بن معدیكرب	ما ملأ آدمى وعاء شرا،
۱۳۰۱	ابن مسعود	ما من احد لا يؤدى زكوة ماله،
۱۵۰۱	انس	ما من احد لا يؤدى من امتى له سعة،
۱۷۲۹	ابو امامه	ما من احد يؤدى يشربها فتقبل له ،
۱۱۹۷	ابن عباس	ما من يمر بقبر اخيه ،
۲۴۹/۲	ابو هريره	ما من ايام احب الى الله تعالى ،
۲۴۹/۲	ابن عباس	ما من ايام العمل الصالح،
۱۰۹۹	ابن عباس	ما من رجل مسلم يموت،
۱۱۲۳	عائشه	ما من رجل يزور قبر اخيه،
۱۱۴۰	عائشه	ما من رجل يزور قبر اخيه،
۱۳۵۳	ابو درداء	ما من رجل يصاب بشئ،
۱۲۹۷	ابو هريره	ما من صاحب ذهب،

۱۳۰۲	جابر	ما من صاحب مال،
۱۲۸۴	عمران	ما من عبد یبیع تألدا،
۱۶۶۹	عمران	ما من عبد یبیع تألدا،
۱۵۰۲	ابو ہریرہ	ما من عبد یسلم ،
۱۰۲۲	انس	ما من مسلم یموت له ،
۱۰۲۳	عتبہ بن عبد السلمی	ما من یموت له ،
۱۰۲۴	معاذ	ما من مسلم یموت له
۱۰۵۷	ابن مسعود	ما من مولود الاوفی سرعة ،
۱۱۰۰	عائشہ	ما من میت تصلى عليه امة،
۱۰۹۱	میمونہ	ما من میت یصلی عليه
۱۱۸۵	ابن عباس	ما من میت یموت الا وهو،
۱۰۸۸	مالک بن ہنیزہ	ما من میت یموت فیصلی عليه،
۱۱۸۶	سریرہ	ما من یموت یوضع علی
۱۳۰۹	ابو ہریرہ	ما هؤلاء یا جبرئیل ،
۱۴۷۱	ابن عمر	ما یرفع ابن الحاج رجلا ،
۱۹۳۷	ابو واقد لیثی	ما یقطع من البهیمه،
۱۳۰۳	ابو ہریرہ	من آتاه الله مالا۔
۱۹۴۶	ابو ہریرہ	من ابی کاهنا فصدقه،
۱۵۵۷	ابو ہریرہ	من ابطأ عمله لم یسرع
۱۹۴۷	ابو ہریرہ	من اتی عرفا،
۱۹۴۸	حفصہ	من اتی عرفا،
۱۹۴۹	وائلہ	من اتی کاهنا،
۱۰۶۶	جابر	من اتبع جنازة حتى،
۱۷۰۶	ابو ہریرہ	من اخذ اموال الناس یرید،

۱۶۷۵	سعد بن مالک	من اخذ شیا من الارض،
۱۷۰۷	میمون الکردی	من ادان تردنیا ینوی قضائه،
۱۲۸۹	جابر	من ادی زکوة ماله،
۱۵۹۰	ابو بکرہ	من ادعی الی غیرا بیه،
۱۵۹۱	علی	من ادعی الی غیرہ بیه،
۱۵۱۰		من استطاع فیکم ان یموت
۱۸۳۲	ابن مسعود	من استعمل رجلا من عصابه،
۱۶۰۱	ابو امامہ	من اسلم علی یدی رجل،
۱۶۰۲	ابن عمر	من اهل فارس،
۱۸۹۴	ابو ہریرہ	من اطعم اخاه المسلم،
۱۳۹۱	ابو ہریرہ	من افطر یوما من رمضان،
۱۳۱۲	ابن مسعود	من اقام الصلوۃ ولم یؤت،
۱۳۵۹	قاسم بن مخیمرہ	من اکتسب مالا من،
۱۶۸۸	ابن عباس	من اکل درهما من ربوا،
۱۸۶۶	نبیشہ	من اکل فی قصعة،
۱۸۶۷	انس	من اکل فی قصعة،
۱۸۶۸	انس	من اکل فی قصعة،
۱۶۶۰	عائشہ	من امسی کالا من عمل یدہ،
۱۳۱۲	ابو ذر	من اوکی علی ذہب،
۱۳۸۵	معقل بن یسار	من باع عقردار،
۱۶۷۰	معقل بن یسار	من باع عقردار
۱۷۰۹	ابو امامہ	من تداين بدین و فی نفسه،
۱۳۰۴	ثوبان	من ترک بعدہ کنزاً،
۱۵۱۷		من تزوج فقد استکمل،

۱۳۳۸	ابو ہریرہ	من تصدق بعدل تمرة،
۱۳۶۰	ابو ہریرہ	من تصدق بعدل تمرة،
۱۴۹۳	ابن عمر	من جاء نى زائرا،
۱۳۶۴	ابو ححیرہ	من جمع مالا حراما،
۱۴۷۷	زید بن خالد	من جهر حاجا،
۱۳۷۴	ابن عمر	من سئل بالله،
۱۳۷۵	معاذ بن جبل	من سألکم بالله،
۱۳۷۸	ابو ہریرہ	من سأل الناس اموالهم،
۱۳۷۹	حبشی بن جنادہ	من سأل الناس من غير فقر،
۱۳۷۷	ابن مسعود	من سأل الناس وله،
۱۵۰۴	براء بن عازب	من سمى المدينة يثرب،
۱۳۷۰	جریر	من سن فى الاسلام سنة،
۱۷۹۶	سائب بن یزید	من شرب مسکراو ما کان لم تقبل،
۱۰۶۳	ابو ہریرہ	من شهد الجنابة حتى یصلی،
۱۴۹۹	ابن عیان	من حج الى مكة،
۱۵۰۰	ابن عمر	من حج البيت ولم یزرني،
۱۴۶۴	ابن مسعود	من حج حجة الاسلام،
۱۴۵۶	زید بن ارقم	من حج عن ابويه،
۱۴۸۵	جابر	من حج عن ابيه،
۱۴۸۴	ابو ہریرہ	من حج عن ميت،
۱۴۹۵	ابن عمر	من حج فزار قبری،
۱۴۶۲	ابو ہریرہ	من حج فلم یرفث،
۱۴۸۹	ابن عباس	من حج من مكة ماشیا،
۱۴۷۰	ابو ہریرہ	من حج هذا البيت فلم یرفث،



۱۷۱۵	ابو ہریرہ	من حلف علی یمین فرأی،
۱۷۰۸	عائشہ	من حمل من امتی دنیا،
۱۴۶۸	ابو ہریرہ	من خرج حاجا او معتمرا،
۱۸۸۸	ابن عمر	من دعی فلم یجب
۱۹۳۴	جابر	من ذبح لضیفہ،
۱۶۶۵	انس	من رزق فی شیء فلیلزمہ،
۱۴۹۲	ابن عباس	من زارنی بعد وفاتی،
۱۴۹۷	انس	من زارنی بالمدينة،
۱۴۹۸	ابن عمر	من زار قبری،
۱۴۹۴	عمر	من زار قبری،
۱۷۲۶	ابو ہریرہ	من زنی او شرب الخمر،
۱۴۲۸	ابو ذر	من صام ثلثة ايام،
۱۴۳۰	ابن عباس	من صام الاربعاء،
۱۴۳۳	انس	من صام الاربعاء،
۱۴۲۹	ثوبان	من صام ستة ايام،
۱۴۳۱	ابو امامہ	من صام يوم الاربعاء،
۱۴۳۴	ابو ہریرہ	من صام يوم الجمعة،
۱۴۲۱	ابو ہریرہ	من صام يوم سبع و عشرين،
۱۴۲۶	سہل	من صام يوم عرفة،
۱۴۱۵	ابو سعید	من صام يوم عرفة،
۱۴۱۶	ابن عباس	من صام يوم من المحرم،
۱۰۶۴	ثوبان	من صلى على جنازة،
۱۰۵۷	ابن مسعود	من صلى على جنازة،
۱۰۸۷	مالك بن هبيرة	من صلى عليه ثلثة صفوف،

۱۰۸۹	مالك بن هبیره	من صلى عليه ثلاثة صفوف،
۱۰۹۰	ابو هريره	من صلى عليه مائة من المسلمين،
۱۴۸۷	ابن عباس	من طاف بالبيت خمسين
۱۰۶۵	على	من غسل ميتا وكفينه
۱۴۵۳	سلمان	من فطر صائما
۱۴۵۱	سلمان	من فطر فيه صائما كان
۱۸۰۸	ابو هريره	من قاتل تحت راية، عمية،
۱۸۰۹	ابو هريره	من قتل تحت راية عمية،
۱۲۳۳	سعيد بن زيد	من قتل دون ماله شهيد،
۱۷۱۷	ابن عمر	من كان حالفا فلا يحلف الا بالله،
۱۲۹۳	ابن عمر	من كان يوم من با الله ورسوله،
۱۵۵۱	ابو هريره	من كانت له امرأتان،
۱۰۲۸	بعض الصحابة	من كتب هذا الدعاء وجعله،
۱۳۵۸	ابو الطفيل	من كسب مالا حراما
۱۸۷۱	عرياص	من لعق الصمحفة،
۱۸۸۷	ابن عمر	من لم يحب الدعوة،
۱۶۸۳	جابر	من لم يذر المخابرة،
۱۰۲۶	جابر	من مات على شئ بعثه،
۱۵۱۲	جابر	من مات في احد الحرمين،
۱۵۱۳	انس	من مات في احد الحرمين،
۱۵۱۴	سلمان	من مات في احد الحرمين،
۱۲۴۹	ابو هريره	من مات في الطاعون،
۱۴۶۹	عائشه	من مات طريق مكة،
۱۰۲۰	جابر	من مات ليلة الجمعة،

۱۱۷۵	علی	من مر علی المقابر و قرء،
۱۴۶۱	علی	من ملک زادا و راحلة،
۱۷۱۹	عائشه	من نذر ان یطیع الله فلیطعه،
۱۷۱۳	ابو ہریرہ	من نفس عن عزیزمہ،
۱۸۹۳	ابو درداء	من وافق من اخیہ،
۱۵۳۵	ابن عباس	من ولد له ولد،
۱۳۹۸	ابن مسعود	من اقتراب الساعة انتفاخ،
۱۳۹۹	انس	من اقتراب الساعة ان یری،
۱۵۷۳	ابو ہریرہ	من حقہ لو سال منخرہ،
۱۸۹۵	جابر	من موجبات الرحمة،
۱۵۰۸	رافع بن خدیج	المدينة خیر من مکة،
۱۲۵۲	جابر بن عتيك	المطعون شهيد،
۱۶۷۳	حسین بن علی	المغبون لا محمود ولا مأجود،
۱۹۰۰	عائشه	الملائكة تصلي علی احدکم،
۱۰۱۹	انس	الموت كفارة لكل مسلم،

## ﴿ن﴾

۱۰۸۵	حکیم بن حزام	نزل النبی ﷺ فی حفرتها،
۱۶۶۶	ابو ہریرہ	نهی ان یستام الرجل،
	ابو مسعود	نهی یقوم الامام،
۱۸۷۴	ابو ثعلبه	نهی عن اکل ذی ناب،
۱۹۳۹	ابن عباس	نهی عن اکل ذی ناب،
۱۶۶۷	حکیم بن حزام	نهی عن بیع ما لیس عنده،
۱۷۳۴	ام سلمہ	نهی عن مسکروا مفتر،
۱۲۲۰	عبد الله بن ابی اوفی	نهی عن المراثی،

۱۴۳۷	ابن عمر	نہی عن الوصال ،
۱۴۴۰	ابو ہریرہ	نہی عن الوصال ،
۱۹۳۹	انس	نہی يوم خبير عن لحوم ،
۱۲۲۳	ابو مالک	النائحة اذا لم تتب قبل ،
۱۲۲۴	ابو مالک	النائحة اذا لم تتب قبل ،
۱۵۲۶	ابن عمر	الناس تبع لقريش في هذا الامر ،
۱۵۸۶	ابن عباس	الناس معادن كمعادن الذهب ،
۱۴۷۲	بریدہ	النفقة في الحج ،
۱۶۱۶	عائشہ	النكاح من سنتي ،



۱۲۰۵	ابن عمر	وجدتم ما وعد ربكم ،
۱۵۹۳	ابو ہریرہ	ولد الزنا شرا الثلاثة ،
۱۵۹۴	ابن عباس	ولد الزنا شر الثلاثة ،
۱۱۵۴	بشير بن خصاصيه	ويحك يا صاحب السبتين ،
۱۳۰۸	انس	ويل للاغنياء من الفقراء ،
۱۵۶۶	عبدالله بن ابی اوفی	والذي نفس محمد بيده لا تؤذي المرأة ،
۱۲۰۲	ابو ہریرہ	والذي نفسى بيده ان اطيّب ،
۱۶۶۳	ابو ہریرہ	والذي نفسى بيده لأن ياخذ ،
۱۲۰۷	انس	والذي نفسى بيده ما انتم ،
۱۵۹۹	ابن عمر	الولاء لحمه كلحمه النسب ،
۱۵۹۸	عائشہ	الولد للفراش وللعاهر الحج ،



۱۴۸۱	ابو واقد لیثی	هذه ثم ظهور الحصر ،
------	---------------	---------------------

۱۵۴۳	علی	هل عندك م شیء،
۱۳۶۶	ام عطیہ	هل عندكم شیء،
۱۲۹۵	عائشہ	هو حسبك من النار،
۱۳۶۵	عائشہ	هولها صدقة ولنا هديه،
۱۸۳۹	عبادہ	هى الرؤيا الصالحة،

## ﴿ی﴾

۱۳۳۲	هرمز	يا ابا فلان ! انا اهل البيت،
۱۳۳۵	ابو هريره	يا امة محمد ! والذى،
۱۲۷۹	انس	يا انس ! اثن البساط،
۱۶۵۳	جابر	يا ايها الناس ! اتقوا الله،
۱۵۸۸	ابو نضرة	يا ايها الناس ! الآن ان ربكم،
۱۳۱۷	ابو هريره	يا ايها الناس ! ان الله،
۱۵۲۹	سبرہ بن معتبد	يا ايها الناس ! انى كنت،
۱۴۰۱	عائشہ	يا عائشة ! استعيزى بالله،
۱۶۰۸	عائشہ	يا عائشة ! ما كان معكم،
۱۲۰۶	عمر	يا فلان بن فلان،
۱۶۱۵	ابن مسعود	يا معشر الشباب ! من استطاع،
۱۶۱۷	ابن مسعود	يا معشر الشباب ! من استطاع،
۱۲۴۰	ابو امامہ	يغفر شهيد الر الذنوب كلها،
۱۲۳۹	عبد الله بن عمر	يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين،
۱۵۰۵	ابو هريره،	يقولون يثرب وهى المدينة،
۱۴۲۵	ابو قتاده،	يكفر السنة الماضية،
۱۷۳۶	علی	ينزل امتى على منازل بنى اسرائيل،
۱۳۸۱	ابن عمر	اليد العليا خير من،



## آثار الصحابة والتابعین

۱۲۸۵	قاسم بن محمد	ادنه فدنا قال : کل ،
۱۲۱۰	عمر الفاروق	اخبار ما عندنا ان نساء کم ،
۱۷۶۴	عمر الفاروق	اذا خشيتم ،
۱۷۵۳	عمر الفاروق	اکسروه بالماء ،
۱۷۶۷	عمر الفاروق	ان رزق المسلمين من طلاء ،
۱۷۳۹	عمر الفاروق	ان المسلمين جزوا الطعامهم ،
۱۲۶۶	عمر الفاروق	ان الناس قد زعموا انی فررت ،
۱۸۷۷	عمر الفاروق	ان عمر توضأ من ماء فی ،
۱۷۵۱	عمر الفاروق	ان هذا الشديد ،
۱۱۲۳	عمر الفاروق	ان امیر المؤمنین عمر صلی علی جنازة ،
۱۷۹۶	عمر الفاروق	اما بعد فاطبخوا شرابکم ،
۱۷۸۴	عمر الفاروق	اما بعد فانه انتهى الی شراب ،
۱۷۸۵	عمر الفاروق	اما بعد فانها جاءتنا اشربة ، ،
۱۷۶۸	عمر الفاروق	اما بعد فانها قدمت علی غیر ،
۱۷۴۰	عمر الفاروق	انا اشرب الشراب الشديد ،
۱۷۴۶	عمر الفاروق	انا نشرب هذا النبذ الشديد ،
۱۷۴۷	عمر الفاروق	انما اضربک علی السكر ،
۱۷۴۸	عمر الفاروق	انما جلدناک بالسكر ،
۱۷۴۹	عمر الفاروق	انما جلدناک لسكره ،
۱۷۵۰	عمر الفاروق	حتى افاق فجلده ،
۱۲۸۲	عمر الفاروق	خذ مما یلیک و من شقک ،
۱۷۴۰	عمر الفاروق	کان عمر یحب الشراب الشديد ،

۱۷۵۲	عمر الفاروق	کانکم اقللتم عکرہ،
۱۲۸۳	عمر الفاروق	لو کان غیرک بہ الذی،
۱۵۷۳	عمر الفاروق	ما علمت رسول اللہ ﷺ نکح شیاً،
۱۷۳۵	عمر الفاروق	ہذا الطلاء مثل خلاء الابل،
۱۷۶۵	عمر الفاروق	ہکذا فافعلوہ،
۱۲۸۱	عمر الفاروق	یا امة اللہ ! لا توذی الناس،
۱۶۳۱	عثمان غنی رضی	بانت منك بثلاث،
۱۷۰۱	عثمان غنی رضی	الربا سبعون بابا
۱۹۴۳	علی المرتضی	اذا اشتکی احدکم فلیستوہب
۱۷۹۵	علی المرتضی	ان رجلاً شرب من اداوة،
۱۶۳۰	علی المرتضی	بانت منك بثلاث،
۱۴۰۹	علی المرتضی	کان اذا رأى الهلال،
۱۷۹۳	علی المرتضی	کان علی یرزقنا الطلاء،
۱۷۷۰	علی المرتضی	کان یرزق الناس الطلاء،
۱۷۹۰	علی المرتضی	کنا نأكله بالخبز،
۱۰۶۹	علی المرتضی	لا یصلی بعد صلوة مثلها،
۱۸۱۴	علی المرتضی	لا ولكن اترککم،
۱۱۱۴	علی المرتضی	لا یقوم علیہ احدہو امامکم،
۱۸۱۶	علی المرتضی	لئن کنت صدقت اول الناس،
۱۴۷۹	علی المرتضی	لما فرغ ابراهیم علیہ السلام من،
۱۹۴۰	علی المرتضی	ما اظیہ و ارضیہ،
۱۲۱۱	علی المرتضی	یا اهل القبور! السلام علیکم،
۱۰۳۹	عبد اللہ بن مسعود	ارجعن مأزورات غیر مأجورات،
۱۱۵۷	عبد اللہ بن مسعود	اذی المؤمن فی موته،

۱۷۵۸	عبد اللہ بن مسعود	ان القوم یجلسون الشراب،
۱۶۲۹	عبد اللہ بن مسعود	ثلاث تبناها و سائرهن عدوان،
۱۷۸۳	عبد اللہ بن مسعود	ثم دعا بنیذ نبذتہ سیرین،
۱۷۳۸	عبد اللہ بن مسعود	دعا نبیذا نبذتہ سیرین،
۱۷۰۲	عبد اللہ بن مسعود	الزنا اثنان وسبعون حوبا،
۱۶۲۷	عبد اللہ بن مسعود	صدقوا هو مثل ما یقولون،
۱۷۶۰	عبد اللہ بن مسعود	الشربة له الا خيرة،
۱۷۵۹	عبد اللہ بن مسعود	فاتینا نبیذ نبذتہ،
۱۱۵۸	عبد اللہ بن مسعود	كما اكره اذى المومن،
۱۳۰۰	عبد اللہ بن مسعود	لا یکوی رجل بکنز،
۱۰۳۸	عمرو بن عاص	اذا انا مت فلا تصبا حبنی نائحة،
۱۱۴۱	عمرو بن عاص	اذا انا مت فلا تصبا حبنی نائحة،
۱۱۷۹	عمرو بن عاص	اذا مات المومن یخلی سربه،
۱۱۷۸	عمرو بن عاص	ان الدنيا جنة الكافر،
۱۶۲۸	عمرو بن عاص	لا تحل له حتی تنکح،
۱۹۲۸	عبد اللہ بن عمر	ان عبد الله بن عمر كان یحلل بدنه،
۱۱۰۷	عبد اللہ بن عمر	انه اتی الجنابة وهو علی غیر،
۱۲۱۹	عبد اللہ بن عمر	انه یتاذی به المیت
۱۶۳۷	عبد اللہ بن عمر	حسبت علی تطليقة،
۱۶۴۰	عبد اللہ بن عمر	فراجعتها و حسبت بها،
۱۴۹۲	عبد اللہ بن عمر	كان عبد الله بن عمر یسلم علی القبر،
۱۹۲۸	عبد اللہ بن عمر	كان یتصدق بها،
۱۹۲۹	عبد اللہ بن عمر	كان یحلل بدنه،
۱۳۶۸	عبد اللہ بن عمر	لم تكن الصدقة علی،

۱۷۳۷	عبد اللہ بن عمر	ما زدناک علی نجوة،
۱۹۴۴	عوف بن مالک	اذا اردا احدکم الشفاء،
۱۶۳۳	عبد اللہ بن عباس	ان الرجل کان اذا طلق امرأته،
۱۵۳۱	عبد اللہ بن عباس	انما المتعة فی اول الاسلام،
۱۰۷۴	عبد اللہ بن عباس	کشف للنبی ﷺ عن سریر النجاشی،
۱۰۵۰	عمرو بن دینار	ما من میت يموت الاروحوه،
۱۱۹۲	عمرو بن دینار	ما من يموت الا وهو روحوه،
۱۰۴۸	عمرو بن دینار	ما من يموت الا وهو،
۱۱۹۱	عمرو بن دینار	ما من يموت الا وهو،
۱۲۱۲	قتاده	بلغنی ان الارض لا تسلط علی،
۱۱۰۸	ابراہیم نخعی	اذا فجئتک الجنازة و لست،
۱۱۱۰	عامر شعبی	یتیمم اذا خشی الفوت،
۱۱۰۶	عبد اللہ بن عباس	اذا خفت ان تفوتک الجنازة،
۱۱۰۵	عبد اللہ بن عباس	اذا فجأتک الجنازة،
۱۷۴۴	عبد اللہ بن عباس	حرمت الخمر بعینها،
۱۷۷۹	عبد اللہ بن عباس	حرمت الخمر بعینها،
۱۶۲۶	عبد اللہ بن عباس	طلقت منك بثلاث،
۱۶۲۵	عبد اللہ بن عباس	عصیت ربک و بانت منك،
۱۸۸۲	ابو ہریرہ	لا یقبض المو من حتی یری،
۱۷۷۷	انس بن مالک	ان نوحا علیہ السلام نازعة،
۱۸۸۱	انس بن مالک	ان یهودیا دعا النبی ﷺ،
۱۷۹۱	انس بن مالک	فکان یشرب منه الشربة علی اثر،
۱۵۵۶	انس بن مالک	کان اهل بیت من الانصار،
۱۷۴۲	انس بن مالک	کان یشرب الطلاء علی النصف،



۱۷۸۲	انس بن مالک	کان ینزل علی ابی بکر بن ابی موسیٰ،
۱۲۳۱	انس بن مالک	هذه شعيرة من شعر رسول الله ﷺ،
۱۶۲۱	عائشه الصديقه	فاستانف الناس الطلاق
۱۶۲۲	عائشه الصديقه	فوقت الطلاق ثلاثا،
۱۱۴۲	عائشه الصديقه	فلما دفن عمر معهم،
		كان صداقه لا زواجه،
۱۵۷۶	اسماء بنت الصديق	تزوجني الزبير وماله في الارض،
۱۱۱۱	حكم	اذا خفت ان تفوتك الصلوة،
۱۱۱۲	الزهرى	اذا فجئتك الجنابة وانت،
۱۱۱۳	حسن بصرى	يتيمم و يصلى،
۱۷۷۶	حسن بصرى	تطبخه حتى ذهب الثلثان،
۱۱۱۵	ابراهيم تيمى	لما كفن و وضع،
۱۱۴۳	عقبه بن عامر	ما ابالى فى القبور قضيت حاجتى،
۱۶۰۷	ربيع بنت معوذ	فجلس على فراشى كمجلسك منى،
۱۱۸۱	سلمان فارسى	ان ارواح المؤمنين فى
۱۲۶۴	شرحبيل بن حسنه	ليس بالطوفان ولا بالرجز،
۱۴۱۱	عمار بن ياسر	من صام اليوم الذى شك فيه،
۱۱۸۹	ام درداء	ان الميت اذا وضع على سريره،
۱۷۸۹	ام درداء	كنت اطبخ لا بى الدرداء الطلاء،
۱۷۷۲	ابو درداء	كان يشرب ما ذهب ثلثاه،
۶۸۷	كعب احبار	لأن ازنى ثلث،
۱۷۷۳	ابو موسى اشعري	كان يشرب من الطلاء
۱۲۳۲	ابو وائل	كان عند على كرم الله تعالى وجهه مسك،
۱۶۱۱	ابو مسعود	اجلس انى شئت فاسمع معنا،



۱۷۰۳	عبد الله بن سلام	الربا ثلثة و سبعون حوبا
۱۷۸۷	ابو عبیداللہ و ابو طلحہ	كانوا يشربون من الطلاء،
۱۷۶۶	ابو عبیداللہ و ابو طلحہ	بعہ عصیرا ممن يتخذہ ،
۱۷۷۸	عمر بن العزیز	لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب،
۱۷۴۳	ابراہیم النخعی	ما اسکر كثيره فقليله حرام خطأ،
۱۷۸۱	ابراہیم النخعی	السكر حرام من كل شراب،
۱۷۸۶	ابراہیم النخعی	القدح الا خیر الذی سکر منه،
۱۷۴۱	ابراہیم النخعی	كان يشرب الطلاء قد ذهب ثلثاه،
۱۰۴۹	مجاہد	اذا مات الميت فملك قابض نفسه،
۱۰۹۰	مجاہد	اذا مات الميت فملك قابض نفسه،
۱۳۷۱	مجاہد	لوا نفقت مثل ابی قیس،
۱۷۷۵	سعد بن مسیب	اذا طبخ الظلاء على الثلث،
۱۲۲۷	سعد بن مسیب	حضرت مع ابن عمر فی جنازة،
۱۰۳۵	سعد بن مسیب	حضرت مع ابن عمر فی جنازة،
۱۱۸۰	سعد بن مسیب	ان سلمان الفارسی عبد الله بن سلام،
۱۷۷۱	سعد بن مسیب	الذی يطبخ حتى يذهب،
۱۷۷۴	سعد بن مسیب	لا حتى يذهب ثلثاه،
۱۰۵۱	سفيان ثوری	ان الميت يعرف كل شيء،
۱۰۹۳	سفيان ثوری	ان الميت ليعرف كل شيء،
۱۰۵۱	بکر بن عبد الله المزنی	بلغنی انه ما من ميت يموت،
۱۱۸۳	بکر بن عبد الله المزنی	بلغنی انه ما من ميت يموت،
۱۱۹۶	بکر بن عبد الله المزنی	حدثت ان الميت،
۱۰۵۵	بکر بن عبد الله المزنی	حدثت ان الميت،
۱۱۳۸	بکر بن عبد الله المزنی	بلغنی ان الموتی يعلمون،

ان خالد بن الولید کان یشرب الطلاء،	خالد بن ولید ۱۷۹۱
الروح بید الملك یمشی به،	عبد الرحمن بن ابی لیلی ۱۰۵۳
الروح بید الملك یمشی به،	عبد الرحمن بن ابی لیلی ۱۱۹۴
ان الملك ینطلق فیأخذ	عطا خراسانی
ان ام حبیبہ كانت،	عروہ بن الزبیر ۱۵۳۸
كان الرجل اذا طلق امرأته،	عروہ بن الزبیر ۱۶۳۴
لا والله! ما هی قدم،	عروہ بن الزبیر ۱۲۴۶
ما من میت یموت الا وروحہ،	ابن نجیح ۱۰۵۴
ما من میت یموت الا وروحہ،	ابن نجیح ۱۱۹۵
ان فاطمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا لما حضرتهَا،	عبد اللہ بن محمد بن عقیل ۱۰۶۰
اقبل مروان یوما فوجد	داؤد بن صلح ۱۱۳۲
بلغنی ان ارواح المومنین،	مالک ۱۱۸۲

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

OYOYOYOYOYO  
OYOYOYOYO  
OYOYOYO

# فہرس اطراف الحدیث والآثار

## (المجلد الثالث)

### ﴿الف﴾

۲۱۶۱	ابو ہریرہ	ابتغوا الخیر عند حسان الوجوہ،
۲۱۶۳	عطا بن ابی رباح	ابتغوا الخیر عند الحسان الوجوہ،
۲۳۵۳	ابن عمر	ابرا البر صلة الولد و دایہ،
۲۲۹۲	داؤدی	ابغض الاسماء الى الله تعالى،
۲۳۱۴	ابن عباس	ابغض الناس الى الله تعالى،
۲۷۴۶	باقر	اتانی جبرئیل علیہ السلام فقال،
۱۹۵۴	سوید بن قیس	اتا نا النبی ﷺ فساومنا،
۱۲۱۰	ابو ہریرہ	اتدرون من المفلس،
۱۲۵۶	بہز بن حکیم	اتدعون عن ذکر الفاجر،
۲۷۸۲	ابن عباس	اترون انی اذتعلقت،
۲۶۸۰	ابو ہریرہ	اترونها حمراء کنارکم،
۲۷۴۶	ابن مسعو	اثنتی عشرة رکعہ،
۱۹۵۳	ابو ہریرہ	اجل فی السفر والحضر،
۲۲۸۸	ابن عمر	احب اسماء کم الى الله تعالى،
۲۰۹۸	ابن عباس	احب الاعمال الى الله تعالى،
۲۳۵۶	ابن عمر	احفظ و دایک،
	ابن عمر،	احفوا الشوارب واعفوا اللحی،
۲۰۲۰	انس	احفوا الشوارب واعفوا اللحی،
۲۰۲۶	ابن عمرو	احفوا الشوارب واعفوا اللحی،

۲۳۳۲	ابو ہریرہ	احی والدک،
۲۳۰۴	امراة	اختضبني تترك احداكن،
۲۶۹۴	جابر	اخرجتك من غمرة جهنم،
۲۳۱۲	ام سلمہ	اخرجوا المخنثين من بيوتكم،
۲۲۹۱	ابو ہریرہ	اخنع الاسماء عند الله،
۲۴۹۸	ابو ہریرہ	ادع الله و انتم موقنون،
۲۰۷۹	انس	ادن مني فضمه الى صدره،
۲۱۵۷	عبد الله بن جراد	اذا تبغيتم المعروف،
۲۱۷۰	جابر	اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه،
۲۲۴	انس	اذا احب الله عبدا لم يضره ذنب،
۲۴۲۷	انس	اذا احدثت دنبا فاحدث،
۲۷۸۳	ابن عباس	اذا اختلف الناس فالعدل،
۲۲۱۳	انس	اذا التقى الخلائق يوم القيامة،
۲۲۷۱	ابو ہریرہ	اذا بعثتم الى رجلا فابعثوه حسن الوجه،
۲۳۶۳	انس	اذا ترك العبد الدعاء للوالدين،
۲۳۶۵	ابن عمر	اذا تصدق احدكم بصدقة،
۲۲۳۰	ابن عمر	اذا جاءك من هذا المال،
۲۵۸۶	عائشہ	اذا جلس احدكم في مجلس،
۲۲۶۵	ابن عباس	اذا جلس القاضي في مجلسه،
۲۳۶۸	زيد بن ارقم	اذا حج الرجل عن والديه،
۲۶۹۳	ابن عباس	اذا دخل الرجل الجنة،
۲۰۸۸	جابر	اذا دخلتم بيوتكم،
۲۴۹۵	ابو ہریرہ	اذا دعا احدكم فليؤمن،
۲۴۹۹	انس	اذا دعا احدكم فليعزم المسئلة،

۲۴۸۳	ہلال بن یساف	اذا دعا العبد بدعوة،
۲۴۸۲	ابو ہریرہ	اذا دعا الغائب لغائب،۔
۲۴۱۶	ابو لیلی	اذا رأیتم منهن شیاً فی مسا کنکم،
۲۴۹۰	ابن مسعود	اذا رفعتم ایدیکم الی اللہ تعالیٰ،
۲۵۳۸	علی	اذا زالت الافیاء،
۲۵۰۱	عائشہ	اذا سأل احدکم فلیکثر الدعاء،
۲۵۳۹	ابو ہریرہ	اذا سمعتم صیاح الدیکۃ،
۲۲۸۶	ابو رافع	اذا سمیتم فلا تضربوه،
۲۲۸۴	علی	اذا سمیتم الولد محمداً،
۲۳۸۷	ابو ذر	اذا صلی الرجل و لیس من،
۲۱۵۹	یزید قسمی	اذا طلبتم الحاجات،
۲۴۱۵	ابو لیلی	اذا ظهرت الحیۃ فی المسکن،
۲۴۲۶	معاذ بن جبل	اذا عملت سیئۃ فاحذر،
۲۱۷۲	بریدہ	اذا قال الرجل للمنافق،
۲۵۶۲	عائشہ	اذا قال العبد: یا رب،
۲۶۴۴	انس	اذا کان یوم القیامۃ،
۲۷۰۳	ابن عمر	اذا کان یوم القیامۃ شفعت،
۲۶۳۶	ابی بن کعب	اذا کان یوم القیامۃ کنت،
۲۷۹۸	علی	اذا كانت لیلة النصف من شعبان،
۲۲۴۲	ابن عمر	اذا کذب العبد تباعد،
۲۵۴۶	ابن عمر	اذا لقیتم الحاج فسلم،
۲۲۴۶	ابو مسعود	اذا لم تستح فاصنع ما شئت،
۲۷۳۱	جابر	اذا مات حامل القرآن،
۲۲۵۷	انس	اذا مدح الفاسق غضب الرب،،



۲۵۹۴	انس	اذا مررتم برياض الجنة،
۲۵۳۶	ابو امامه	اذا نادى المنادى فتحت،
۲۶۲۳	ابو هريره	اذا وسد الامر الى غير اهله،
۲۲۰۳	ابن عباس	اذكر الله ذكرا يقول المنافقون،
۲۶۰۸	معاذ	اذكر الله عند كل شجرة وحجر،
۲۵۴۳	ابن عباس	اربع دعوات لا ترد،
۲۵۴۲	وائله	اربع دعوتهم مستجابة،
۱۹۷۴	ابو امامه	اربعة لعنوا في الدنيا والآخرة،
۱۹۷۳	ابو امامه	اربعة لعنهم الله فوق عرشه،
۱۹۷۲	ابو هريره	اربعة يصبحون في غضب الله،
۲۴۹۲	ابو موسى	اربعوا على انفسكم
۲۶۹۸	على	اربي ان تغسله تجننه،
۲۳۳۴	ابن عمرو	ارجع اليها فاضحكها،
۲۰۹۷	ابن عمرو	ارحموا من في الارض،
۱۹۹۰	ابو سعيد	ازارة المومن الى انصاف ساقيه،،
۲۳۶۴	مالك بن زاره	استغفار الولد لا يبه،
۲۷۶۹	ثوبان	استقيموا لقريش ما ستقاموا،
۲۵۳۵	ابن عمر	اسرع الدعاء اجابة،
۲۳۳۶	معاذ	اطع والديك و ان اخرجاك،
۲۱۵۸	عائشه	اطلبوا الحاجات عند حسان الوجوه،
۲۱۶۴	ابو مصعب	اطلبوا الحوائج الى حسان الوجوه،
۲۱۳۳	ابو سعيد	اطلبوا الحوائج الى ذوى الرحمة،
۲۱۵۵	عائشه	اطلبوا الخير عند حسان الوجوه،
۲۱۵۶	ابن عمر	اطلبوا الخير والحوائج،

۲۱۳۱	ابو سعید	اطلبوا الفضل عند الرحماء من امتی،
۲۱۳۲	علی	اطلبوا المعروف عند رحماء امتی،
۱۹۵۱	جابر	اطوا ثیابکم حتی ترجع،
۲۲۷۲	ابن مسعود	اعتبروا الارض بأسمائها،
۲۱۳۹	ابن مسعود	اعتبروا الصاحب بالصاحب،
۲۶۱۵	عائشہ	اعطوا میراثہ من اهل قریثہ،
۲۶۳۵	جابر	اعطیت خمساً لم یعطھن،
۲۷۶۰	حلیس	اعطیت قریش مالہم یعط،
۲۵۵۹	عائشہ	اعوذ برضاک من سخطک،
۲۵۵۱	ابو درداء	اغتنموا دعوة المومن،
۲۰۳۱	بریدہ	اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ،
۲۳۰۶	ام سلمہ	افعمیا وان انتما،
۲۵۷۵	جابر	افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
۲۷۰۹	ابو امامہ	اقرؤا القرآن فانہ یأتی،
۲۵۶۹	ابن عباس	اکثر الدعاء بالعافیۃ،
۲۵۰۲	انس	اکثر من الدعاء،
۲۴۷۴	انس	اکثر من الدعاء
۲۶۰۶	انس	اکثر من ذکر اللہ،
۲۵۰۰	ابن عباس	اکثر من الدعاء بالعافیۃ،
۲۶۰۴	اوس بن عبد اللہ	اکثروا ذکر اللہ حتی،
۲۶۰۲	ابو سعید	اکثروا ذکر اللہ حتی، یقولوا مجنون،
۲۲۴۳	عبد اللہ بن ابی اوفی	اکثروا الناس ذنوباً،
۲۱۶۰	انس	التمسوا الخیر عند حسان الوجوہ،
۲۵۱۵	انس	التمسوا الساعۃ امتی،

۲۱۶۵	زہری	التمسوا المعروف عند،
۲۳۴۵	طلحہ بن معاویہ	الزم رجليها فثم الجنة،
۲۳۴۶	معاویہ بن جہمہ	الزم هما فان الجنة تحت،
۲۰۵۶	عثیم بن کلب	الق عنك شعر الكفر ثم احتتن،
۲۴۳۰	ابو ہریرہ	اما تخشى ان يكون لك،
۲۳۴۸	ابو ہریرہ	امك (ثلاثا)
۲۱۴۷	انس	انت مع من اجييت،
۲۳۴۲	جابر	انت و مالك لا بيك،
۲۳۴۳	جابر	انت و مالك لا بيك (و فيه قصه)
۲۷۳۷	ابن مسعود	انز القرآن على سبعة احرف،
۲۱۱۹	عائشہ	انزلوا الناس منازلهم،
۲۴۱۴	ابن حبيب	انشدكن بالعهد الذى،
۲۶۱۶	ابن عباس	انظروا له ذاقرا به،،
۲۰۱۶	ابن عمر	انهكوا الشوارب و اعفوا اللحى،
۲۰۲۴	ابن عباس	اوفوا اللحى و قصوا الشوارب،
۲۷۸۷	ابن عمر	اول من اشفع له يوم القيامة،
۲۰۰۴	انس	اول من خضب بالحناء،
۱۹۵۷	ابو ہریرہ	اول من لبس سراويل ابراهيم،
۲۱۳۸	انس	اياك قرين السوء،
۲۱۱۵	ابو العاديہ	اياك وما يسوء الاذن،
۲۲۰۰	سعد بن ابى وقاص	اياك وما يعتذر منه
۱۹۶۶	عمران	اياكم والحمرة،
۲۳۰۷	عقبہ بن عامر	اياكم و الدخول على النساء،
۲۱۲۴	ابن عمر	اياكم و رطانة الاعاجم،

۲۲۵۰	ابو ہریرہ	ایاکم والظن فان الظن،
		(ب)
۲۰۹۵	جابر	بعثت بمداراة الناس،
۲۷۹۵	ابن عباس	بغض العرب نفاق،
۲۳۲۷	ابو ہریرہ	بینما ایوب علیہ السلام عریا ناخر،
۲۳۷۷	ابن عمر	بینما ثلثہ نفر یتمشون، وفيہ قصہ
۲۲۱۲	انس	بینما رسول اللہ ﷺ جالس،
۲۰۷۲	اسید بن حضیر	بینما هو یحدث القوم وکان،
۲۲۴۹	ابو درداء	البذاء شؤم،
		(ت)
۲۰۹۹	ابو ذر	تبسمک فی وجہ اخیک،
۲۱۶۷	زید بن ثابت	تحافوا عن عقوبة ذالمروء،
۲۷۴۲	ابن عباس	تجعلوانہ شوری بین،
۲۶۷۳	ابو ہریرہ	تحتاجت النار والجنة،
۲۰۶۵	تمیم	تحية الاسم و صالح و دهم،
۲۴۶۸	جابر	تدعون الله تعالى فی لیلکم،
۲۰۱۵	ابو امامہ	تسرولوا واتزرروا،
۲۰۸۶	ابو ذر	تسلیمہ علی من لقیہ صدقة،
۲۲۸۹	وہب حیثمی	تسموا بأسماء الانبیاء، ابو
۲۰۶۱	ابن عمر	تصافحوا یذهب الغل،
۲۷۳۵	ابو موسیٰ	تعاهدوا القرآن،
۲۳۵۹	والد عبد العزیز	تعرض الاعمال یوم الاثنين،
۲۳۲۶	ابو ہریرہ	تعرف الی اللہ فی الرخاء،

۲۶۰۹	ابو ہریرہ	تعلّموا الفرائض و علموه،
۲۶۱۶	عقبہ	تعلّموا کتاب اللہ و تعاہدوا
۲۵۲۲	عثمان بن العاص	تفتح ابواب السماء نصف اللیل،
۲۰۶۳	ابو امامہ	تمام تحیتکم بینکم المصافحۃ،
۲۲۲۵	ابو ہریرہ	تہا دوا تحابوا،
۲۲۲۷	ابو ہریرہ	تہادوا تحابوا،
۲۲۲۶	عائشہ	تہا دوا تزددادوا حبا،
۲۴۱۸	ابن مسعود	التائب من الذنب کمن لا ذنب له،

### ﴿ث﴾

۲۵۳۳	عائشہ	ثلث ساعات للمرء المسلم،
۲۴۳۶	سلمہ بن اکوع	ثلث کيات،
۲۲۵۲	حسن بصری	ثلث لم تسلم منها،
۲۵۴۱	ابو ہریرہ	ثلاثة لا ترد دعوتهم،
۱۹۶۹	عمار بن یاسر	ثلاثة لا يدخلون الجنة،
۱۹۷۱	ابن عمر	ثلاثة لا يدخلون الجنة،
۲۳۳۸	ابن عمر	ثلاثة لا يدخلون الجنة،
۲۱۵۳	ابو امامہ	ثلاثة لا يستخف حقهم الا منافق،
۲۳۳۹	ابو امامہ	ثلاثة لا يقبل الله عزوجل منهم،
۱۹۸۶	ابو ذر	ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة،
۱۹۷۰	ابن عمر	ثلاثة لا ينظر الله اليهم،
۲۳۵۷	ابن عمر	ثلاثة لا ينظر الله اليهم،
۲۵۵۳	ابیہ بن وقاص	ثلاثة مواطن لا ترد،
۲۵۵۲	ابو موسیٰ	ثلاثة يدعون الله،



ثنتان لا تردان ، سهل بن سعد ۲۵۳۴

## (ج)

جزوا الشوارب وارخوا اللحى ، ابو هريره ۲۰۱۷  
 جعل الذل والصغار على من خالف ، ابن عمر ۲۳۱۵  
 جنتان من فضة ، ابو موسى ۲۶۶۸  
 جوف الليل الآخر ، ابو امامه ۲۵۲۱  
 جوف الليل الآخر ، ابن عمر ۲۵۲۳  
 الجنة حرام على كل فاحش ، ابن عمر ۲۲۴۷

## (ح)

حتى للزرة من الزرة ، ابو هريره ۲۲۰۹  
 حفت الجنة بالمكاره ، ابو هريره ۲۶۸۷  
 حق الجار على جاره ، معاويه بن حيدہ ۲۲۰۶  
 حوضى مسيرة شهر ، ابن عمرو ۲۶۶۴  
 حوضى مسيرة شهر ، ابن عمرو ۲۶۶۵  
 الحجاج و العمار وفد الله ، ابو هريره ۲۵۴۴  
 الحسن والحسين و كان يقول لفاطمه ، انس ۲۰۷۱  
 الحياء خير كله ، عمران ۲۲۴۵  
 الحياء زينة ، جابر ۲۲۴۴

## (خ)

خالطوا الناس بأخلاقهم ، ثوبان ۲۱۰۴  
 خبر القرآن تحت العرش ، حسن بصرى ۲۷۳۹  
 خذ فاعز فى سبيل الله ، ابن عمر ۲۰۳۳  
 خذوا من عرض لحاكم ، عائشه ۲۰۲۷

۲۷۷۷	ابو ہریرہ	خرجت من افضل حسين ،
۲۱۸۷	انس	خل عنه ياعمر ،
۲۴۰۱	ابو ہریرہ	خمس قتلہن حلال فی الحرم ،
۲۵۳۲	ابو امامہ	خمس لیل لا ترد فیہن ،
۲۳۹۸	ابن عباس	خمس من الدواب ،
۲۳۹۹	ابن عمر	خمس من الدواب ،
۲۰۴۷	ابو ہریرہ	خمس من الفطرۃ ،
۲۴۰۰	عائشہ	خمس یقتلہن محرم ،
۲۱۴۶	ابن عمرو	خیر الاصحاب عند اللہ ،
۲۴۱۹	انس	خیر الخطائین التوابون ،
۲۵۲۰	ابن عمرو	خیر الدعاء دعا یوم عرقۃ ،
۲۵۱۹	عمرو بن شیعب	خیر الدعاء دعا یوم عرقۃ ،
۲۵۹۳	سعد بن ابی وقاص	خیر الذکر الخفی ،
۲۷۲۶	عثمان بن عفان	خیرکم من تعلم القرآن ،
۲۷۷۱	علی	خیر الناس العرب ،
۲۷۷۰	ابو ہریرہ	خیر نسائکم رکن الابل ،
۲۵۱۷	ابو ہریرہ	خیر یوم طلعت علیہ الشمس ،
۲۶۳۹	ابن عمرو	خیرت بین الشفاعۃ و بین ،
۲۰۵۳	ابن عباس	الختان سنۃ للرجال ،
۲۷۴۷	عتبہ بن عبد	الخلافۃ فی قریش ،



۲۳۸۰	ابن عمر	دخلت امرأة النار فی ہرۃ ،
۲۳۸۱	جابر	دخلت امرأة النار فی ہرۃ ،

۲۵۴۷	ابن عمر	دعا المحسن اليه للمحسن،
۲۱۱۲	ابو هريره	دل الطريقة صدقة،
۲۵۳۰	انس	الدعاء بين الاذان و الاقامة،
۲۴۸۵	ابو موسى	الدعاء جند من اجناد الله،
۲۴۶۹	على	الدعاء سلاح المومن،
۲۴۹۴	على	الدعاء محجوب عن الله تعالى،
۲۴۷۱	انس	الدعاء مخ العبادة،
۲۴۸۴	ثوبان	الدعاء يرد القضاء،
۲۴۴۴	جابر	الدنيا ملعونة و ملعون ما فيها
۲۴۴۵	ابو هريره	الدنيا ملعونة و ملعون ما فيها،
۲۴۴۶	ابو درداء	الدنيا ملعونة و ملعون ما فيها،
۲۴۴۷	ابن مسعود	الدنيا ملعونة و ملعون ما فيها،
۲۳۹۲	ابن عمر	الديك يؤذن بالصلوة، ما فيها،



۲۳۰۱	زيد بن ارقم	الذهب و الحرير حل لا ناث امتى،
------	-------------	--------------------------------



۲۰۹۴	سعيد بن مسيب	رأس العقل بعد الايمان بالله،
۲۰۹۶	على	رأس العقل بعد الايمان بالله،
۱۹۸۸	ابن عباس	رأيت رسول الله ﷺ يأتزرها،
۲۰۷۷	ابن عباس	رأيت رسول الله ﷺ واقفا مع على،
۲۰۷۴	عائشه	رأيت النبي ﷺ التزم عليا،
۲۰۲۸	عبد الله بن عبد الله	ربى امرنى ان احفى شاربى،
۲۳۳۰	ابن عمر	رضا الرب فى رضا الوالد،

۳۳۳۱	ابن عمرو	رضا الرب فی رضا الوالدین،
۲۱۴۰	ابو ہریرہ	الرجل علی دین خلیلہ،



۲۳۴۷	عائشہ	زوجہا،
۲۷۱۷	براء بن عازب	زینوا القرآن باصواتکم،



۲۲۷۸	انس	سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی،
۲۰۳۲	صفوان بن عیال	سیروا بسم اللہ فی سبیل اللہ،



۲۰۰۶	وائلہ	شرکھولکم من تشبہ بشبابکم،
۲۶۴۲	ابو درداء	شفاعتی لا ھل الذنوب،،
۲۶۴۱	انس	شفاعتی لا ھل الکبائر،
۲۶۳۸	ابو ہریرہ	شفاعتی لمن شہد،
۲۶۴۷	ابو ہریرہ	شفاعتی لمن شہد،
۲۶۴۰	ام سلمہ	شفاعتی للھالکین
۲۶۵۷	زید بن ارقم	شفاعتی یوم القیامۃ،
۲۱۹۰	جابر بن سمرہ	شہدت اکثر من مائة مرة فی المسجد،
۲۱۸۴	عائشہ	الشعر لمنزلۃ الکلام،
۱۹۵۰	جابر	الشیاطین یستمعون ثیابکم،
۲۰۰۲	انس	الشیب نور،
۲۱۵۰	ابو رافع	الشیخ فی اھلہ کالنبی فی امتہ،
۲۱۵۱	ابن عمر	الشیخ فی بیتہ کالنبی فی قوم،

## ﴿ص﴾

۲۲۳۶	ابن مسعود	صلة الرحم تزيد في العمر،
۲۲۳۹	عائشه	صلة الرحم و حسن الخلق،
۲۲۳۵	عمرو بن سهل	صلة القرابة مثرة في المال،
۲۴۹۳	زائد بن خارجہ	صلوا على واجتهد و افى الدعاء،
۲۱۰۱	انس	صنائع المعروف تفي مصارع السوء،
۲۱۰۲	ام سلمہ	صنائع المعروف تفي مصارع السوء،
۱۹۹۳	ابن عمر	الصفرة خضاب المؤمن،
۲۳۲۹	ابن مسعود	الصلوة على وقتها،
۲۳۵۴	مالك بن ربه	الصلوة عليهما،
۲۳۶۱		الصلوة عليهما ابو اسيد،

www.alahazratnetwork.org

## ﴿ط﴾

۲۲۹۶	عبد الله بن زبير	طوبى لمن اسكنه الله تعالى،
۲۷۲۳	سمرة	طوبوا افواهكم بالسواك،

## ﴿ظ﴾

۲۳۶۰	ابن عمر	الظلم ظلمات يوم القيامة،
------	---------	--------------------------

## ﴿ع﴾

۲۰۶۶	ابو هريره	عانق النبي ﷺ الحسن،
۲۲۶۵	عثمان بن ضحاک	عبد مناف عز قريش،
۲۷۳۳	انس	عرضت على اجور امتي،
۲۰۴۶	عائشه	عشر من الفطرة قص الشارب،
۲۰۶۰	ابن مسعود	علمني التشهد و كفى بين كفيه،



۲۲۰۱	سمرہ	علی الید ما اخذت حتی تردها،
۲۳۷۳	ابن عباس	علیکم عباد اللہ بالدعاء،
۲۳۵۸	ابو ہریرہ	عم الرجل صنوا بیه
۲۵۹۹	عمرو بن عسبہ	عن یمین الرحمن فکلتا یدیہ ،
۲۳۸۳	ابو ہریرہ	العجماء جبار،

## ﴿غ﴾

۲۵۹۵	ابن عمر	غنیمة مجالس اهل الذکر الجنة،
۲۲۹۴	ابو داؤد	غیر النبی ﷺ اسم عزیز،
۱۹۹۹	انس	غیر و الشیب ولا تقربوا السواد،
۱۹۹۶	جابر	غیر و هذا الشیب واجتنبوا السواد،
۲۵۴۵	ابن عمر	الغازی فی سبیل اللہ ،
۲۱۹۷	ابن مسعود	الغناء ینبت النفاق،
۲۱۹۸	اجبر	الغناء ینت النفاق،
۲۲۵۳	جابر	الغیبة اشد من الزنا،

## ﴿ف﴾

۲۶۶۹	انس	فاذا کان يوم الجمعة،
۲۶۱۸	بریدہ بن حصیب	فاذهب فالتمس ازديا،
۲۳۳۷	ابو سعید	فارجع اليها فاستأ ذنهما
۲۰۷۳	ابو ذر	فالتزمني فكانت تلك اجود اجود،
۲۳۴۴	معاویہ بن جاہمہ	فألمهما فان لجنة عند رجليهما،
۲۷۶۱	ام ہانی	فضل اللہ قریشا بسبع خصال ،
۲۰۷۰	یعلیٰ بن مرہ	فضمهما، (الحسن و الحسين)
۲۵۵۶	عمر	فمن لقيه منكم فليستغفر لكم،

۲۳۳۳	ابن عمر	فهل من والديك اهد حيي،
۲۶۸۳	ابو هريره	فهى سوداء مظلمة،
۲۵۱۸	ابو هريره	فى الجمعة ساعة لا يوفقها،
۲۳۷۹	ابو هريره	فى كل ذات كبد حرى اجر،
۲۵۱۳	ابو هريره	فيه ساعة لا يوافقها،
۲۱۱۸	انس	الفتنه نائمة،

## ﴿ق﴾

۲۲۸۰	نبيط بن شرط	قال الله عزوجل و عزتى و جلالى،
۲۶۸۹	ابو هريره	قال الله رسول الله ﷺ لعمه،
۲۸۷۸	عائشه	قال لى جبرئيل : قلبت مشارق،
۲۴۵۵	انس	قال ربكم انا اهل ان القى،
۲۲۱۸	ابو هريره	قتل الرجل صبرا كفارة
۲۲۱۷	عائشه	قتل الصبرا لا يمر بذنب الا محاه،
۲۷۵۱	على	قدموا قيرشا ولا تقدموها،
۲۷۵۶	عمرو بن عاص	قريش خالصة الله تعالى،
۲۷۶۴	وضعين	قريش سادة العرب،
۲۷۵۵	عائشه	قريش صلاح،
	جابر	قريش على مقدمة الناس،
۲۰۱۹	ابو هريره	قصور الشوارب واعفو اللحي،م
۲۷۸۵	محمد بن مسلم	قسم الحياء عشرة اجزاء،
۲۷۱۱	ابو سعيد	قل هو الله تعدل ثلث القرآن،
۲۵۸۸	حبير بن مطعم	قوة الرجل من قريش قوة رجلين،
۲۴۳۲	عمر بن اميه	قيدها و توكل،

## ﴿ك﴾

۲۵۸۷	ابو برزہ	كان رسول الله ﷺ اذا جلس،
۲۵۸۸	رافع	كان رسول الله ﷺ اذا جلس،
۲۴۸۸	عمر	كان رسول الله ﷺ اذا رفع يديه
۲۲۷۵	عائشہ	كان رسول الله ﷺ اذا سمع بالاسم،
۲۰۵۰	جابر	كان رسول الله ﷺ كثير شعر اللحية،
۲۷۴۱	ابن عباس	كان رسول الله ﷺ لا يعرف فصل السورة،
۲۲۷۳	ابن عباس	كان رسول الله ﷺ يتفأل ولا يتطير،
۲۱۳۰	عائشہ	كان رسول الله ﷺ يحب التمين،
۲۱۸۶		كان رسول الله ﷺ يضع لحسان
۱۹۵۶	ابن مسعود	كان على موسى عليه الصلوة والسلام يوم كلمه،
۲۰۴۰	سمره	كان النبي ﷺ يحث على الصدقة،
۲۵۷۰	عائشہ	كان النبي ﷺ يذكر الله على كل،
۲۷۰۱	على	كانت مشية الله عز وجل،
۲۵۶۴	انس	كبرى الله عشرا (الام سليم)
۲۷۰۷	على	كتاب الله فيه نبأ ما قبلکم،
۲۴۲۸	ابو هريره	كل امتي معا في المجاهرين،
۲۳۴۱	ابو بكره	كل الذنوب يؤخر الله تعالى،
۲۱۸۲	جابر	كك شيء ليس من ذكر الله،
۲۱۸۱	ابو هريره	كل شيء من لهو الدنيا،
۲۴۱۷	ابو درداء	كل شيء يتكلم به ابن آدم،
۲۱۷۹	عقبه	كل شيء يلهو به الرجل
۲۶۹۵	ام سلمه	كل قبر لا يشهد صاحبه،
۲۷۱۳	سمره	كل مؤدب يجب ان يؤتى،

۲۶۰۰	ابو ہریرہ	کل مجلس یدکر اسم اللہ،
۲۱۷۸	ابو درداء	کل لہو المسلم حرام الا،
۲۵۸۳	عمر	کل لہو کرہ الا ملاعبہ،
۲۵۸۳	ابو ہریرہ	کلمتان حبیبتان الی الرحمن،
۲۴۳۷	ابن عمر	کن فی الدنیا غریب،
۲۷۲۷	ابن مسعود	کنا اذا تعلمنا،
۲۷۶۳	ابو ذر	کنا نة عز العرب،
۲۴۳۵	ابن مسعود	کیت کیتان
۲۴۵۳	یحیٰ بن کثیر	الکرم التقوی والشرف والتواضع،
۲۳۸۸	عائشہ	اسکلب الاسود البہیم الشیطان،

## ﴿ل﴾

۲۳۰۲	عائشہ	لا ابا یعک حتی تغیری کفیک،
۲۰۴۳	عائشہ	لا امثل بہ فیمثل اللہ
۲۱۰۵	انس	لاتبا غضوا و لا تحاسدوا،
۲۷۵۹	علی	لا تؤموا قریشا و أتموها،
۲۳۲۴	ابو ذر	لا تحقرن من المعروف شیئا،
۲۵۰۴	جابر	لا تدعوا علی انفسکم،
۲۳۰۹	عائشہ	لا تسکنواہن الغرف،
۲۲۹۳	عبد الرحمن بن سمرہ	لا تسمہ عزیزا،
۲۱۳۵	ابو سعید	لا تصاحب المؤمنا،
۲۴۶۷	انس	لا تعجزوا فی الدعاء،
۲۳۳۵	معاذ	لا تعقن والدیک و ان آمراک،
۲۳۱۱	ابن عباس	لا تعلموا نسائکم الکتابۃ،
۲۳۰۱	ابن مسعود	لا تعلموا نسائکم الکتابۃ،

۲۱۷۱	بریدہ	لا تقولوا للمنافق: یا سید،
۲۱۲۱	ابن عمرو	لا تكن مثل فلان كان يقوم،
۱۹۵۹	عمر	لا تلبسوا الحریر،
۲۵۵۵	عمر	لا تنسانا یا اخي من دعاءك،
۲۹۰۸	علی	لا تنقضی عجائبه،
۲۲۰۲	علی	لا ضمان علی قصار و صباغ،
۲۰۳۴	علی	لا تمثلوا بآدمی ولا بهیمة،
۲۰۳۹	حکم بن عمیر	لا تمثلوا بشئ من خلق الله،
۲۰۴۲	یعلی	لا تمثلوا بعباد الله،
۲۰۹۰	انس	لا (فی جواب الانحاء)
۲۰۵۹	انس	لا، قال فیأخذ، یدہ،
۲۲۹۹	حسن بصری	لا، ولكن اكرموا بینکم،
۲۰۲۱	ابو سعید	لا، يأخذن احدکم طول لحية،
۲۲۵۹	ابو موسی	لا یبغی علی الناس الا ولد بغی،
۲۳۶۲	مالک بن ربیعہ	لا یبقی للولد من الوالد الا،
۲۵۷۸	خبيب بن مسلم	لا یجتمع ملاً فیدعو،
۲۱۴۱	علی	لا یحب رجل قوما الا جعله،
۲۳۰۸	ابو هریرہ	لا یحل لأمرأة تو من با الله،
۲۱۰۸	ابو ایوب	لا یحل للرجل ان یهجر، اخاه،
۲۱۰۹	ابو هریرہ	لا یحل لمؤمن ان یهجر مؤمنا،
۲۱۰۷	ابو هریرہ	لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه،
۲۱۲۶	ابو حمید	لا یحل لمسلم ان يأخذ عصا اخیه،
۲۶۲۰	اسامہ بن زید	لا یرث المسلم الکافر فیدعو،
۲۴۷۵	سلمان	لا یردو القضاء الا دعا،



۲۶۰۵	عبد اللہ بن بشیر	لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ ،
۲۴۲۹	مغیرہ	لا یزال العذاب مکشوفاً،
۲۴۹۶	ابو ہریرہ	لا یزال یستجاب العبد،
۲۲۱۹	ابو ہریرہ	لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس،
۲۱۲۸	ابو ہریرہ	لا یقل احد کم عبیدی و امتی،
۲۷۷۹	ابو امامہ	لا یقوم الرجل من مجلسه،
۲۰۵۸	براء بن عازب	لا یلقى مسلم مسلماً،
۲۷۶۸	جابر بن سمرہ	لا یملی مصاحفنا الا،
۲۹۸۴	ابن عمر	لا ینظر اللہ الی من جر ثوبه،
۱۹۸۲	ابو ہریرہ	لا ینظر اللہ یوم القیامۃ،
۲۶۱۵	فضالہ بن عبید	للہ اشدا اذنا الی الرجل ،
۱۹۹۲	ام سلمہ	لیۃ لا لیتین،
۲۴۶۶	ابو ہریرہ	لیکثر من الدعاء،
۲۲۰۸	ابو ہریرہ	لتؤدن الحقوق الی اهلها،
۲۳۶۰	بریدہ	لعلہ ان یکون بطلقة واحدة،
۲۶۹۳	ابو سعید	لعلہ تنفعہ شفاعتی،
۱۹۷۸	ابو ہریرہ	لعن اللہ الرجل یلبس لبسة،
۲۳۸۴	ابن عمر	لعن اللہ من مثل بال حیوان،
۱۹۷۷	ابن عباس	لعن اللہ المتشبهات من النساء،
۱۹۷۹	ابن عباس	لعن اللہ المتشبهات من النساء،
۱۹۹۷	ابن مسعود	لعن اللہ الواشمات و الموتشحات،
۱۹۷۵	بعض الشیوخ	لعن اللہ و الملائکۃ رجلاً تأتت،
۱۹۷۶	عائشہ	لعن رسول اللہ ﷺ الرجلۃ من النساء،
۱۹۸۴	ابو ہریرہ	لعن رسول اللہ ﷺ خنثی الرجال،

۱۹۸۰	ابن عباس	لعن رسول اللہ ﷺ المحنثین من الرجال،
۲۵۰۳	جابر	لقد بارک اللہ لرجل فی حاجة،
۲۵۰۹	بریدہ	لقد سال اللہ باسمہ الاعظم،
۲۵۱۱	انس	لقد سال اللہ باسمہ الاعظم،
۲۷۳۸	حسن بصری	لکل آیۃ ظہر و بطن،
۱۷۱۰	علی	لکل شیء عروس،
۲۵۲۸	ابن عمر	لکل عید صائم دعوة مستجابة،
۲۷۳۶	عبد الرحمن بن عوف	للقرآن نجاح العباد،
۲۰۷۸	عائشہ	لما اجتمع اصحاب رسول اللہ ﷺ وفيہ قصۃ،
۲۷۷۶	ابو امامہ	لما بلغ ولد معد بن عدنان،
۲۶۹۰	مسیب	لما حضرت ابا طالب الوفاۃ،
۲۶۸۸	ابو ہریرہ	لما خلق اللہ تعالیٰ الجنۃ،
۲۱۴۸	ابن مسعود	لما وقت بنوا السرائیل فی المعاصی،
۲۲۱۹	انس	لو ان صاحب بدعۃ مکذبا بالقدر،
۲۷۸۱	انس	لو انی اخذت لجلقۃ باب الجنۃ،
۲۷۸۴	معاذ	لو کان ثابتاً علی احد،
۲۴۴۸	انس	لو کان لا بن آدم و ادمن ذهب،
۲۳۰۳	عائشہ	لو کنت امرأۃ لغيرت اظفارها،
۲۲۶۶	ابو بکر الصديق	لو لم ابعث فيکم مبعث عمر،
۲۶۲۴	ام سلمہ	لیأتین علی الناس زمان،
۲۱۹۶	ابو امالک	لیکونن اقوام من امتی،
۲۱۹۱	ابو امالک	لیکونن فی امتی اقوام،
۲۴۵۰	انس	لیس بخیر کم من ترک دنیاہ
۲۱۹۹	زید بن ارقم	لیس الخلف ان يعد الرجل،

۲۴۶۴	ابو ہریرہ	لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء،
۲۲۵۵	معاویہ بن حیدہ	لیس للفاسق غیبة،
۲۱۴۹	عبادہ	لیس من امتی من لم یبجل،
۱۹۶۷	ابن عمر	لیس منا من تشبه بالرجال،
۲۳۱۷	ابن عمر	لیس منا من بغیرنا،
۲۰۸۹	عمرو بن شعیب	لیس منا من بغیرنا
۲۳۱۶	ابن عباس	لیس منا من عمل بسنة غیرنا،
۲۲۵۸	ابو ہریرہ	لیس منا من غشنا،
۲۷۱۸	ابو ہریرہ	لیس منا من لم تیغن بالقرآن،
۲۱۷۳	ابن عمرو	لیس منا من لم یرحم صغیرنا،
۲۱۷۴	ابن عباس	لیس منا من لم یرحم صغیرنا،
۲۱۷۵	ضمیرہ	لیس منا من لم یرحم صغیرنا،
۲۰۸۰	جابر	لینتھن کل رجل الی کفوہ،



۲۲۸۲	علی	ما اجتمع قوم قط،
۲۰۰۸	ابن عباس	ما احسن هذا الخضاب الحناء،
۲۷۱۴	ابو ہریرہ	ما اذن اللہ بشیء،
۲۴۴۱	ابن عمر	ما اری الامر الا اعجل من ذلك،
۲۴۲۲	ابو بکر	ما اصر من استغفر،
۲۱۲۷	ابن عباس	ما انت محدث قوما حدیثا لا تبلغه،
۲۶۵۹	عبد الرحمن بن ابی رافع	ما بال اقوام یزعمون ان شفاعتی،
۲۶۶۰	ابو ہریرہ	ما بال اقوام یزعمون ان قرابتی،
۲۲۰۵	عائشہ	ما زال جبرئیل یو صینی،
۲۶۳۷	انس	ما زلت اتردد علی ربی،

۲۲۸۳	عثمان بن عمرو	ما ضی لو کان فی بیتہ،
۲۵۸۰	جابر	ما عمل آدمی عملاً،
۲۲۴۸	انس	ما کان الفحش فی شیء قط،
۲۶۹۹	انس	ما یبکیک (لا بی بکر)،
۲۱۳۴	عبادہ	ما من امرء یقرأ القرآن، سعد بن
۲۲۳۸	ابو بکرہ	ما من اهل بیت یتوا صلون،
۲۵۶۸	ابو ہریرہ	ما من دعا احب الی اللہ تعالیٰ،
۲۵۷۹	معاذ	ما من شیء انجاء من عذاب
۲۷۹۷	جابر	ما من شیء بدئ یوم الاربعاء،
۲۶۷۸	انس	ما من قوم اجتمعوا یدکرون اللہ،
۲۶۰۱		ما من قوم اجتمعوا یدکرون اللہ لاحفت
۲۴۳۷	انس	ما من مسلمین التقیافاخذ احدهما،
۲۴۳۷	انس	مثل جلس السوء کمثل صاحب الکیر
۲۴۲۵	ابو سعید	مثل المومن و مثل الایمان،
۲۵۲۴	انس	مع کل ختمۃ دعوة مستجابة،
۲۳۴۰	ابو ہریرہ	ملعون من عق عن والديه،
۲۳۸۶	ابو ہریرہ	من اتخذ کلبا الاکلب ماشیة،
۲۲۳۳	ابو ہریرہ	من احب ان یسط له،
۲۳۷۶	ابن عمر	من احب ان یصل اباه،
۲۱۴۲	ابو قرصافہ	من احب قوما حشرہ اللہ تعالیٰ،
۲۱۰۶	ابو امامہ	من احب للہ و البغض للہ،
۲۲۶۲	ابن عمر	من اخذ من الارض،
۲۲۶۳	حکم بن حارث	من اخذ من طریق المسلمین،
۲۲۲۰	میمونہ	من ادا ان دنیا ینوی،

۲۵۲۶	علی	من ادی قریضۃ،
۲۵۴۹	ابو سعید	من استعف اعفہ اللہ،
۲۴۷۹	عبادہ	من استغفر للمؤمنین،
۲۴۸۰	ابو درداء	من استغفر للمؤمنین،
۲۴۸۱	انس	من استغفر للمؤمنین،
۲۴۳۱	ابو سعید	من استغنی اغناہ اللہ تعالیٰ،
۲۱۱۶	ابو ہریرہ	من اطلع فی بیت قوم،
۲۲۱۶	ابن عمرو	من اعان علی خصومة،
۲۳۱۲	جابر	من اعطی عطاء فوجد،
۲۲۶۸	انس	من اغتتب عندہ اخوہ،
۲۲۶۱	سعید بن زید	من اقتطع شبرا من الارض،
۲۳۸۵	ابن عمر	من اقتنی کلبا الا کلب ما شیۃ،
۲۳۲۱	جابر	من اولی معروف فلیجد
۲۳۷۱	عبد الرحمن بن سمرہ	من بر قسمہما و قضی دینہا،
۲۱۲۵	عائشہ	من بورك له فی شیء فلیلزمہ ،
۲۲۲۱	ابو امامہ	من تداین بدین و فی نفسہ،
۲۵۳۱	عبادہ	من تعار من اللیل
۲۱۲۰	ابو سعید	من تواضع للہ رفعہ اللہ ،
۱۹۸۷	ابن عمر	من جر ثوبہ خیلا،
۱۹۸۳	ابو ہریرہ	من جلس مخیلۃ،
۲۳۸۹	ابو ہریرہ	من جلس مجلسا تثر فیہ،
۲۳۶۹	جابر	من حج عن ایہ وعن امہ،
۲۳۶۷	ابن عباس	من حج عن والدیہ،
۲۳۷۰	ابن عمر	من حج عن والدیہ،



۱۹۹۵	ابو درداء	من خضب بالسواد،
۲۵۵۷	ابو بکر	من دعا بهذا الدعاء،
۲۲۹۶	عمیر بن سعد	من دعا رجلا بغير اسمه،
۲۳۷۲	ابو ہریرہ	من زار قبر ابویہ،
۲۳۷۳	ابو بکر،	من زار قبر ابویہ،
۲۳۷۵	ابن عمر	من زار قبر ابویہ،
۲۳۷۴	ابو بکر	من زار قبر والدیہ،
۲۶۱۱	انس	من زوی میراثا عن،
۲۷۸۸	عمر	من سب العرب،
۲۳۰۰	امیر معاویہ	من سرہ ان ینتمثل لہ الرجال
۲۵۰۷	سلمان	من سرہ ان یتجنب اللہ،
۲۵۵۰	ابو ہریرہ	من سرہ ان یتجنب اللہ،
۲۴۵۴	ابن عباس	من سرہ ان یکون اکرم الناس،
۲۲۳۴	علی	من سرہ ان یمدله فی عمرہ،
۲۰۰۳	ام سلیم	من شاب شیبۃ فی الاسلام،
۲۵۲۵	عریاض	من صلی صلوۃ فریضۃ،
۲۲۳۲	ابو ہریرہ	من عرض علیہ ریحان،
۲۴۲۰	معاذ	من غیر اخاہ بذنب،
۲۶۱۰	انس	من فر من میراث و ارثہ،
۲۴۸۷	ابن عمرو	من فتحت لہ ابواب الدعاء،
۲۱۱۹	بن عمرو	من قال انا عالم فهو جاهل،
۲۵۹۰	جبیر بن مطعم	من قال سبحان اللہ وبحمدہ
۲۳۹۶	ابن مسعود	من قتل حیۃ فکانما،
۲۴۰۵	ابن مسعود	من قتل حیۃ فلہ سبع حسنۃ،

۲۳۹۷	ابن مسعود	من قتل حية او عقربا،
۲۷۰۴	ابن مسعود	من قرء حرفا من كتاب الله ،
۲۷۲۴	على	من قرء القرآن فاستنظهره،
۲۱۹۳	انس	من قعد الى قينة،
۲۱۹۵	حذيفه	من قعد وسط الحلقة،
۲۱۱۱	ابن عمر	من كان فى حاجة اخيه،
۲۲۵۱	بعض الصحابة	من كان يومن بالله،
۲۵۶۵	عبد الله بن ابى اوفى	من كانت له الى الله حاجة،
۲۲۰۷	ابو هريره	من كانت له مظلمة،
۲۴۴۳	ابن عمر	من كنز دنيا يريد،
۱۹۶۰	حوريه	من لبس ثوب حريرا لبسه،
۱۹۶۵	ابن عمر	من لبس ثوب شهرة،
۱۹۶۴	حذيفه	من لبس حريرا لبسه،
۱۹۶۱	عمر	من لبسه فى الدنيا،
۲۱۷۶	بريده	من لعب بالنرد مشير،
۲۱۷۷	ابو موسى	من لعب بالنرد مشير فقد عصى ،
۲۴۸۶	ابو هريره	من لم يسئل الله ،
۲۳۳۳	نعمان بن بشير	من لم يشكر القليل
۲۳۲۰	ابو سعيد	من لم يشكر الناس،
۲۶۰۷	ابو هريره	من لم يكثر ذكر الله ،
۲۰۳۰	ابن عمر	من مثل بالحيوان فعليه،
۲۰۰۵	ابن عباس	من مثل بالشعر فليس له،
۲۹۴۵	ابن عباس	من مثل بالشعر فليس له
۲۲۶۴	اوس بن شرحبيل	من مثى مع ظالم ليعينه،

۲۲۰۳	ابن عباس	من نظر فی کتاب اخیه،
۲۲۸۵	ابن عباس	من ولد له ثلاثة اولاد،
۲۲۷۹	ابو امامہ	من ولد له مولود،
۲۷۵۷	سعد بن ابی وقاص	من یرد ہوان قریش،
۲۳۵۵	انس	من البران تصل صدیق ابیک
۲۰۶۲	ابن مسعود	من تمام التحیۃ الاخذ بالید،
۲۰۲۹	ابو ہریرہ	من حسن اسلام المرء ترکہ،
۲۴۴۰	عائشہ	من الدنیا دار من لا دار له
۲۰۱۱	ابن عباس	من سعادۃ المرء خفۃ لحیتہ،
۲۰۸۴	بہیسہ	الماء قال: یانبی اللہ،
۲۷۲۵	عائشہ	الماهر بالقرآن مع السفرة،
۱۹۹۸	اسماء	المتشبع بما لم یعط کلابس،
۲۱۴۳	ابن مسعود	المرء مع من احب،
۲۴۲۴	ابن عباس	المستغفر من الذنب وهو مقیم،

## ﴿ن﴾

۲۶۸۱	انس	نار جہنم سوداء
۲۳۱۸	سعد بن ابی وقاص	نظفوا افیتکم ولا تشبهوا بالیہود،
۲۳۷۸	اسماء	نعم صل امک،
۲۰۹۲	ابو ہریرہ	الناس بنوا آدم،
۲۷۵۴	ابو ہریرہ	الناس تبع لقریش،
۲۴۲۳	ابن مسعود	الندام توبۃ،
۲۲۹۵	ابن مسعود	نہی رسول اللہ ﷺ ان یسمی الرجل،
۲۰۳۶	ابو سعید	نہی رسول اللہ ﷺ ان یمثل،
۲۳۸۲	ابن عباس	نہی رسول اللہ ﷺ عن التحریش بین البہائم،

۲۱۸۰	عبد اللہ بن مغفل مزنی	نہی رسول اللہ ﷺ عن الخذف،
۲۰۰۷	ابن عمر	نہی رسول اللہ ﷺ عن الخضاب بالسواد،
۲۰۱۳۷	عمران	نہی رسول اللہ ﷺ عن المثلة،
۲۰۳۸	علی	نہی رسول اللہ ﷺ عن المثلة ولوبا لکلب،
۲۰۳۵	عبد اللہ بن زید	نہی رسول اللہ ﷺ عن النهبة و المثلة،



۲۰۸۲	عائشہ	واللہ ! ما رأیتہ، عریاناً،
۲۰۲۳	ابو ہریرہ	وفروا اللحی و خذوا من الشوارب،
۲۰۴۹	انس	وقت لنا رسول اللہ ﷺ فی قص،
۲۱۹۴	جابر	ولکن نہیت عن صوتین احمقین،



۲۴۴۲	انس	هذا ابن آدم وهذا اجله،
۲۰۸۵	بن ابی ہالہ	ہالۃ، ہالۃ، ہالۃ، ہالہ بن
۲۲۵۴	جابر	ہذہ ریح الذین یغتابون،
۲۵۰۸	سعد بن مالک	هل ادلکم علی اسم اللہ الاعظم،
۲۶۲۱	اسامہ	هل ترک عقیل من رباع،
۲۶۳۴	ابو ہریرہ	هل تضارون فی القمر،
۲۶۹۲	ابن عباس	هو فی ضحضاح من نار،
۲۱۴	ابو بردہ	ہی ما بین ان یجلس الامام،
۲۶۵۲	ابو ہریرہ	ہی الشفاعۃ،
۲۶۵۱	ابن عمرو	ہی الشفاعۃ،
۲۲۲۸	عصمہ بن مالک	الہدیۃ تذهب بالسمع،
۲۲۲۹	ابن عباس	الہدیۃ لغور عین الحکیم،

الہرہ سبع،

ابو ہریرہ

۲۳۹۱



یا ابالدرداء! اذا فاخرت،

ابو درداء

۲۷۶۶

یا ابا ذر! اتق الله حيث كنت،

ابو ذر

۱۲۰۳

یا الخشبہ! رفقا بالقواریر

انس

۱۲۸۸

یا اهل القرآن! الا توسدوا القرآن

عبیدہ ملیکی

۲۷۲۱

یا ایه الاناس! الا تستحيون

ام ولید بنت فاروق

۲۴۳۸

یا ایہا الناس ربکم واحد

جابر

۲۰۹۳

یا ایہا الناس! لا تتقدموا قریشا،

جبر بن مطعم

۲۷۵۲

یا ایہا الناس! لا تتقدموا قریشا،

باقر

۲۷۵۳

یا بلال! الق الله فقیرا،

بلال

۲۴۳۳

یا بنی! اذا دخلت علی اهلك،

انس

۲۰۸۷

یا رویفعل لعل الحیاة ستطول بك،

رویفع

۲۰۲۹

یا عبداللہ! ارفع اذارک،

ابن عمر

۱۹۸۹

یا علی! الا اعلمک دعاء،

انس

۲۵۶۶

یا معشر قریش! اشتروا انفسکم،

ابو ہریرہ

۲۶۷۸

یا معشر الناس! اتانی جبرئیل،

انس

۲۲۱۵

یا معشر الناس! اجیبوا قریشا

عدی بن حاتم

۲۷۶۲

یا نساء الملمات! لا تحقرن،

ابو ہریرہ

۲۳۵۲

یجلسنی معہ علی السریر،

ابن عمر

۲۶۵۴

یجمع اللہ تعالیٰ الناس،

حذیفہ

۲۶۷۷

یخرج الدجال فیتوجه،

ابو سعید

۲۶۲۷

یدعو اللہ تعالیٰ لصاحب الدین،

عبد الرحمن بن ابی بکر

۲۲۲۳

یدفعون الی رجل من اهل بیتي،

ابن مسعود

۲۶۲۶



۲۵۹۸	انس	یرحم الله ابن رواحة انه يحب،
۲۰۷۵	ابن عباس	يسبح كل رجل الى صاحبه،
۲۵۴۹	ابو هريره	يستجاب لا حدكم،
۲۶۶۲	انس	يصف الناس يوم القيامة،
۲۰۷۶	جابر	يطلع عليكم رجل لم يخلق الله،
۲۲۱۶	ابو امامه	يغفر ليشهد البر الذنوب،
۲۷۸۰	ابو امامه	يقوم الرجل لا خيه،
۲۷۸۰	ابو امامه	يقول الله عزوجل لاحو خيه،
۲۶۸۵	انس	يقول الله عزوجل لاهون اهل النار،
۲۵۹۶	ابو سعيد	يقول الرب عزوجل يوم القيامة،
۲۶۲۵	ابو هريره	يكون في آخر الزمان دجالون،
۲۵۰۶	عبد الله بن مغفل	يكون في هذه الامة قوم،
۱۶۳۰	عبد الله بن مغفل	يكون في هذه الامة قوم،
۱۹۹۴	ابن عباس	يكون قوم في آخر الزمان،
۲۶۲۹	ابو بكره	يمكث ابو الدجال وامه،
۲۵۲۹	ابو هريره	ينزل ربنا كل ليلة،
۲۷۴۳	ابو سلمه	ينظر فيه العابدون،
۲۶۴۹	ابن عباس	يوصغ للانبياء منابر،
		حضرت عيسى عليه الصلوة و السلام،
۲۴۶۲		طوبى لذرية المومن،

## آثار الصحابة والتابعین

۲۰۴۴	ابو بکر صدیق	لا تغدرو ولا تمثل ولا تجبن،
۲۱۲۳	عمر الفاروق	ایاکم ومرأطنة الاعاجم،
۲۲۶۹	عمر الفاروق	عذت معاذ،
۲۶۱۹	عمر الفاروق	کل نسب توصل علیه فی الاسلام،
۲۶۱۳	عمر الفاروق	ما احترز الوالد،
۲۷۴۵	عمر الفاروق	تعلم البقرة،
۲۲۹۸	علی المرتضیٰ	اسجد لله ولا تسجد لی،
۲۶۱۴	علی المرتضیٰ	كان اذا لم يجد،
۲۷۲۹	عبد الله بن عمر	ان عبد الله بن عمر تعلم البقرة،
۲۰۱۳	عبد الله بن عمر	كان يقبض علی لحيته ثم يقص،
۲۰۱۳	عبد الله بن عمر	يقبض لحيته فيقطع،
۲۷۴۴	عبد الله بن مسعود	ایها الناس! قد اتی علينا زمان،
۲۷۳۰	عبد الله بن مسعود	من اراد العلم فليثور القرآن،
۲۳۰	عبد الله بن مسعود	المرأة عورة و اقرب ماتكون،
۲۵۶۳	عبد الله ابن عباس	ان اسم الله الاكبر رب رب،
۲۶۵۵	عبد الله ابن عباس	ان محمدا ﷺ يوم القيامة يجلس،
۲۶۹۱	عبد الله ابن عباس	نزلت ای انك لا تهدي من احببت،
۲۶۸۶	عبد الله ابن عباس	هم ذرية المومن،
۲۰۱۴	ابو هريره	كان يقبض علی لحية فيأخذ ما فضل،
۲۵۵۴	بلال بن الحارث	يا رسول الله! استسق الله لامتك،
۲۵۹۱	عبد الله بن عمرو بن العاص	كلمات لا يتكلم بهن احد،
۲۶۱۷	ضحاک بن قيس	كان طاعون فی الشام،

۱۹۵۵	ابو صفوان	یعت من رسول اللہ ﷺ سراویل
۲۶۵۶	عبداللہ بن سلام	ان اللہ تعالیٰ یقعده علی الكرسي،
۲۷۲۸	ابو عبد الرحمن بن سلمی	انہم كانوا یقترون عشر آیات ولا یأخذون
۲۰۱۰	عثمان بن عبد اللہ بن مہب	ان ام سلمة ارته احمر،
۲۰۰۹	عثمان بن عبد اللہ بن مہب	دخلت علی ام سلمة فاخرجت،
۲۲۸۷	عطاء بن ابی رباح	من اردان یكون حمل زوجته،



# فہرس اطراف الحدیث والآثار

## (المجلد الرابع)

### ﴿الف﴾

۳۲۱۱	انس	اتى باب الجنة يوم اسلقيامه،
۳۴۷۴	على	ابو بكر و عمر خير الاولين،
۲۸۱۴	ابن عباس	اتانى جبرئيل عليه السلام،
۳۱۹۵	ابن عباس	اتانى جبرئيل عليه السلام،
۳۲۲۴	ابو سيعد	اتانى جبرئيل عليه السلام،
۳۲۵۳	ابن عباس	اتانى ربي عزوجل الليلة في،
۲۸۱۹	ابو هريره	اتخذنا الله ابراهيم خليلا و موسى،
۳۲۶۳	ابن عمرو	اتدرون ما هذا ان الكتا بان،
۲۸۷۷	اسامه بن زيد	اتدرى ماجاء بهما،
۲۹۳۵	ابن عمر	اتودين زكوة هذا؟
۳۵۹۵	ابو سعيد	اتقوا فراسة المومن،
۲۸۶۴	ابن مسعود	اتيت بالبراق فركبت،
۲۹۰۱	اسماء بنت زيد	احذرکم المسيح و انذر کموه،
۳۵۴۱	عمر	احفظوني اصحابي،
۳۲۷۹	بكر بن عبد الله	اخبرنا عن مالك السحاب،
۳۱۷۹	جابر	اخرجته من غمرة جهنم،
۳۴۸۴	عائشه	ادعى لى اباك و اخاك،
۳۴۷۱	سهل بن خيثمة	اذا اتى على ابى بكر اجله،
۳۵۶۱	انس	اذا احب الله عبدا لم يضره ذنب،
۳۱۷۵	عبدالله بن يسار	اذا اراد ان يخلفوا،

۳۵۶۹	ابن عمر	اذا اردا د الله بعبد خیرا،
۳۵۶۸	انس	عبدا خیرا،
۳۵۹۰	عتبہ بن غزوآن	اذا اضل احدکم شیئا،
۳۵۹۱	ابن مسعود	اذا نفلت دابة احدکم،
۳۶۲۰	ابن عباس	اذا جلس القاضی فی مجلسه،
۳۱۷۳	ابن عباس	اذا حلف احدکم فلا یقل،
۳۵۳۷	ابن مسعود	اذا ذکر اصحابی فامسکوا،
۲۸۳۳	ابن عمرو	اذا سمعتم الموذن،
۲۸۳۱	ابو ہریرہ	اذا سلیتم علی فاسئلوا،
۳۶۳۷	ابو ہریرہ	اذا قاتل احدکم اخاه،
۳۲۸۴	ابن مسعود	اذا کان الصیحة فی رمضان،
۲۹۱۷	ابن عباس	اذا کان یوم القیامة جمع الله،
۲۸۱۰	ابی بن کعب	اذا کان یوم القیامة کنت،
۳۱۶۱	حذیفہ	اذاا مربالنظفة اثنتان،
۳۶۴۰	ابن عباس	اذهب ادع لی معاویة،
۲۹۹۱	ابن عباس	اذهبی فاسعدیها،
۲۹۹۲	ابن عباس	اذهبی فاسعیدیها،
۲۹۲۸	عبداللہ بن سلامہ	ارجوا ان یغنمک الله مهر،
۳۱۹۱	ابن عباس	ارسلت الی الجن والانس،
۳۰۰۰	زینت بنت ابی سلمہ	ارضعیه فقالت: انه ذولیحة،
۳۰۰۱	عمرہ بنت عبد الرحمن	ارضعیه فأصنعة بعدان،
۲۸۹۰	عبد اللہ بن جعفر	استعمل علیہم زید بن حارثہ،
۳۶۴۲	وائلہ	استفت عن قلبک،
۳۵۴۸	عقبہ	اسلم الناس و آمن عمر،



۳۴۴۶	ابن مسعود	اشد الناس عذابا يوم القيامة،
۱۹۴۴	عمر	اصبروا و بشروا،
۳۳۷۰	سهل بن سعد	اطئن ياعم! فانك خاتم،
۲۸۳۷	ابن مسعود	اطلبوا فضلة من ماء،
۳۳۰۹	معاذ	اعتموا بهذه الصلوة،
۳۲۹۵	علی	اعطيت اربعمائة يعطهن،
۳۲۹۶	ابو امامہ	اعطيت اربعمائة يعطهن،
۳۲۹۳	انس	اعطيت ثلاث خصال
۳۲۹۴	بعض الصحابة	اعطيت ثلاثا لم يعطهن،
۳۲۹۷	ابو موسى	اعطيت خمسا لم يعطها،
۳۰۹۸	علی	اعطيت خمسا لم يعطهن،
۳۲۹۹	جابر	اعطيت خمسا لم يعطهن،
۳۲۰۰	جابر	اعطيت خمسا لم يعطهن،
۲۸۸۵	علی	اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء،
۳۳۰۴	علی	اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء،
۳۳۰۵	عوف بن مالك	اعطينا اربعا،
۲۸۹۶	ابو هريره	اعملوا ان الارض لله و رسوله،،
۳۰۹۳	ابن عباس	اغسلوا بماء و سدر،
۲۸۳۷	ابن مسعود	اقتدوا بالذين من بعدی،
۳۴۴۷	ابن مسعود	اقتدوا بالذين من بعدی،
۳۵۴۲	انس	اکرموا الانصار،
۳۰۰۵	ابن سلمہ	الا ان الله هذا المسجد لا يحل لجنب،
۳۰۴۲	مقدام بن مکرب	الا انی اوتيت القرآن و مثله معه،
۲۸۰۸	ابن عباس	الا و انا حبيب الله،

۲۳۱۴	ابن مسعود	الا و انی ممسک بحجزکم،
۲۹۸۹	ام عطیہ	الا ال فلان ،
۳۲۴۱	ابن عباس	اللہم! اجعل قلبی نوراً،
۳۵۵۳	ابو عمیر	اللہم! اجعلہ ہادیا مہدیا،
۲۹۱۵	انس	اللہم! اسقنا غیثا مغیثا،
۲۹۲۲	انس	اللہم! اسقنا،
۲۹۰۷	انس	اللہم! اشف عمی،
۳۴۹۲	عمر	اللہم! اعز الاسلام باحب،
۳۴۹۱	عائشہ	اللہم! اعز الاسلام بعمر،
۳۲۰۵	ابی بن کعب	اللہم! اغفر لامتی،
۳۴۰۵	براء بن عازب	اللہم! انضر نصرک،
۲۹۴۵	انس	اللہم! ان ابراہیم حرم مکہ،
۲۹۵۰	ابو سعید	اللہم! ان ابراہیم حرم مکہ،
۲۹۴۷	ابو ہریرہ	اللہم! ان ابراہیم خلیلک،
۳۳۱۸	علی	اللہم! ابہم عترۃ رسولک،
۲۸۷۵	انس	اللہم! انی احرم ما بین جبلہا،
۲۹۱۱	عثمان بن حنیف	اللہم! انی اسئلك و اتوجه ،
۳۵۵۱	ابن عباس	اللہم! فقہہ فی الدین
۲۸۸۱	عمر	القد و رسولہ مولی من لا مولی له
۳۰۰۶	محمد بن مالک	البس ما کساک اللہ و رسولہ ، ،
۳۵۲۳	بعض الصحابہ	الزموا مودتنا اهل البيت،
۲۹۹۴	ابو نعمان	اما تحسن مورة من القرآن،
۳۳۶۳	سعد بن ابی وقاص	اما ترضی ان تكون منی بمنزلة،
۳۱۷۲	حذیفہ	اما والله ان كنت لا عرفها،

۲۹۰۰	حسن بصری	اما والله انه احق ان يعاذ منه ،
۳۲۱۷	مکحول	اما انت يا معرفارضه،
۲۹۴۱	زینب بن ابی رافع	اما حسن فان له جهنی
۲۹۴۲	ابو رافع	اما الحسن فقد نحلة،
۲۹۰۳	ابن عمرو	اما ما كان لی ولبنى عبد المطلب،
۲۹۳۴	کعب بن مالک	امسك عکیک بعض مالک،
۳۰۷۹	حفصه	امرازواجه ان یحللن،
۳۰۷۸	جابر	امراصحانه ان یجعلوها،
۳۰۸۲	ابن مسعود	امر بزکاة الفطر،
۳۰۸۲	ابن عمر	امر بزکاة الفطر،
۳۱۵۸	ابن عمر	امر بزکاة الفطر
۳۱۵۹	ابن جابر	امر بزکاة الفطر،
۳۰۸۴	ابن عمر	امر بقتل الکلاب،
۳۰۸۵	ام شریک	امر بقتل الوزغ،
۳۱۶۰	جابر	امر بلعق الاصابع،
۳۱۵۷	عبد الله بن حنظلہ	امر بالوضؤ عند کل صلوۃ،
۳۰۸۰	ابن عباس	امر الناس
۳۱۵۵	ابن عمر	امر النا بالصیام، ،
۳۰۴۶	ابن عباس	امرهم بالله عزوجل ،
۳۱۶۱	جابر	امرنا ان نشترک فی الابل،
۳۱۶۲	سهل بن سعد	امرنا ان نعجل الافطار،
۳۱۶۳	عمار بن یاسر	امرنا باقصار الخطب،
۳۴۰۶	سیابہ ابن عاصم	انا ابن العواتک ،
۳۴۰۷	قتاده	انا ابن العواتک ،

۳۱۸۲	ام سلمہ	انا اکبر منك،
۳۲۱۸	انس	انا اکثر الانبياء تبعاء،
۳۲۱۲	ابو ہریرہ	انا اول من يدخل الجنة،
۳۲۲۰	انس	انا اول من يدق باب الجنة،
۳۲۰۶	انس	انا اول الناس خروجاً،
۳۲۰۹	ابو ہریرہ	انا اول الناس من تنشق،
۳۲۱۹	انس	انا اول الناس يشفع في الجنة،
۳۴۱۴	ابو ہریرہ	انا اولی بالمومنین من انفسهم،
۳۳۹۲	ابو ہریرہ	انا اولی الناس بعيسى بن مريم،
۳۲۲۷	ابو ہریرہ	انا دعوة ابراهيم،
۳۲۲۸	ابو سعید	انا دعوة ابراهيم،
۲۸۰۷	عائشہ	انا سيد العالمين،
۲۸۰۲	ابو ہریرہ	انا سيد الناس يوم القيامة،
۲۸۰۵	عبادہ	انا سيد الناس يوم القيامة،
۲۸۰۳	ابو سعید	انا سيد ولد آدم لا فخر،
۲۸۰۳	ابو ہریرہ	انا سيد ولد آدم يوم القيامة،
۳۳۴۳	جابر	انا قائد المرسلين ولا فخر،
۳۴۰۸	انس	انا محمد بن عبد الله،
۳۱۸۱	جبیر بن مطعم	انا محمد واحمد،
۳۳۳۰	ابو موسیٰ	انا محمد و احمد،
۳۳۳۱	حذیفہ	انا محمد و احمد،
۳۴۰۳	براء بن عازب	انا النبی لا کذب،
۳۴۰۴	شبیہ	انا النبی لا کذب،
۳۵۳۵	ہند بن ابی ہالہ	ان الله تعالى ابی لی ان اتزوج،

۳۵۴۰	ان الله تعالى اختارني و اختار لي اصحابا، انس
۳۳۳۹	ان الله تعالى ادرك بي، ابن ام مكتوب
۳۲۱۵	ان الله تعالى ادرك الاجل، عمرو بن قيس
۲۸۴۸	ان الله تعالى اعطى موسى الكلام، جابر
۲۸۲۱	ان الله تعالى اوحى في الزبور، وهب بن منبه
۲۹۲۵	ان الله تعالى الى اوحى الى شعيه عليه السلام، وهب بن منبه
۲۸۶۳	اوتيت بدابة فوق الحمار، انس
۲۸۸۶	اوتيت بمقاليد الدنيا، جابر
۲۸۸۷	اوتيت مفاتيح كل شيء الا الخمس، ابن عمر
۳۴۳۷	اوحى الله تعالى الى موسى عليه الصلوة والسلام، انس
۲۸۱۵	اوحى الله تعالى الى موسى عليه الصلوة والسلام، انس
۳۸۹۴	اوحى الله تعالى الى عيسى عليه الصلوة واسلام، انن عباس
۳۳۲۴	اوحى الله تعالى الى شعيا عليه الصلوة والسلام، وهب بن منبه
۳۳۴۵	اول الرسل آدم و آخرهم محمد ﷺ، ابوذر
۳۲۰۱	اول من يكسى ابراهيم، ابن مسعود
۳۵۱۷	اول من يرد على حوض، على
۳۳۹۴	اهريقوا على من سبع قرب، عائشه
۳۸۸۹	اهل بيتي امان لا متي، جابر
۲۹۹۸	اين المحترق آنفا، عائشه
۳۶۵۰	اي ورب هذه البلدة، حمزه بن عبد المجيد
۳۴۳۸	اي الانبياء اول، ابو ذر
۳۰۹۱	اياكم و الظن فان الظن، ابو هريره
۳۴۸۸	ان الله تعالى باهى باهل عرفة، ابن عباس
۲۹۷۳	ان الله تعالى حبس ان مكة الفيل، ابو هريره



۳۴۲۷	اوس بن اوس	ان الله تعالى حرم على الارض ان تاكل ،
۲۹۷۲	ابن عباس	ان الله تعالى حرم مكة ،
۳۴۳۹	ابو هريره	ان الله تعالى خلق آدم على صورة ،
۲۸۰۹	عباس بن المطلب	ان الله تعالى خلق الخلق فجعلنى ،
۲۸۳۴	عباده	ان الله تعالى رفعنى يوم القيامة ،
۳۲۵۸	ثوبان	ان الله تعالى زوى لى الارض ،
۳۲۳۹	ابن عمر	ان الله تعالى سيخلص رجلا ،
۳۵۲۵	لفاطمة	ان الله تعالى غير معذبك ،
۲۶۳۲	ابو ثعلبه	ان الله تعالى فرض فرائض ،
۳۵۶۰	ابو هريره	ان الله تعالى قال : لا يزال عبدى ،
۳۳۰۷	ابو هريره	ان الله تعالى قال لى : يا محمدا ،
۳۴۳۳	ابى بن كعب	ان الله تعالى قد اعطانى الاسئلة ،
۳۲۵۰	ابن عمر	ان الله تعالى قد رفع لى الدنيا ،
۲۹۸۱	ابو هريره	ان الله تعالى قد فرض عليكم الحج ،
۲۹۸۲	ابن عباس	ان الله تعالى كتب عليكم الحج ،
۲۸۱۳	سلمان	ان الله تعالى كلم موسى ،
		ان الله تعالى ليدفع
۳۰۳۹	جابر	ان الله تعالى و رسوله حرم بيع الخمر ،
۳۲۷۲	انس	ان الله تعالى و كل على الرحم ،
۳۶۵۳	ابو بكره	ان الله تعالى يؤيد هذا الدين باقوام ،
۳۵۶۳	ابو درداء	ان الله تعالى يقول : اعطيهم من حلمى ،
۳۶۵۴	ابو وائل	ان الله تعالى يقول : ان الله يمسك ،
۳۵۷۰	انس	ان الله تعالى يقول : انى لا هم باهل ،
۳۵۶۵	ابو هريره	ان الله تعالى يقول : يوم القيامة

۳۱۹۳	سلمان	ان الله تعالى يقول: خلقت الخلق،
۳۶۱۰	ابو هريره	ان الله تعالى يقول: عبد المومن احب الى ،
۳۱۸۸	ابو هريره	ان الله تعالى ينزل المعونة،
۳۵۷۵	ابن عباس	ان الله تعالى ينصر القوم باضعقهم،
۲۹۶۱	صعب بن خيامه	ان رسول الله ﷺ حرم البقيع، ،
۲۹۵۸	شرحبيل	ان رسول الله ﷺ صيدها،
۲۹۶۸	جابر	ان رسول الله ﷺ كل دافة،
۲۹۵۵	رافع	ان رسول الله ﷺ ما بين لا بتى المدينة،
۲۹۵۹	ابو سعيد	ان رسول الله ﷺ ما بين لا بتى المدينة،
۲۹۵۷	سعد بن ابى وقاص	ان رسول الله ﷺ هذا الحرم،
۳۲۷۰	ابن عمر	ان رسول الله ﷺ دخل على ام ابراهيم،
۳۳۴۶	عمر	ان رسول الله ﷺ كان فى الاصحاب،
۳۳۴۶	عمر	ان رسول الله ﷺ كان فى محفل من اصحابه
۳۴۲۵	عروه بن مسعود	ان رسول الله ﷺ كان لا يتوضأ الا ابتداء و
۳۰۱۷		ان رسول الله ﷺ كان يصلى بعد العصر وينهى عنها عائشه
۲۸۴۱	ذكوان	ان رسول الله ﷺ لم يكن يرى له،
۳۳۷۸	زيد بن ابى اوفى	ان رسول الله ﷺ لما آخى بين اصحابه ،
۳۰۱۸	ابو هريره	ان رسول الله ﷺ نهى عن الصلوة بعد العصر،
۳۰۲۰	عمر	ان رسول الله ﷺ نهى عن الصلوة بعد العصر،
۲۹۰۴	جابر	ان النبى ﷺ امر الشمس،
۲۸۲۷	انس	ان النبى ﷺ بالبراق،
۳۴۲۲	انس	ان النبى ﷺ دعا بالحلاق،
۳۳۲۵	ابن عباس	ان النبى ﷺ كان يسمى،
۲۶۲۹	انس	ان النبى ﷺ كان يمتسط،

۳۶۱۵	جابر	ان ابن آدم لفی غفلة عما خلق له
۳۵۳۲	ابو بکرہ،	ان ابني هذا مسید،
۳۵۲۸	ابن عباس،	ان ابنتی فاطمة آدمیة حوراء
۲۹۵۲	جابر	ان ابراهيم حرم بیت الله،
۲۹۴۹	رافع	ان ابراهيم حرم مكة و انی احرم،
۲۸۷۶	جابر	ان ابراهيم حرم مكة و انی حرمت،
۲۹۴۶	عبد الله بن زید	ان ابراهيم حرم مكة و دعا لا هلهما،
۳۶۱۹	ابن مسعود	ان احدكم یجمع خلقه،
۳۲۰۸	ابو هریره	ان ادنی اهل الجنة،
۳۲۰۷	انس	ان اسفل اهل الجنة
۳۶۴۶	عبادہ	ان اول ما خلق الله القلم،
۳۳۰۶	عبادہ	ان جبریل اتانی،
۳۲۰۲	عبادہ	ان جبریل بشرنی،
۳۶۶۳	علی	ان ربکم تعالیٰ لیعجب من عبده،
۲۹۰۸	حذیفہ	ان ربی تبارک و تعالیٰ استشارنی،
۲۹۱۰	عثمان بن حنیف	ان رجلا ضریرا أتی،
۲۹۱۸	ابن عباس	ان سیدا بنی دارا و اتخذ،
۳۰۱۰	ابن عمر	ان عثمان انطلق،
۳۵۲۷	ابن مسعود	ان فاطمة احصنت،
۳۶۰۱	ابو سعید	ان فی الجنة نهرا،
۳۲۶۹	ام الفضل	انک حامل لغلام،
۳۰۰۹	عثمان بن موهب	ان لك اجر رجل،
۳۴۳۲	انس	ان لكل نبی دعوة،
۳۴۲۸	انس	ان لكل نبی يوم القيامة،

۳۶۱۸	حذیفہ	ان ملکا مؤکلا بالرحم ،
۳۲۷۸	ابن عباس	ان ملکا مؤکلا بالسحاب ،،
۳۳۲۹	جبیر بن مطعم	ان لی اسماء ،
۳۳۳۴	جابر	ان لی عند ربی عشرة اسماء
۳۳۲۲	ابو ہریرہ	ان موسیٰ علیہ السلام لما انزلت،
۳۲۸۳	ابن عباس	ان موسیٰ هو نبی بنی اسرائیل ،
۳۳۲۰	ثوبان	انه سیکون فی امتی کذابون ،
۳۳۵۹	ثوبان	انه سیکون فی امتی کذابون ،
۳۰۰۸	محمد بن حنیفہ	انه سیولد لك بعدی ، (لعلی)
۳۳۵۹	ثوبان	انه سیکون فی امتی کذابون ،
۲۸۰۱	ابن عباس	انه لم یکن نبی الا له دعوة ،
۲۹۶۶	سهل بن حنیف	انها حرم آمن،
۲۸۹۲	خولہ بن قیس	ان هذا المال خضرۃ حلوة ،
۲۹۱۹	ابو ہریرہ	ان هذه القبور مملوءة ،
۳۴۷۰	جبیر بن مطعم	ان لم تجدنی فأتی ابا بکر،
۳۲۲۳	ابو ہریرہ	انما انا لکم بمنزلة الوالد،
۳۳۴۲	ابو قلابہ	انما بعثت فاتحا خاتما،
۳۱۸۹	ابو قلابہ	انما بعثت لا تتم مکارم الا خلاق،
۳۴۰۲	ابو قلابہ	انما بعثت لا تتم مکارم الا خلاق،
۳۵۳۰	ابن عباس	انما سمیت فاطمة ،
۳۵۲۴	ابو ہریرہ	انما سمیت فاطمة ،
۳۶۳۷	ابن مسعود	انما الصرعة الذی یملك ،
۳۳۷۷	عمر	انما علی بمنزلة ہارون،
۳۳۱۵	جابر	انما مثلی و مثل الانبیاء کرجل ،

۳۰۳۸	ابو ہریرہ	انی احرم علیکم حق الضعیفین ،
۲۹۴۸	سعد بن ابی وقاص	انی احرم ما بین لا بتی المدینہ ،
۳۲۸۲	ابو ذر	انی اری ما لا ترون ،
۳۲۴۷	آمنہ	انی رأیت حیس خرج منی نوراً ،
۳۰۵۱	انس	انی فرضت علی امتی ،
۲۹۵۱	ابو قتادہ	انی قد حرمت ما بین لا بتی ،
۳۰۱۱	عبید بن صحر	انی قد عرفت بلاءک ، (لمعاذ) ،
۲۹۰۵	عباس	انی کنت احدثہ ،
۳۲۶۸	مالک	انی لا نسی لا سن ،
۲۸۰۶	انس	انی لا ول الناس ،
۲۹۰۹	عبادہ	انی لسید الناس یوم القیامۃ ،
۳۲۵۵	عریاض	انی مکتوب عند اللہ ،
۳۲۵۲	معاذ	انی نعست ، فاستثقلت نوماً ،
۳۵۷۹	علی	ان الا بدال بالشام ،
۳۴۲۹	ابو ہریرہ	ان الا نبیاء اخوة لعلات ،
۲۹۳۱	عائشہ	ان البیت الذی فیہ الصور ،
۳۳۴۹	انس	ان الرسالۃ و النبوة قد انقطعت ،
۳۶۱۲	انس	ان العبد المومن لیدعو اللہ تعالیٰ ،
۳۶۱۷	حذیفہ	ان النطفۃ تقع فی الرحم ،
۳۵۲۱	ابو سعید	ان للہ عزوجل ثلث حرمت ،
۳۵۶۷	ابن عمر	ان للہ عزوجل عبادا اختصہم ،
۳۵۸۵	ابن مسعود	ان للہ عزوجل فی الخلق ثلثماء ،
۳۵۹۹	بعض صحابہ	ان للہ عزوجل ملائکۃ ترعد ،
۳۶۱۳	ابو ہریرہ	ان للہ عزوجل ملائکۃ مؤکلین ،



۳۶۰۵	وہب بن منبہ	ان لله عزوجل نهرا في الهواء،
۳۵۷۷	عبادہ	الا بدال في امتي ثلثون،
۳۵۸۰	عوف بن مالك	الابدال في اهل الشام،
۳۵۷۸	علی	الا بدال يكونون بالشام،
۳۴۳۶	انس	الا نبیاء، احياء في قبورهم،

### (ب)

۳۶۶۰	والطاعة	بايعنا على السمع
۳۳۹۱	سهل بن سعد	بعثت انا والساعة كهاتين،
۳۲۲۱	ابو هريره	بعثت من خير قرون بني آدم،
۳۴۹۸	شير اسلمی	بعنيها بعين في الجنة، ب
۲۸۵۹	ابو سعيد	بيننا انا قائم عشاء في المسجد،،
۲۸۸۴	ابو هريره	بينما انا نائم اذجئ بمفاتيح،
۳۴۷۶	علی	بينما انا نائم رأيتني

### (ت)

۳۰۳۱	ابو امامه	تستاكوا فان السواك،
۲۹۹۳	اسماء بنت عميس	تسلمي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت،
۳۱۹۲	ام سلمه	تطلق هذه (ظيية)،
۳۲۰۴	ابو هريره	التقوى ههنا،

### (ث)

۲۸۶۲	انس	ثم بعث له آدم فمن دونه،
۳۳۰۸	انس	ثم ردت الى خمس صلوات،

### (ج)

۲۸۴۶	ابو ہریرہ	جاء جبرئیل علیہ السلام الی النبی ﷺ،
۳۰۲۸	خزیمہ بن ثابت	عل المسافر ثلثا و لومضی السائل،
۳۲۱۶	عمر	الجنة حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها،



۲۸۹۱	جابر	حب ابی بکر و عمر من الایمان،
۳۳۹۸	انس	حب الی من دنیا کم،
۳۰۲۲	عائشہ	حجی و اشترطی،
۳۰۲۵	جابر	حجی و اشترطی،
۳۰۲۴	ضنبا عہ نبت الزبیر	حجی و قولی،
۲۹۵۴	خبیب ہذلی	حرم شجرها ان يعتضد،
۲۹۶۰	ابراہیم بن عبد الرحمن	حرم صید ما بین لا بتيها،
۲۹۵۳	ابو ہریرہ	حرم ما بین لا بتي المدينة،
۳۵۳۴	لعلی بن مرہ	حسین منی و انا من حسین،
۳۵۵۵	شریح بن عبیدہ	حکیم امتی عویمر،
۳۳۸۹	عمرو بن شعیب	حمل برسول اللہ ﷺ فی عاشوراء،
۲۸۲۶	ابن عباس	حملت علی دابة بیضاء،
۳۳۹۷	بکر بن عبد اللہ	حیاتی خیر لکم تحدثون،
۳۳۹۶	انس	خیاتی خیر لکم و موتی،
۳۵۳۳	مقدام بن معد یکرہ	الحسن منی والحسین من علی،
۳۵۳۱	ابن عمر	الحسن و الحسین سیدا شباب،
۳۶۲۲	نعمان بن بشیر	الحلال بین والحرام بین،
۳۶۲۶	نعمان بن بشیر	الحلال بین والحرام بین،
۳۲۲۲	سلمان	الحلال ما احل اللہ،

## ﴿خ﴾

۲۸۳۸	ابو موسیٰ	خرج ابو طالب الى الشام،
۲۸۶۱	ام سلمة	خرج معی جبرئیل لا يفوتنی،
۳۵۹۶	ابو ذر	خلقت الملائكة من نور،

## ﴿د﴾

۳۵۵۴	معاذ	دع عنك معاذاً،
۳۶۲۷	حسن بن علی	دع ما یریک الى ما لا یریک،
۳۲۶۸	ربیع بنت معوذ	دعی هذه وقولی الذی،
۳۵۶۲	ابن عباس	الدنيا والآخرة حرام علی اهل الله،

## ﴿ذ﴾

۳۳۹۰	ابو قتاده	ذاک يوم ولدت فيه،
۳۶۳۵	معاویہ بن حکم	ذلک شیء یجدونه فی صدورهم،
۳۴۶۸	ابن عباس	ذهبت انا و ابو بکر و عمر،
۳۳۵۱	حذیفہ	ذهبت النبوة فلا نبوة بعدی،
۳۳۵۲	ام کرز	ذهبت النبوة وبقیت المبشرات،

## ﴿ز﴾

۳۵۷۴	محمد بن عمر بن علی	رأیت جعفرأً ملکا یطیر،
۲۸۷۴	ابن عباس	رأیت ربی عزوجل،
۲۸۵۰	اسماء بنت الصدیق	رأیت عندها یعنی ربه،
۳۵۴۶	ابن عباس	رأیت کانی دخلت الجنة
۳۲۶۶	عامر بن ربیعہ	رأیتہ فی الجنة یسحب،
۳۲۴۶	ام ابی قرصافہ	رأینا کان النور یرخرج من فيه،

۳۴۷۸	رحم اللہ ابابکر،	علی
۳۵۵۷	رحمک اللہ یا امی بعد امی (لفاطمة بنت اسد،) انس	
۳۰۸۷	رخص ان تباع العرایا،	زید بن ثابت
۳۰۸۹	رخص الحائض ان تنفر،	ابن عباس
۳۰۸۶	رخص الرقية من کل،	عائشہ
۳۰۰۲	رخص لعبد الرحمن، والزیر،	انس

### ﴿س﴾

۳۵۱۳	سألت ربی ان لا یدخل احدا من	عمران
۳۵۱۹	ستة لعنتهم ولعنهم اللہ،	عائشہ
۳۵۳۹	ستكون لا صحابی زلة،	علی
۲۸۲۵	سلم علیّ ملک ثم قال لی،	عبد الرحمن بن غنم
۳۲۵۹	سلونی قبل ان تفقدونی،	علی
۳۶۳۸	السفر قطعة من العذاب،	ابو ہریرہ
۳۲۳۶	السفل ارفق،	ابو ایوب

### ﴿ش﴾

۳۰۳۴	شرعت لنا دینا، (جهیش بن اویس،)	ابو ہریرہ
------	--------------------------------	-----------

### ﴿ض﴾

۲۹۹۷	ضح بها،	عقبہ
۲۹۸۸	ضح به فضحیت،	زید بن خالد

### ﴿ط﴾

۳۶۳۴	الطيرة شرك،	ابن مسعود
------	-------------	-----------

### ﴿ع﴾

۲۸۹۸	طاؤس	عادى الارض من الله و رسوله ،
۳۶۵۷	طاؤس	عادى الارض من الله و رسوله ،
۳۲۶۱	ابو ذر	عرضت على امتى باعمالها ،
۳۲۶۲	حذیفہ	عرضت على امتى البارحة ،
۲۹۳۳	اسود بن سريع	عرف الحق لا هله ،
۳۲۶۴	انس	علمى بعد وفاتى كعلمى فى حياتى ،
۳۵۴۲	طلحه بن عبيد الله	عمرو بن العاص من صالحى القريش ،
۳۶۴۱	ابن عباس	العائد فى هبته كالكلب ،
۳۶۵۹	عائشه	العرب للعرب اكفاء

### ﴿ غ ﴾

۲۲۶۵	سعيد بن زيد	غفر الله تعالى لزيد بن عمرو
۳۴۹۶	عائشه	غفر الله تعالى لك يا عثمان

### ﴿ ف ﴾

۳۵۲۶	مسور بن مخرمه	فاطمة بضعة منى
۳۲۵۶	عمرو بن اخطب الانصارى	فاخبر بما هو كائن
۳۲۵۷	عمر	فاخبرنا عن بدء الخلق
۲۸۶۹	كعب الاحبار	فاذن جبرئيل ونزلت الملائكة
۲۸۴۰	انس	فاراهم انشقاق القمر
۲۸۹۸	مصعب	فارسل معه رجلا من الانصار
۳۰۲۷	نصر بن عاصم	فأسلم على انه لا يصل الاصلوتين
۳۴۱۵	جابر	فأعطا نى ثمنه ورده على
۲۸۸۰	ربيعة بن كعب	فأعنى على نفسك بكثرة السجود
۲۸۳۵	انس	فأمر الناس ان يتوضؤا منه



۳۳۷۲	معاذ	فأنت يعفور
۳۴۶۹	انس	فتبا لكم الدهر تبا
۲۹۹۵	خزیمہ	فجعل شهادة خزیمة عماره بن
۳۰۸۳	ابن عمر	فرض صدقة الفطر
۲۸۶۸	ابو سعید	فصل بهم ثم اتى باناء فيه لبن
۳۳۰۲	ابو درداء	فضلت باربع
۳۲۹۲	ابن عمر	فضلت على آدم بخصلتين
۳۲۰۱	ابو هريره	فضلت على الانبياء بخصلتين
۳۳۰۰	سائب بن يزيد	فضلت على الانبياء بخمس
۳۱۹۹	ابو هريره	فضلت على الانبياء بست
۳۳۰۳	ابو هريره	فضلت على الانبياء بستة
۳۳۰۱	انس	فضلت على الناس باربع
۲۸۲۳	ابو هريره	فقال ابراهيم : الحمد لله الذى
۳۴۳۴	ابو هريره	فقال الله تبارك وتعالى ، اعطيتك
۲۸۶۵	انس	فلم البث الايسر احتى يجتمع
۳۵۴۲	ابن عباس	فليقل يا عباد الله اعينونى
۳۱۷۶	قتيله بنت صيفى	فمن حلف فليحلف
۲۸۳۶	جابر	فوضع يده فى الركوة
۳۳۱۹	حذيفه	فى امتى كذابون دجالون
۳۶۰۲		فى السماء الرابعة نهر

## ﴿ق﴾

۲۸۲۴	عائشه	قال لى جبرئيل ، قلبت المشارق
۲۸۲۰	ابن مسعود	قال لى ربه عزوجل نحتل ابراهيم
۲۸۴۹	ابن مسعود	قال لى ربه عزوجل نحتل ابراهيم

۳۵۹۳	ابو ہریرہ	قال الله تبارك وتعالى من عادى لى
۳۲۵۱	حذیفہ	قام فىنا مقاما ماترك شيئا
۲۸۶۶	ابن عباس	قد افلح بلال ، رأيت له كذا كذا
۳۳۸۱	عامر	قد رأيتہ فى الجنة
۳۰۳۶	علی	قد عفوت عن الخيل والرقیق
۳۵۸۶	بریدہ	قراء القرآن ثلث
۳۰۷۴	ابن عباس	قضى ان اليمين
۳۰۷۵	جابر	قضى بالشفعة
۳۰۷۶	سعید بن مسیب	قضى فى الجنين
۳۰۷۷	ابو ہریرہ	قضى فيمن زنى
۳۰۲۳	ابن عباس	قولى : لبيك ، اللهم لبيك



[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۳۴۲۳	انس	كان رسول الله ﷺ اذا صلى
۳۴۱۱	جابر	كان رسول الله ﷺ اذا مشى
۳۳۹۹	انس	كان رسول الله ﷺ لا يرد الطيب
۳۴۱۶	عائشہ	كان رسول الله ﷺ يحب الحلوى
۳۴۳۶	ابو موسی	كان رسول الله ﷺ يقسم غنائم
۳۴۸۱	سعید بن مسیب	كان رسول الله ﷺ يقضى فى مال
۳۴۳۵	علی	كان النبی ﷺ اذا سئل شيئا
۳۴۲۴	ابن عمر	كان النبی ﷺ يبعث الى المطاهر
۳۲۴۳	ہند بن ابی ہالہ	كان النبی ﷺ يتألفون وجهه
۳۴۱۸	اسماء بنت الصديق	كان النبی ﷺ يلبسها
۳۱۸۳	جابر	كان النبی يبعث الى قومه
۳۳۴۸	ابو ہریرہ	كانت بنو اسرائيل تسو سهم الانبياء

۲۹۳۰	سلمہ بن اکوع	کذب من قال ذک بل لہ اجرہ
۳۲۸۸	عمر	کل سبب ونسب وصہر ینقطع
۲۸۲۲	ابوہریرہ	کلکم اثنی علی ربہ
۲۹۹۹	علی	کلہ انت وعیالک فقد کفر اللہ
۳۵۵۶	انس	کم من اشعث اغبر
۲۸۳۹	عمران	کنا فی سفر مع النبی ﷺ
۳۴۱۷	عائشہ	کنت انام بین یدی رسول اللہ ﷺ
۳۳۴۱	قتادہ	کنت اول الناس فی الخلق
۳۳۴۰	ابوہریرہ	کنت اول النبیین فی الخلق
۳۱۹۷	شقیق ابی الجعد ء	کنت نبیا و آدم بین
۲۱۹۸	میسرة القجر	کنت نبیا و آدم بین
۳۴۷۳	ابن عباس	کنت و ابو بکر و عمر
۳۲۸۰	ابو سعید	کیف انعم و صاحب الصور
۳۲۸۱	زید بن ارقم	کیف انعم و صاحب القرن
۳۰۰۷	حسن بصری	کیف یک اذا لبست سواری کسری

## ﴿ل﴾

۳۰۹۰	ابن مسعود	لاتبشر المرأة المرأة
۳۰۹۲	ابن عمر	لاتحروا بصلواتکم
۳۰۹۴	ابن عمر	لاتسافر المرأة ثلاثة ايام
۳۰۴۰	ابو موسیٰ	لاتشرب مسکرا
۳۰۹۶	ابن عمر	لاتصوموا حتی تروا الهلال
۳۰۹۷	ابن عباس	لاتعذبوا بعذاب اللہ
۳۰۷۴	طفیل بن سخبرہ	لاتقولوا ماشاء اللہ و ماشاء محمد
۳۳۶۱	علاء بن زیادہ	لا تقوم الساعة حتی

۳۳۶۲	عبد اللہ بن زبیر	لا تقوم الساعة حتى
۳۳۷۶	نعیم بن مسعود	لا تقوم الساعة حتى
۲۹۹۰	اسماء بنت زید	لا تنحن
۳۰۹۹	ابو ہریرہ	لا تنکح الایم حتى
۳۲۸۵	انس	لا تواصلوا، قالوا
۳۰۱۹	ابو سید الخدری	لا صلوة بعد صلوة العصر
۳۵۰۳	بعض الصحابة	لا فتى الا على
۳۳۷۴	ابو طفیل	لا نبوة بعدی
۲۹۸۳	علی	لا، و لو قلت نعم
۲۹۸۳	علی	لا یومن احدکم حتى اكون
۳۳۷۵	عائشہ	لا یقی بعدی من النبوة
۳۰۹۸	ابن عمر	لا یبیع بعضکم علی بیع
۳۵۸۲	ابن مسعود	لا یزال اربعون رجلا
۳۵۸۳	بن عمر	لا یزال اربعون رجلا
۳۴۴۵	ابو ہریرہ	لا یقسم ورثتی دینارا
۳۲۷۳	سہل بن سعد	لا عطین الراية غدا رجلا
۲۹۲۳	میمونہ	لیک لیک لیک
۳۶۰۳		لجبرئیل کل یوم انغماس
۳۵۷۶	انس	لعلک ترزق به
۳۰۰	ابو دراداءؓ	لقد اعطی علی ثلاث خصال
۳۲۵۴	جبرئیل بن نعیز	لقد ترکنا رسول اللہ
۳۲۰۳	ابو ہریرہ	لقد جاءکم رسول الیکم
۲۸۶۰	ابو ہریرہ	لقد رايتنی فی الحجر
۳۴۸۹	ابن عمر	لقد کان فیما مضی قبلکم

۳۵۶۶	ابن عباس	لکل شیء معدن
۲۹۶۷	ابو ہریرہ	لکل نبی حرم و حرمی المدينة
۳۴۳۱	ابو ہریرہ	لکل نبی دعوة مستجابة
۳۴۳۰	ابو ہریرہ	لکل نبی دعوة يدعوها و
۳۳۵۰	ابو ہریرہ	لم يبق من النبوة الا
۳۲۴۹	ابن عباس	لم يزل الله ينقلني من
۳۳۲۷	انس	لما اسرى بي
۲۸۷۰	عائشہ	لما اسرى الى السماء
۲۸۱۶	انس	لما اسرى بي قربني ربي
۳۲۳۲	عمر	لما اقترف آدم الخطيئة
۳۳۲۱	عمر	لما اقترف آدم الخطيئة
۲۸۸۸	ابن عباس	لما خرج من بطني نظرت اليه
۳۳۳۳	ابو ہریرہ	لما خلق الله آدم
۳۴۴۰	ابو ہریرہ	لما خلق الله آدم
۲۹۲۶	سلمان	لما خلق الله عز وجل العرش
۳۳۷۳	ابو منظور	لما فتح خيبر اصاب حمارا
۲۸۷۱	انس	لما فرغت مما امرني الله به
۲۸۱۸	ابو ہریرہ	لما فرغت مما امرني الله به
۲۸۷۲	ابو سعيد	لما قسم رسول الله ﷺ الغنائم
۲۸۸۹	ابن عباس	لما ولد جاء رضوان خازن الجنة
۳۵۸۱	انس	لن تخلوا الارض من اربعين رجلا
۳۵۸۲	ابو ہریرہ	لن تخلوا الارض من ثلثين رجلا
۳۲۶۷	ابو و فرہ	لو اتاني مسلما لرددت عليه
۳۶۶۲	ابو ہریرہ	لو ان عبادي اطاعوني



۳۲۴۵	ربیع بنت معوذ	لو رأیته لقلت الشمس طالعة
۳۳۵۷	جابر	لو عاش ابراهيم لكان صديقا نبيا
۳۳۵۴	عقبه	لو كان بعدی نبی لكان عمر
۳۴۹۰	عقبه	لو كان بعدی نبی لكان عمر
۳۵۵۹	ابو هريره	لو كان العلم معلقا بالثريا
۳۱۸۰	بنی سعد	لو كان هذا اليوم احدث رجال
۳۰۳۴	ابن عمرو،	لولا ان اشق امتی ان امرتهم،
۲۹۷۵	زید ابن خالد،	لولا ان اشق علی امتی لا خرت،
۲۹۷۶	ابو هريره،	لولا ان اشق علی امتی لا خرت،
۲۹۷۷	ابن عباس،	لولا ان اشق علی امتی لا خرت،
۳۰۲۹	ابو هريره،	لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسواك،
۳۰۳۰	ابو هريره،	لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسواك،
۳۰۳۳	ابن عمرو،	لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسواك،
۳۰۳۵	زید بن خالد،	لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسواك،
۳۰۳۲	ابن عباس،	لولا ان اشق علی امتی لفرضت عليهم،
۲۹۷۸	ابن عمر،	لولا ان یثقل علی امتی لصليت،
۲۹۷۹	ابو سعید،	لولا ضعف الضعیف والسقیم،
۲۹۸۰	ابن عباس،	لولا ضعف الضعیف و سقم السقیم،،
۳۵۷۱	مسافع دثلی،	لولا عباد الله رکع،
۳۳۳۶	سلمان،	لولاك ما خلقت الدنيا،
۳۴۸۶	ابو بكر،	لولم العبث فيكم لبعث عمر،،
۳۳۳۳	ابو الطفیل	لی عشرة اسماء،
۳۳۹۳	انس،	لیس علی ابیک کرب بعد الیوم،
۳۳۱۳	سمره	لیس منکم الا انا ممسک،



۲۹۰۲	عمر	ما البقیت لا ہلک،
۳۴۸۰	ابن عباس	ما احد اعظم عندی یداء،
۳۶۲۴	ابن عباس	ما اجل فهو جلال،
۳۶۰۴		ما دخل اجل علی مومن سروراً،
۳۴۸۳	انس	ما اطیب مالک
۳۲۸۹	ابو ہریرہ	ما بال اقوام یزعمون ان قرابتی،
۳۲۹۰	ابو سعید	ما بال رجال یقولون ان رحم،
۲۹۷۱	عبد اللہ بن سلام	ما بین کذا و احد حرام،
۳۰۳۷	مقداد بن اسود	ما تقولون فی الزنا،
۳۶۴۹	ابو ہریرہ	ما جاء خیر منی،
۳۲۲۹	ابو ہریرہ	ما حلف اللہ بحیۃ احد،
۳۴۰۱	ابن عمر	ما رأیت رسول اللہ ﷺ یطأ عقبہ،
۳۲۴۴	ابو ہریرہ	ما رأیت شیاً احسن من رسول اللہ،
۲۹۱۳	ابن عمرو	ما کان لی ولبنی عبد المطلب فهو لکم،
۳۴۷۷	ابو ہریرہ	ما لا حد عندنا ید الا وقد،
۲۸۹۳	ابو ہریرہ	ما نفعنی مال قط ما نفعنی بال ابی بکر،
۳۴۷۹	ابو ہریرہ	ما نفعنی مال قط ما نفعنی بال ابی بکر،
۳۸۷۳	ابو ہریرہ	ما نهیتکم فاجتنبوه،
۳۴۵۱	علی	ما ولد فی الاسلام مولود ازکی،
۲۸۷۴	ابو ہریرہ	ما ینقم ابن جمیل الا انه کان فقیراً،
۳۱۸۶	یعلیٰ بن مرہ	ما من شیء الا یعلم انی
۳۲۲۵	ابن مسعود	ما منکم من احد الا و معہ،
۲۹۲۴	ابو ہریرہ	ما من مؤمن الا و انا اولی بہ،

۳۶۴۴	ابن مسعود	ما من مولود الا فی سرتہ ،
۳۶۲۳	ابو ہریرہ	ما من مولود الا وقدر ،
۳۳۱۷	ابی بن کعب	مثل فی النبیین ،
۳۳۱۸	ابو ہریرہ	مثلی و مثل الانبیاء من قبلی ،
۳۳۱۲	جابر ،	مثلی و مثلكم كمثل رجل ،
۳۳۱۶	ابو سعید	مثلی و مثل النبیین ،
۳۴۱۲	ابو امامہ	مر النبی ﷺ فی يوم
۳۶۱۴	کنانہ عدوی	ملك قابض علی ناصيتك
۳۲۳۴	علی	من آذى شعرة منی ،
۳۵۳۸	عبد اللہ بن مغفل	من آذاهم فقد آذانی ،
۳۵۲۰	عبد اللہ بن بدر خطمی	من احب ان یبارک له ،
۲۸۷۸	بریدہ	من استعملناه علی عمل
۳۵۷۳	ابو درداء	من استغفر للمومنین ،
۳۹۱۴	ابن عمر	من با یعت فقل لا خلاۃ ،
۳۱۸۷	طرا بن عازب	من بدا احفاء ،
۳۶۴۷	انس	من بلغه عن اللہ عزوجل شیء
۳۶۵۱	ابو حمراہ انس	من بلغه عن اللہ عزوجل فضیلة ،
۲۶۴۸	ابن عمر	من بلغه عن اللہ عزوجل ،
۳۶۲۱	مناد بن انس	من حمی مومنا من منافق ،
۳۶۶۱	ابن عمر	من خلع یدا من طاعته ،
۲۶۲۸	ابو سعید	من رأى منكم منکرا ،
۲۸۴۳	ابو قتادہ	من رأى فی المنام فقد رأى الحق ،
۲۸۴۴	ابو سعید	من رأى فی المنام فقد رأى الحق ،
۲۸۴۲	انس	من رأى فی المنام فقد رأى

۲۸۴۵	ابو ہریرہ	من رأنی فی المنام فسیرانی ،
۳۵۶۴	علی	من زهد فی الدنيا علمہ اللہ ،
۲۹۹۶	خزیمہ بن ثابت	من شہد لہ خزیمہ واشہد علیہ ،
۲۹۸۵	برء بن عازب	من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا ،
۳۶۰۹	انس	من صلی علی تعظیما لحقی ،
۳۵۱۱	علی	من صنع الی احد من اهل بیتی ،
۳۵۱۲	عثمان	من صنع صنیعة الی احد من ،
۳۵۹۴	معاذ	من عاذی اولیاء اللہ فقد بارز ،
۳۴۰۰	ابو ہریرہ	من عرض علیہ ریحان ،
۲۹۸۶	انس	من کان ذبح قبل الصلوۃ ،
۳۶۳۳	ابو ہریرہ	من کان لہ شعر فلیکرمہ ،
۳۲۳۷	ابن عمرو	من کذب علی متعمدا فلیتوا
۳۵۰۴	بریدہ	من کنت ولیہ فعلی ولیہ ،
۳۵۲۲	علی	من لم یعرف عترتی و الانصار ،
۲۹۲۹	سلمہ بن اکوع	من هذا السائق ،
۳۴۰۰	عثمان	من یشتری هذه الربعة ،
۳۱۷۰	عدی بن حاتم	من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد ،
۳۱۷۱	ابن مسعود	من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد ،
۳۲۷۴	ابو ہریرہ	المحیا محباکم و الممات ،
۲۹۶۵	علی	المدينة حرم ما بین غیر ،
۲۹۶۳	انس	المدينة حرم من کذا الی کذا ،

### ﴿ن﴾

۲۹۴۳	ام ایمن	نحلت هذا الكبير المهابة ، (الحسن) ،
۳۳۵۸	انس	نحن اهل بیت لا یقاس بنا احد ،

۳۲۱۳	ابو ہریرہ	نحن الآخرون السابقون
۳۲۳۷	ابو ہریرہ	نحن الآخرون السابقون ،
۳۳۳۸	خذیفہ	نحن الآخرون من الدنيا،
۳۴۰۹	اشعت بن قیس	نحن بنو النضر بن کنانہ ،
۳۳۲۸	ابو ہریرہ	نزل آدم بالہند ،
۳۵۳۶	حکیم بن حزام	نزل النبی ﷺ فی حفرتها (خدیجہ ، )
۲۸۶۷	ام ہانی	نشرلی رھط من الانبیاء،
۳۵۵۰	جابر	نعم عبد اللہ و ابو عبد اللہ ،
۳۶۳۲	ابو قتادہ	نعم و اکرامہا ،
۳۱۵۴	علی بن حسین	نہی ان تستر الجدر،
۳۰۴۷	ابن عمر	نہی ان یباع الطعام اذا ،
۳۱۵۰	عبد اللہ بن سرجس	نہی ان یبال فی الحجر،
۳۰۴۸	ابو سعید	نہی ان یزق الرجل بین یدیه ،
۳۰۴۹	ابو ہریرہ	نہی ان یبیع حاضر لباد
۳۱۴۵	انس	نہی ان یتیاہی الناس فی المساجد ،
۳۱۴۹	ابن عمرو	نہی ان یتخلی الرجل ،
۳۱۶۶	جابر	نہی ان یتزوج المرأة ،
۳۱۴۷	جابر	نہی ان یتعاطی السیف ،
۳۱۶۹	ابن عمر	نہی ان یتناحی اثنتان ،
۳۰۵۰	ابو قتادہ	نہی ان یجمع بین التمر والزہو،
۳۰۵۱	ابن عمر	نہی ان یسافر بالقرآن
۳۱۵۱	ابن مسعود	نہی ان یسمی الرجل ،
۳۱۵۳	جابر	نہی ان یصافح المشرکون،
۳۰۵۴	ابن عمر	نہی ان یصلی الرجل اخاہ ،



۳۱۵۲	ابن عباس	نہی ان یضحی لیلا،
۳۱۴۶	بریدہ	نہی ان یقعد الرجل بین،
۳۱۴۸	خذیفہ	نہی ان یقوم الامام،
۳۰۵۴	ابن عمر	نہی ان یقیم الرجل اخاه،
۳۰۵۵	ابن عمر	نہی ان یبلیس الرجل مصبوغا،
۳۰۵۶	ابو سعید	نہی عن اشتمال الصماء،
۳۱۲۷	ابو درداء	نہی عن اكل المجثمة،
۳۱۲۶	جابر	نہی عن اكل الهره،
۳۰۶۱	ابن عمر	نہی عن بيع التمار،
۳۰۶۳	ابن عمر	نہی عن بيع الثمر،
۳۰۶۶	ابن عمر	نہی عن بيع حبل الحبلہ،
۳۰۶۲	براء	نہی عن بيع الذهب،
۳۱۳۱	سمره	نہی عن بيع الشاه باللحم،
۳۱۲۸	جابر	نہی عن بيع الصبرہ،
۳۱۲۹	ابن عمر	نہی عن بيع الكالی بالكالی،
۳۱۳۲	ابن عباس	نہی عن بيع المضامين،
۳۰۶۴	ابن عباس	نہی عن بيع النخل،
۳۰۶۵	ابن عمر	نہی عن بيع الولاء،
۳۰۵۷	ابو ہریرہ	نہی عن التلقى،
۳۰۶۷	ابو حنیفہ	نہی عن ثمن الدم،
۳۰۶۸	ابن مسعود	نہی عن ثمن الكلب،
۳۱۳۳	ابن عمرو	نہی عن جلد الحد فی المساجد،،
۳۱۳۴	عمر	نہی عن حلق القفا،
۳۰۶۹	ابو ہریرہ	نہی عن خاتم الذهب،

۳۱۳۶	جابر	نہی عن ذبیحة المجوس،
۳۱۳۵	ابن عباس	نہی عن ذبیحة النصارى،
۳۱۳۷	ابو ہریرہ	نہی عن شریطة الشیطان،
۳۰۷۰	ابو سعید	نہی عن صوم یوم الفطر،
۳۱۳۸	ابن عباس	نہی عن صیام رجب کله،
۳۱۳۹	ابو ریحانہ	نہی عن عشر،
۳۱۴۰	ابن عباس	نہی عن قتل اربع،
۳۱۴۱	عبدالرحمن بن معاویہ	نہی عن قتل الخطا طیف،
۳۰۷۱	ابن عمر	نہی عن قتل النساء،
۳۰۷۲	رافع بن خدیج	نہی عن کراء الارض،
۳۱۴۲	رافع بن خدیج	نہی عن کسب الامة،
۳۱۴۳	ابن عمر	نہی عن نتف الشیب،
۳۱۴۴	عبدالرحمن بن شبل	نہی عن نقرة الغراب،
۳۱۲۵	عمران	نہی عن الاجابة طعام،
۳۲۰۱	ابن عمر	نہی عن الاخصاء،
۳۱۰۰	معاویہ	نہی عن الاغلو طات،
۳۱۰۲	ابن عمر	نہی عن الاقران،،
۳۱۰۳	سمرہ بن جندب	نہی عن الاقعاء والتورك،
۳۰۵۷	ابو ہریرہ	نہی عن التلقى،
۳۰۱۴	سعد بن ابی وقاص	نہی عن التبتل،
۳۱۰۵	ابن مسعود	نہی عن التبقر،
۳۱۰۶	عبداللہ بن مغفل	نہی عن الترجل الاغبا،
۳۱۰۷	حسین بن علی	نہی عن الجداد،
۳۱۰۸	ابن عمر	نہی عن الجلالة،

۳۱۰۹	معاذ بن انس	نہی عن الحیوة یوم الجمعة،
۳۱۱۰	علی	نہی عن الحکرة بالبلد،
۳۶۳۹	عبدالله بن مغفل	نہی عن الخذف،
۳۱۱۱	ابوہریرہ	نہی عن الدواء الخبیث،
۳۱۱۲	معاویہ	نہی عن الركوب علی،
۳۱۱۱	ابوہریرہ	نہی عن السدل،
۳۱۱۴	علی	نہی عن السوم،
۳۱۱۶	ابن عمر	نہی عن الشراء والبيع،
۳۱۱۵	انس	نہی عن الشرب قائما،
۳۰۵۲	ابوہریرہ	نہی عن الشرب من فی،
۳۰۵۸	ابن عمر	نہی عن الشغار،
۳۱۱۷	انس	نہی عن الصلوة،
۳۱۱۸	انس	نہی عن الصلوة فی الحمام،
۳۱۱۹	جابر	نہی عن الضحك من الضرطة،
۳۱۲۰	عبد الواحد بن معاویہ	نہی عن الطعام الحار،
۳۰۶۰	انس	نہی عن المحاقلة،
۳۱۲۱	ابن عباس	نہی عن النفخ فی الطعام،
۳۱۲۲	زید بن ثابت	نہی عن النفخ فی سجود،
۳۱۲۳	جابر	نہی عن الوسم،
۳۱۲۴	ابوہریرہ	نہی عن الوشم،
۳۱۶۴	جابر	نہانا ان نتمسح بعظم
۳۱۶۵	جابر	نہانا ان ندخل علی مغیبات،
۳۰۴۴	حذیفہ	نہانا ان نشرب فی انیة،
۳۱۶۷	جابر	نہانا ان نطرق النساء،

۳۶۳۱	بعض الصحابه	نہانا نا یمشط احدنا
۳۱۶۸	جابر	نہان عن الطروق،،
۳۰۴۵	براء	نہانا عن المياثر الحمر،
۳۰۷۳	محمد بن سيرين	نہینا ان نحد اكثر من ثلاث،
۳۵۸۸	ابن عباس	النجوم امان لا اهل الارض،
۳۵۷۸	ابو موسى	النجوم امانة للسماء،



۳۱۹۰	ابوهريره	و آدم بين الروح والجسد،
۳۱۹۶	ابوهريره	و آدم بين الروح والجسد،
۳۵۱۵	انس	وعدنى ربى فى اهل بيتى،
۲۸۰۰	ابو سعود	والله! لله اقدر عليك،
۲۸۱۲	جابر	والذى نفسى بيده، لو بدا لكم موسى،
۳۰۲۱	امير معاويه	ولقد نهى عنهما يعنى الركعتين بعد العصر،
۲۹۸۴	انس	ولو قلت : نعم لوجبت،
۲۸۹۷	عبد الله بن اعور مازنى،	وهن شر غالب لمن غلب،
۳۲۶۰	حذيفه	وهو يحدث مجلسا وانا فيه،
۳۴۷۲	مصمه بن مالك	ويحك اذا مات عمر،
۲۸۳۲	ابو سعيد	الو سيلة درجة عند الله،



۳۰۱۵	انس	هاء وهاء ولا خلافة،
۳۲۲۲	ان عمر	هؤلاء يقرؤن القرآن،
۳۰۱۲	حذيفه	هدايا العمال حرام كلها،
۳۰۱۳	ابو حميد ساعدى	هدايا العمال غلول،

۳۵۴۳	طلحہ بن عبید اللہ	ہذا جبرئیل یخبرنی انہ ،
۳۲۷۶	انس	ہذا مصرع فلان ،
۲۹۹۷	ابو ہریرہ	ہل تجدرقبہ تعتقہا ،
۳۵۷۴	سعد بن ابی وقاص	ہل تنصرون وترزقون ،
۳۲۱۴	حذیفہ	ہم تبع لنا یوم القیامۃ ،
۳۱۷۷	عباس بن عبد المطلب	ہو فی ضحضاح من نار ،

### ﴿ی﴾

۲۹۳۶	ابو لبابہ	یا ابا لبابۃ! یجزی عنک الثلث ،
۲۸۱۱	جابر	یا ابن الخطاب! والذی نفسی بیدہ ،
۳۰۱۶	کریب	یا ابنۃ ابی امیہ! سألت عن الرکعتین ،
۲۹۷۴	صفیہ بنت بشیر	یا ایہا الناس! ان اللہ حرم مکۃ ،
۳۳۵۳	ابن عباس	یا ایہا الناس! انہ لم یبق من ،
۳۲۳۸	جابر	یا جابر! ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء ،
۳۲۶۳	جابر	یا جابر! یولدہ مولود اسمہ علی ،
۳۵۴۵	ابن مسعود	یا حمزۃ! یا کاشف الکربات ،
۳۲۴۸	عائشہ	یا حمیراء! لم ضحک؟
۳۳۷۹	عقیل بن ابی طالب	یا عقیل! واللہ انی لاحبک
۳۳۴۶	معاذ	یا علی! اخصمک بالنبوۃ ،
۳۵۱۶	علی	یا علی! ان اول اربعۃ ،
۳۵۱۰	علی	یا علی! ان فیک من عیسیٰ مثلاً
۳۴۵۴	علی	یا علی! سألت اللہ ثلاثاً ،
۳۰۰۳	ابو سعید	یا علی! لا یحل لا حد یجنب فی ،
۳۰۲۶	اسماء	یا عمۃ! حجی ،
۲۸۷۹	غیلان بن سلمہ	یا غیلان! ایت ہاتین الاشاء تین



۳۲۷۵	معاذ	یا معاذا! اتک عسی ان لا تلقانی ،
۲۸۷۱	عبد اللہ بن زید	یا معشر الانصار! الم اجد کم ضللا لا
۳۹۱۲	ابن عباس	یا معشر الانصار! الم تكونوا اذلة ،
۳۱۵۶	عمر	یا مر المسح علی ظهر الخف،
۲۹۷۰	ابن مسعود	یبعث اللہ عزوجل من هذه البقیعة ،
۳۲۳۳	حذیفہ	یجمع اللہ تعالیٰ الناس فی صعيد واحد،
۳۵۰۲	بعض الصحابہ	یزف علی بینی و بین ابراہیم ،
۲۹۱۶	عبد اللہ بن عبد البر	ینصب لی یوم القيامة منبر،

## آثار صحابہ و تابعین

۳۴۸۵	ابوبکر الصديق	أکرهت امارتی (یعلیٰ)
۳۳۶۸	ابوبکر الصديق	بعثنی ابوبکر الی ملک الروم (عبادہ)
۳۲۷۱	ابوبکر الصديق	ذو بطن بنت خارجہ اراہا جاریۃ
۳۵۵۸	عمر الفاروق	استغفر لی ( لاویس القرنی )
۳۵۴۴	عمر الفاروق	اسندونی ، اسندونی
۲۹۳۸	عمر الفاروق	انت احق بالأذن من ابن عمر (للعسین)
۳۵۵۳	عمر الفاروق	اللهم ! انا کنا نتوسل الیک
۳۴۹۵	عمر الفاروق	انی لارجو ان یکون ربی
۲۹۳۷	عمر الفاروق	بلغنی ان الناس قدھا بواشدتی
۳۲۳۱	عمر الفاروق	قد بلغ من فضلك
۳۳۶۶	عمر الفاروق	کتب عمر بن الخطاب الی سعد
۳۴۹۳	عمر الفاروق	مذکم تعبد تم الناس
۳۴۹۴	عمر الفاروق	من عبد اللہ عمر امیر المومنین الی العاص
۳۲۷۷	عمر الفاروق	والذی بعثه بالحق ما اخطوا الحدود
۲۹۴۰	عمر الفاروق	هل انبت الشعر علی رؤسنا الا ابوک

۲۹۳۹	عمر الفاروق	یا ابن اخی ! فهل انبت الشعر
۳۴۶۱	علی المرتضی	افضل الناس بعد رسول اللہ ﷺ
۳۴۵۶	علی المرتضی	الاخبرك بخير الامة
۳۴۵۹	علی المرتضی	اما انك لو قلت
۳۵۰۹	علی المرتضی	انا قسيم النار
۳۴۵۳	علی المرتضی	ان الله ذم الناس كلهم ومدح ابا بكر
۳۵۰۷	علی المرتضی	انى لاستحى من الله ان يكون
۳۴۵۷	علی المرتضی	ای والذي قلق الحبة وبرأ النسمة
۳۳۴۷	علی المرتضی	بين كتفيه خاتم النبوة،
۳۴۴۹	علی المرتضی	خير الناس بعد رسول اللہ ﷺ،
۳۴۵۸	ابو بكر وعمر،	خير الناس بعد الرسول اللہ ﷺ،
۳۴۹۹	علی المرتضی	ذاك امرء يدعى في الملاء الاعلى ،
۳۴۶۲	علی المرتضی	سبق رسول اللہ ﷺ ،
۳۴۴۸	علی المرتضی	قال: ابوبكر، قلت ، ثم: من ؟
۳۴۵۵	علی المرتضی	لا اجد احدا فضلى ،
۳۵۰۸	علی المرتضی	لا ادرى اى النعمتين اعظم ،
۳۵۰۶	علی المرتضی	لا سئل عن شئ دون العرش ،
۳۵۰۵	علی المرتضی	لاتسالونى عن شئ يكون الى يوم القيامة ،
۳۴۶۰	علی المرتضی	لا يفضلنى احد على ابى بكر وعمر،
۲۸۲۸	علی المرتضی	لم يبعث الله عزوجل نبيا آدم،
۳۳۹۵	علی المرتضی	مات رسول الله يوم الاثنين ،
۳۴۵۲	علی المرتضی	هل انا الاحسنة، من ،
۳۴۵۰	علی المرتضی	يا ايها الناس ! قد بلغنى ان اقواما،
۳۴۴۲	علی المرتضی	يقول سليمان عليه الصلوة والسلام بامر الله ،

۳۳۱۰	عبدالله بن مسعود	اعطانی رسول اللہ ﷺ، ثلاثاً،
۳۴۸۷	عبدالله بن مسعود	ان اسلام عمر کان عزة،
۳۵۹۸	عبدالله بن مسعود	الروح ملک اعظم،
۲۸۵۵	عبدالله بن عباس	اتعجبون ان يكون الخلة لا ابراهيم،
۳۲۴۲	عبدالله بن عباس	اذا تكلم رى كالنور يخرج،
۲۸۵۳	عبدالله بن عباس	ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس،
۳۱۸۵	عبدالله بن عباس	ان الله تعالى فضل محمد ﷺ،
۳۶۰۸	عبدالله بن عباس	ان عن يمين العرش نهرا،
۲۸۵۶	عبدالله بن عباس	ان محمداً ﷺ رآى ربه مرتين،
۲۸۲۹	عبدالله بن عباس	ثم ذكر ما اخذ عليهم،
۲۸۵۴	عبدالله بن عباس	جعل الكلام لموسى والخلة،
۲۸۵۲	عبدالله بن عباس	ذاك اذا تجلى بنوره الذى،
۳۵۹۷	عبدالله بن عباس	الروح ملك من الملائكة،
۳۲۴۰	عبدالله بن عباس	لم يكن لرسول الله ﷺ ظل،
۳۲۸۷	عبدالله بن عباس	ما احتلم نبى قط،
۲۸۳۰	عبدالله بن عباس	ما خلق الله وما ذراً وما برأ
۳۲۳۰	عبدالله بن عباس	ما خلق الله وما ذراً وما برأ
۲۵۱۴	عبدالله بن عباس	من رضاء محمد ﷺ ان لا يدخل،
۳۶۱۱	عبدالله بن عباس	هم الملائكة وكلوا بامور،
۳۴۲۱	انس بن مالك	اخرج الينا انس بن مالك نعلين،
۲۸۵۷	انس بن مالك	ان محمداً ﷺ رأى ربه،
۳۳۵۶	انس بن مالك	كان ابراهيم قد ملأ المهد ولوعاش،
۲۹۵۱	انس بن مالك	هى حرام لا يختلى خلاها،
۳۴۲۰	عائشه الصديقه	اخرجت كساء ملبدا

۳۴۸۲	عائشہ الصدیقہ	ان ابابکر اسلم يوم اسلم،
۳۴۴۴	عائشہ الصدیقہ	ان ازواج النبی ﷺ حين توفي،
۲۹۰۶	عائشہ الصدیقہ	ما ارى ربك الا يسارع في هواك،
۳۵۲۹	عائشہ الصدیقہ	ما رأيت احدا كان اشبه سمته،
۲۸۸۳	عائشہ الصدیقہ	مكتوب في الانجيل من نعت النبی ﷺ،
۳۴۰۱	عائشہ الصدیقہ	والله ! يا بن اختي،
۳۴۴۱	ابو ہریرہ	ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام،
۳۴۹۷	ابو ہریرہ	اشترى عثمان الجنة مرتين،
۲۹۲۷	عبد اللہ بن سلام	انا لنحد صفة رسول الله ﷺ،
۳۳۶۷	بلال بن الحارث	خرجت تاجرا الى الشام،
۲۹۱۴	اسود بن مسعود ثقفیہ	انت الرسول الذي ترجى فواضله،
۲۹۲۱	عبد اللہ بن عبد اللہ	انك الدليل ورسول الله ﷺ،
۳۳۵۵	عبد اللہ بن ابی اوفی	لوقضى ان يكون بعد محمد ﷺ،
۳۲۳۵	اسامہ بن شریک	اتيت النبی ﷺ، واصحابه حوله كان،
۳۴۱۹	عثمان بن عبد اللہ	فاخرجت ام سلمة شعرا من،
۳۶۵۶	کعب الاحبار	ان السماء تدور على نصب،
۳۶۵۵	کعب الاحبار	ان السماء في قطب كقطب الرجا،
۳۶۵۴	کعب الاحبار	ان السموات تدار على منكب ملك،
۲۸۵۱	کعب الاحبار	ان الله تعالى قسم رؤيته وكلامه،
۳۳۱۱	کعب الاحبار	فرايت في بعض ما انزل الله،
۲۸۸۲	کعب الاحبار	نجدہ محمدا رسول الله ﷺ،
۳۶۹۹	کعب الاحبار	لا تقطر عين ملك منهم،
۲۹۰۲	عروہ بن الزبیر	انت والله الاعز والعزیز،
۳۵۰۱	عروہ بن الزبیر	اسلم على وهو ابن ثمان،



۲۸۵۸	حس بصری	لقد رأى محمد ﷺ،
۳۴۱۳	حس بصری	قد علم الله انه ما به اليهم حاجة ،
۳۳۳۶	مجاہد	انا محمد،
۳۲۵۵	مجاہد	قال رجل من المنافقين،
۳۶۰۶	عکرمہ	خلقت الملائكة من نور العزة،
۳۶۰۷	یزید بن رومان	ان الملائكة روح خلقت،
۳۴۴۳	سعید بن حبیر	كان يوضع لمسلمين عليه الصلوة والسلام،
۳۶۴۵	عطا خراسانی	ان الملك ينطلق فيأخذ من تراب،
۳۴۶۳	علی بن حسین	منزلهما الساعة وهما ضجيعاه ،
۳۴۷۶	محمد بن حنفیہ	لا نه كان افضلهم اسلاما،
۳۴۶۴	محمد الباقر	اجمع بنوا فاطمة على ان يقولوا،
۳۴۶۵	محمد بن عبد الله بالمحضر	لهما فضل عندي من على ،
۳۴۶۶	زید بن علی بن حسین	انطلقت الخوارج فبرأت،

## اقوال احبار اليهود،

۳۳۸۸	احفظوا ما اقول لكم،
۳۳۸۰	اما انه سوف يبعث منكم،
۳۳۸۷	قدطلع الكوكب الاحمر،
۳۳۸۵	كان احبار يهود نبی قريظة ،
۳۳۸۲	كان النبي يبعث الى قومه ،
۳۳۸۴	كنا يهود فينا كانوا يذكرون،
۳۳۸۳	هذا كوكب احمد قدطلع،
۳۳۸۶	يا اهل يثرب قد ذهب





# فہرست عنوانات





# فہرست عنوانات جلد اول

## ۱۔ کتاب الایمان

۵

### ۱۔ نیت

۷

- ۷ ..... اعمال کا مدار نیتوں پر ہے
- ۹ ..... نیت خیر پر اجر
- ۹ ..... افادہ رضویہ
- ۱۱ ..... اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے
- ۱۲ ..... دل کا حال خدا جانتا ہے

### ۲۔ توحید و صفات الہی

۱۳

- ۱۳ ..... کلمہ توحید کی فضیلت [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۱۳ ..... افادہ رضویہ
- ۱۵ ..... کلمہ طیبہ کے تصدیق کرنے کی فضیلت
- ۱۶ ..... توحید پرست سب جنتی ہیں
- ۱۹ ..... افادہ رضویہ
- ۲۱ ..... غیر خدا کی عبادت حرام و کفر ہے
- ۲۳ ..... معاصیت خدا میں کسی کی اطاعت نہیں
- ۲۴ ..... وتر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
- ۲۵ ..... بعض صفات باری تعالیٰ
- ۲۵ ..... حقیقی مولیٰ اللہ تعالیٰ ہے
- ۲۶ ..... حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے
- ۲۶ ..... حقیقی سید اللہ تعالیٰ ہے

۲۶	حقیقی فیصلہ فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے
۲۷	اللہ تعالیٰ حکیم و علیم ہے
۲۷	اللہ ملک الملوک ہے
۲۷	افادہ رضویہ
۳۱	اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت مہربان ہے
۳۱	اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہے
۳۲	اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں تمام خزانے ہیں
۳۳	اللہ تعالیٰ کے قبضے میں زمین و آسمان ہے
۳۴	اللہ عز و جل وسیلہ بننے سے پاک ہے
۳۵	اللہ و رسول مشورہ سے بے نیاز ہیں

۳۶

### ۳۔ دین حق

۳۸	دین نصیحت ہے
۳۸	افادہ رضویہ
۳۹	دین آسان ہے
۴۰	دین میں آسانی بہتر ہے
۴۱	آسانی پیدا کرو دشواری نہیں
۴۲	حضور آسان دین لائے
۴۲	اللہ تعالیٰ کو دین حنیف پسند ہے
۴۲	حق کو کوئی چیز باطل نہیں کرتی
۴۳	اسلام غالب رہتا ہے
۴۳	افادہ رضویہ
۴۴	اسلام میں ضرر کی تعلیم نہیں
۴۴	اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے
۴۴	ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے

۴۵	غیب پر ایمان قوی ہے
۴۵	فضیلت کا مدار ایمان و عمل ہے
۴۶	سواد اعظم کی پیروی کرو
۴۶	افادہ رضویہ
۴۶	ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی
۴۷	غنی کے سامنے انکساری نقصان دین کا سبب
۴۷	افادہ رضویہ

## ۴۔ سنت کی اہمیت

۴۸

۴۸	سنت رسول کو لازم جانو
۵۰	افادہ رضویہ
۵۳	خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے
۵۳	احیائے سنت پر اجر
۵۵	افادہ رضویہ
۵۵	چار چیزیں سنت میں سے ہیں
۵۶	اہل سنت حق پر ہیں
۵۶	افادہ رضویہ

## ۵۔ بدعت

۵۷

۵۷	بدعت و ضلالت
۵۷	بدعت کی مذمت
۵۸	بدعت کی دو قسمیں حسنہ اور سیئہ
۵۸	اچھی بات بدعت حسنہ اور جمع قرآن
۶۰	افادہ رضویہ
۶۳	بدعتی کی تعظیم حرام ہے
۶۴	بدعتی جہنمی کہتے ہیں



۶۴	بدعتی بدترین مخلوق ہیں
۶۵	گمراہ و بدعتی کی عیادت نہ کرو
۶۵	گمراہ اور بدعتی سے قطع تعلق کرو
۶۵	گمراہ اور گمراہ گر کی مجلس سے بچو
۶۶	افادہ رضویہ
۷۰	آئندہ گزشتہ سے بدتر ہے

## ۶۔ شرک و کفر

۷۲	بد پرستی کی ابتداء کس طرح ہوئی
۷۳	مشرک سے میل جول منع ہے
۷۳	افادہ رضویہ
۷۴	مشرک کی صحبت بری ہے
۷۵	کفار و مشرکین کی معیت جائز نہیں
۷۵	مشرکین سے عہد و پیمان نہ کرو
۷۶	مشرک سے استعانت نہ کرو
۷۷	افادہ رضویہ
۷۹	افادہ رضویہ
۷۹	افادہ رضویہ
۸۴	ہندوؤں کے میلے میں نہ جاؤ
۸۴	افادہ رضویہ
۸۵	کافروں کے بت خانے میں نہ جاؤ
۸۶	مشرک کا ہدیہ قبول نہ کرو
۸۸	افادہ رضویہ
۸۸	کافروں سے ہدیہ لیا جاسکتا ہے

۹۲	غیر مسلم کو مذہبی امور کیلئے ملازم نہ رکھو
۹۳	افادہ رضویہ
۹۹	ذمی کافر سے برتاؤں میں نرمی کرو
۹۹	ذمی کو تکلیف پہونچانا جائز نہیں
۹۹	مرتد کی سزا قتل ہے
۱۰۰	بت پرستی کس طرح شروع ہوئی
۱۰۱	افادہ رضویہ

### ۷۔ تکفیر

۱۰۴	کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر مت کرو
۱۰۵	مسلمان کی تکفیر کا وبال کافر پر ہے

### ۸۔ فرق باطلہ

۱۰۷	فرق باطلہ کا ظہور <a href="http://www.alahazratnetwork.org">www.alahazratnetwork.org</a>
۱۰۸	افادہ رضویہ
۱۰۹	افادہ رضویہ
۱۱۰	بد مذہب کے ساتھ مت بیٹھو
۱۱۰	افادہ رضویہ
۱۱۲	بد مذہبوں سے ترش رو ہو کر بات کرو
۱۱۲	رافضی بد لقب فرقہ ہے
۱۱۳	افادہ رضویہ
۱۱۳	بد مذہب کی خوشنودی حاصل نہ کرو

### ۹۔ تقدیر و تدبیر

۱۱۵	تقدیر کا بیان
۱۱۵	مسئلہ تقدیر میں بحث منع ہے

۱۱۶	تقدیر بحر عمیق ہے
۱۱۷	افادہ رضویہ
۱۱۷	سزا و جزا کیوں؟
۱۱۹	افادہ رضویہ
۱۲۱	تقدیر پر تکیہ کر کے عمل نہ چھوڑے
۱۲۲	تدبیر تقدیر سے ہے
۱۲۳	افادہ رضویہ
۱۲۵	تقدیر کا منکر ملعون ہے

## ۱۰۔ گناہ صغیرہ و کبیرہ ۱۲۶

۱۲۶	گناہ صغیرہ و کبیرہ کی پہچان
۱۲۶	جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے
۱۲۷	جھوٹا گواہ جہنمی ہے
۱۲۷	گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے
۱۲۸	ارتکاب کبائر سے ایمان نہیں جاتا
۱۲۹	افادہ رضویہ
۱۲۹	گناہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے
۱۳۰	سب کو ہلاک نہ جانو
۱۳۰	لواطت حرام ہے
۱۳۰	مدح فاسق حرام ہے
۱۳۱	مومن کی لعن طعن حرام ہے
۱۳۱	ایذائے مومن حرام ہے
۱۳۱	مسلمان کی جان و مال حرام ہے
۱۳۲	مسلمان کو گالی دینا جائز نہیں
۱۳۲	مسلمان کا مال بغیر رضائے مالینا جائز نہیں

۱۳۲	کسی سے جبراً کچھ لینا جائز نہیں
۱۳۳	دھوکہ دینا مذموم ہے
۱۳۳	افادہ رضویہ
۱۳۳	رشوت لینا دینا جائز ہے
۱۳۴	مجرم کو پناہ دینا جائز نہیں
۱۳۴	اسلام میں ضرر رسانی نہیں
۱۳۵	کمزور مسلمان کی مدد نہ کرنا گناہ ہے
۱۳۵	حسد ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے
۱۳۶	عیب لگانے والے مستحق جہنم ہیں
۱۳۷	قتل مومن پر اعانت بدتر گناہ ہے
۱۳۷	شیطانی وسوسہ
۱۳۷	تصویر حرام ہے
۱۴۲	جہاں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں جاتے
۱۴۵	تصویر کو مٹانا ضروری ہے
۱۴۵	افادہ رضویہ
۱۴۶	بیت اللہ شریف کی تصاویر مٹائی گئیں
۱۴۹	تصویر بنانے والے بدترین مخلوق ہیں
۱۵۰	تصویر میں سر ہی اصل ہے
۱۵۰	افادہ رضویہ
۱۵۱	موضع ذہانت میں تصویر کا حکم

## ۱۱۔ شعب ایمان ۱۵۲

۱۵۲	حقوق اللہ اور حقوق العباد
۱۵۲	مسلمان کامل کی علامت
۱۵۳	محبت رسول

۱۵۳	حیا ایمان کا حصہ ہے
۱۵۵	۱۲۔ صفات مومن
۱۵۵	صفت مومن
۱۵۵	فضیلت مومن
۱۵۶	لعن طعن کرنے والا مومن کامل نہیں
۱۵۶	مدح مومن و مذمت فاجر
۱۵۷	مسلمان کی خیر خواہی ضروری ہے
۱۵۷	مسلمان بھائی کو حتی الامکان فائدہ پہنچاؤ
۱۵۷	مومن ایک مرتبہ ہی دھوکہ کھاتا ہے
۱۵۸	مومن شریف اور کافر دغا باز ہوتا ہے
۱۵۸	اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو
۱۵۸	افادہ رضویہ
۱۵۹	اللہ و رسول کے حق کی حفاظت کرو
۱۵۹	مومن خود اپنے کو ذلت میں نہ ڈالے
۱۶۰	علامت محبت
۱۶۰	مومن کو ہر چیز پر اجر ملتا ہے
۱۶۰	پرورش اہل و عیال پر اجر
۱۶۱	ہر زمانے میں سات مسلمان دنیا میں ضرور رہے
۱۶۱	افادہ رضویہ

## ۲۔ کتاب العلم

۱۶۳

### ۱۔ ضرورت علم دین

۱۶۵

۱۶۵

ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا فرض ہے



- ۱۶۵ ..... اصل علوم تین ہیں
- ۱۶۶ ..... افادہ رضویہ

## ۲۔ فضیلت علم دین

- ۱۶۹ ..... فضیلت علم
- ۱۷۰ ..... علم خشیت ربانی کا سبب ہے

## ۳۔ فضیلت علماء

- ۱۷۱ ..... فضائل علماء
- ۱۷۱ ..... افادہ رضویہ
- ۱۷۳ ..... علماء وارثین انبیاء ہیں
- ۱۷۳ ..... عالم و سلطان عادل کی تعظیم
- ۱۷۴ ..... اعزاز علماء و سادات
- ۱۷۴ ..... افادہ رضویہ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۱۷۵ ..... عالم کی بے ادبی نفاق ہے
- ۱۷۵ ..... عالم اور جاہل کے گناہ میں فرق

## ۴۔ فضیلت طلبہ

- ۱۷۷ ..... طالب علم مجاہد ہے

## ۵۔ تبلیغ و عمل

- ۱۷۸ ..... تبلیغ دین ضروری ہے
- ۱۷۸ ..... افادہ رضویہ
- ۱۸۰ ..... تبلیغ و ہدایت پر اجر عظیم
- ۱۸۰ ..... افادہ رضویہ
- ۱۸۴ ..... تبلیغ سامعین کے حال کے مطابق کرو
- ۱۸۴ ..... بے عمل عالم کی مثال

- ۱۸۵ ..... ہر صدی میں ایک مجدد
- ۱۸۵ ..... معلم و متعلم کے آداب
- ۱۸۵ ..... افادہ رضویہ
- ۱۸۶ ..... استاذ سے انکساری سے پیش آؤ
- ۱۸۶ ..... استاذ آقا ہے
- ۱۸۷ ..... کثرت سوال منع ہے
- ۱۸۸ ..... افادہ رضویہ
- ۱۸۸ ..... زیادہ قیل و قال سے بچو
- ۱۸۸ ..... نا اہل کو ذمہ دار نہ بناؤ
- ۱۸۹ ..... حصول علم برائے جاہ و مال مذموم ہے
- ۱۸۹ ..... فتنوں کے ظہور کے وقت عالم پر علم ظاہر کرنا فرض ہے
- ۱۹۰ ..... افادہ رضویہ
- ۱۹۰ ..... بہت سے عالم غیر فقیہ ہوتے ہیں
- ۱۹۱ ..... افادہ رضویہ
- ۱۹۲ ..... صاحب رائے اپنے دل سے فتویٰ لے
- ۱۹۲ ..... افادہ رضویہ
- ۱۹۳ ..... لوگوں سے ان کے حال کے مطابق کلام کرو
- ۱۹۴ ..... افادہ رضویہ
- ۱۹۵ ..... کتابت کے قواعد کی تعلیم
- ۱۹۵ ..... علم دین سیکھنے کیلئے پیر کا دن
- ۱۹۶ ..... بے علم فتویٰ دینا موجب لعنت ہے
- ۱۹۶ ..... بے علم فتویٰ موجب جہنم
- ۱۹۷ ..... بے علم فتویٰ باعث گمراہی
- ۱۹۷ ..... شریعت و طریقت کا ثبوت

۱۹۷	افادۂ رضویہ
۱۹۸	توسل و نماز استسقاء
۱۹۸	توسل
۱۹۸	افادۂ رضویہ
۱۹۹	حضور سے توسل اور نماز حاجت
۱۹۹	افادۂ رضویہ
۲۰۲	غیر خدا سے استمداد
۲۰۴	افادۂ رضویہ
۲۰۹	اپنی حاجتیں رحمتِ لوگوں سے مانگو
۲۱۰	افادۂ رضویہ
۲۱۲	افادۂ رضویہ

### ۳۔ کتاب الطہارۃ

۲۱۵

#### ۱۔ ضرورت طہارت

۲۱۷

۲۱۷ طہارت کے بغیر نماز مقبول نہیں

#### ۲۔ احکام آب

۲۱۸

۲۱۸ پانی اصل میں طاہر و مطہر ہے

۲۱۹ افادۂ رضویہ

۲۱۹ بڑے حوض کا پانی بے کھٹک استعمال کرو

۲۲۰ دھوپ سے گرم شدہ استعمال نہ کرو

۲۲۱ افادۂ رضویہ

۲۲۱ عورت و مرد کے بچے پانی کا استعمال

۲۲۲ افادۂ رضویہ

۲۲۲ جنبی اور حائضہ سے متعلق پانی کے احکام

۲۲۴ ..... افادہ رضویہ

### ۳۔ آداب استنجاء ۲۲۸

۲۲۸ ..... بیت الخلاء کے آداب

۲۲۸ ..... افادہ رضویہ

۲۲۸ ..... بیت الخلاء جانے کی دعا

۲۲۹ ..... دابنہ ہاتھ سے استنجاء ممنوع

۲۳۰ ..... ڈھیلوں سے استنجاء جائز

۲۳۰ ..... ڈھیلوں کے بعد پانی سے استنجاء افضل ہے

۲۳۱ ..... کھڑے ہو کر پیشاب ممنوع

۲۳۳ ..... افادہ رضویہ

۲۳۴ ..... حضور نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا

### ۴۔ احکام حیض ۲۳۷

۲۳۷ ..... حائضہ اور جنبی قرآن شریف نہ پڑھے

۲۳۸ ..... افادہ رضویہ

۲۳۸ ..... حائضہ سے میل جول جائز

۲۳۹ ..... حالت حیض میں وطی کا کفارہ

۲۴۱ ..... افادہ رضویہ

### ۵۔ وضو ۲۴۲

۲۴۲ ..... وضو کا مسنون طریقہ

۲۴۳ ..... افادہ رضویہ

۲۴۳ ..... قیامت میں آثار وضو چمکتے ہوں گے

۲۴۳ ..... افادہ رضویہ

۲۴۴ ..... ایک چلو سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا

۲۴۴ ..... وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو دھونا

- ۲۴۶ ..... افادہ رضویہ
- ۲۴۷ ..... وضو میں تین تین بار اعضاء دھونا
- ۲۴۸ ..... وضو پر وضو باعث اجر ہے
- ۲۴۸ ..... افادہ رضویہ
- ۲۴۹ ..... وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں
- ۲۵۰ ..... افادہ رضویہ
- ۲۵۲ ..... وضو میں بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت
- ۲۵۲ ..... افادہ رضویہ
- ۲۵۴ ..... وضو کرتے وقت داڑھی میں خلال
- ۲۵۵ ..... وضو کے بعد اعضا پونچھنے کا بیان
- ۲۵۵ ..... افادہ رضویہ
- ۲۶۱ ..... وضو میں دونوں پاؤں دھونا فرض ہے
- ۲۶۲ ..... افادہ رضویہ
- ۲۶۳ ..... وضو میں اسراف نہ کرو
- ۲۶۵ ..... افادہ رضویہ
- ۲۶۵ ..... وضو میں وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے
- ۲۶۶ ..... وضو کے بعد رومال پر چھینٹے دینا
- ۲۷۰ ..... کامل طہارت کے بعد نماز کی فضیلت

## ۶۔ تیمم

- ۲۷۲ ..... آیت تیمم کا واقعہ نزول
- ۲۷۳ ..... تیمم میں دو فرض ہیں
- ۲۷۴ ..... مٹی سے پاکی حاصل کرو

## ۷۔ نواقص وضو



۲۷۵	رتح خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے
۲۷۵	اونگنے کے بعد وضو مستحب
۲۷۶	شرم گاہ چھونے کے بعد وضو مستحب
۲۷۶	رتح کے شبہ سے وضو نہیں جاتا
۲۷۸	افادہ رضویہ
۲۷۸	شیطانی وسوسہ سے وضو نہیں ٹوٹتا
۲۷۸	افادہ رضویہ
۲۸۰	سجدہ میں نیند ناقص وضو نہیں
۲۸۱	افادہ رضویہ
۲۸۲	حضور کی نیند ناقص وضو نہیں
۲۸۳	افادہ رضویہ
۲۸۳	انبیائے کرام کی نیند ناقص وضو نہیں
۲۸۳	افادہ رضویہ

www.alahazratnetwork.org

## ۸۔ مسواک

۲۸۴	مسواک کا بیان
۲۸۴	افادہ رضویہ
۲۸۴	مسواک کی اہمیت
۲۸۴	مسواک کی تاکید
۲۸۵	وضو کے شروع میں مسواک سنت ہے
۲۸۶	مسواک ضرور کریں خواہ انگلی سے
۲۸۶	افادہ رضویہ
۲۹۳	مسواک سے وضو مکمل کرو
۲۹۴	فرشتوں کو کھانے کے ریزوں سے اذیت ہوتی ہے

## ۹۔ غسل

۲۹۵

۲۹۵	طریقہ غسل
۲۹۵	افادہ رضویہ
۲۹۷	عورتوں کے غسل کا طریقہ
۲۹۸	غسل کے پانی کی مقدار
۲۹۹	افادہ رضویہ
۲۹۹	غسل اور وضو کے پانی کی مقدار
۲۹۹	افادہ رضویہ
۳۱۰	حالت جنابت میں ہر بال کے نیچے ناپاکی
۳۱۱	تری پائے اور احتلام یا دنہ ہو تو غسل کرے
۳۱۱	عورت کو احتلام یا دنہ ہو تو غسل کرے
۳۱۲	افادہ رضویہ
۳۱۲	مومن حقیقت میں ناپاک نہیں ہوتا
۳۱۲	تطہیر نجاسات

## ۴۔ کتاب الصلوٰۃ

۳۱۵

## ۱۔ اوقات نماز

۳۱۷	نماز وقت پر ادا کرو
۳۱۸	نماز کے وقت کی حفاظت کرو
۳۱۸	نماز کے وقت کی حفاظت محبوب عمل
۳۱۹	اوقات نماز
۳۲۵	وقت فجر
۳۲۶	نماز فجر میں تاخیر افضل

۳۲۶	نماز فجر روشن کر کے پڑھو
۳۲۷	افادہ رضویہ
۳۲۹	نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو
۳۳۰	افادہ رضویہ
۳۳۲	ظہر کا آخری اور عصر کا ابتدائی وقت
۳۳۵	عصر میں تاخیر افضل ہے
۳۳۶	وقت مغرب
۳۳۶	مزدلفہ میں مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھئے
۳۳۷	افادہ رضویہ
۳۳۸	عرفات و مزدلفہ کے علاوہ جمع بین الصلواتین گناہ کبیرہ ہے
۳۳۸	افادہ رضویہ
۳۵۱	طریقہ شعبۂ
۳۵۱	تصریح اسماعیل سواما مر
۳۵۲	تصریح النسائی
۳۵۴	خلاصۃ الکلام وحسن الختام
۳۵۸	بحالت سفر ایک نماز آخر وقت اور دوسری اول وقت میں پڑھنا
۳۶۳	افادہ رضویہ
۳۶۳	جمع فعلی جسے جمع صوری بھی کہتے ہیں
۳۶۴	جمع وقتی جسے جمع حقیقی بھی کہتے ہیں
۳۶۴	جمع تقدیم
۳۶۴	جمع تاخیر
۳۶۷	افادہ رضویہ
۳۷۷	افادہ رضویہ
۳۸۵	افادہ رضویہ

۳۹۰	افادہ رضویہ
۳۹۴	افادہ رضویہ
۴۰۰	افادہ رضویہ
۴۰۵	افادہ رضویہ
۴۰۵	افادہ رضویہ
۴۱۳	وقت نکال کر نماز پڑھنا سخت عذاب کا باعث
۴۱۴	افادہ رضویہ
۴۱۵	نماز کے اوقات مکروہہ
۴۱۶	افادہ رضویہ
۴۱۶	نماز میں وقت مکروہہ تک تاخیر طریقہ منافق ہے

## ۲۔ اذان ۴۱۸

۴۱۸	اذان کی ابتداء
۴۱۹	خواب میں اذان کی تلقین
۴۲۱	اذان کے کلمات
۴۲۱	مؤذن اوقات کا امین ہوتا ہے
۴۲۱	اذان سن کر نماز کی تیاری کرو
۴۲۲	جس نے اذان پڑھی اقامت بھی اسی کا حق
۴۲۳	اذان و اقامت میں فرق
۴۲۴	افادہ رضویہ
۴۲۴	جلیلہ
۴۲۴	مفیدہ
۴۲۵	اذان خارج مسجد ہو
۴۲۵	افادہ رضویہ
۴۳۵	حضور نے ایک مرتبہ اذان پڑھی

- ۴۳۶ ..... افادہ رضویہ
- ۴۳۶ ..... اذان سنتے وقت انگوٹھے چومنا جائز ہے
- ۴۳۸ ..... افادہ رضویہ

### ۳۔ فضائل اذان

- ۴۴۱ ..... اذان کی فضیلت
- ۴۴۲ ..... اذان کی برکت سے آگ بج جاتی ہے
- ۴۴۲ ..... افادہ رضویہ
- ۴۴۲ ..... اذان وجہاد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے
- ۴۴۳ ..... اذان سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں
- ۴۴۳ ..... اذان سے بستی کا عذاب ٹل جاتا ہے
- ۴۴۳ ..... حضرت آدم کی وحشت اذان کے ذریعہ دور ہوئی
- ۴۴۴ ..... اذان غم دور کرتی ہے
- ۴۴۴ ..... افادہ رضویہ
- ۴۴۴ ..... بغیر اجرت اذان دینا اجر عظیم کا سبب
- ۴۴۵ ..... موزن کی فضیلت
- ۴۴۵ ..... افادہ رضویہ

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### ۴۔ فضائل نماز

- ۴۴۶ ..... فرضیت نماز کا ثبوت
- ۴۴۹ ..... نمازیں پہلے کس نے پڑھیں؟
- ۴۴۹ ..... نماز اور روزے کب فرض ہوتے ہیں؟
- ۴۵۰ ..... نماز کی ادائے گی حضور کی ادا کے مطابق
- ۴۵۰ ..... بچوں کو نماز کا حکم
- ۴۵۱ ..... فضیلت نماز



۴۵۱	نماز عشا کی فضیلت
۴۵۲	افادہ رضویہ
۴۵۳	افادہ رضویہ
۴۵۳	نماز پنجگانہ کی فضیلت
۴۵۴	اہمیت نماز
۴۵۴	افادہ رضویہ
۴۵۷	پانچوں نمازوں کی ادائے گی کا حکم
۴۵۹	پانچوں نمازوں کی حفاظت
۴۶۰	نماز کی فضیلت
۴۶۱	باجاماعت نماز کی فضیلت واہمیت
۴۶۲	افادہ رضویہ
۴۶۳	نماز میں خشوع و خضوع
۴۶۴	اسلام میں چار فرض ہیں
۴۶۴	قبل معراج نمازوں کی کیفیت
۴۶۵	افادہ رضویہ
۴۶۶	اتفاقہ نیند عذر شرعی ہے
۴۶۶	افادہ رضویہ

## ۵۔ شرائط وارکان نماز ۴۶۷

۴۶۷	جہت قبلہ
۴۶۷	قرأت نماز
۴۶۸	قرأت خلف الامام کی ممانعت
۴۶۸	افادہ رضویہ
۴۶۹	افادہ رضویہ
۴۷۰	افادہ رضویہ

۴۷۲	افادہ رضویہ
۴۷۲	افادہ رضویہ
۴۷۲	افادہ رضویہ
۴۷۳	افادہ رضویہ
۴۷۴	افادہ رضویہ
۴۷۷	عصر میں مقدار قرأت
۴۷۷	سجدہ کا بیان
۴۷۸	سجدہ کی فضیلت
۴۷۸	امام کو لقمہ دینا
۴۷۹	افادہ رضویہ
۴۸۰	حالت شک میں ایک رکعت زیادہ پڑھے
۴۸۰	افادہ رضویہ
۴۸۰	نماز میں کھیل نہ کرے
۴۸۱	نماز میں گفتگو منع
۴۸۱	تحویل قبلہ
۴۸۲	عورتوں کی نماز کا طریقہ
۴۸۲	سجدوں کے نشان قیامت میں چمکتے ہوں گے

## ۶۔ سنن و آداب نماز ۴۸۳

۴۸۳	نماز کیلئے اطمینان سے جاؤ
۴۸۳	نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں
۴۸۴	افادہ رضویہ
۴۸۵	تشہد میں انگشت شہادت سے اشارہ کرنا
۴۸۶	افادہ رضویہ
۴۸۷	مسئلہ رفع یدین

- ۴۸۷ ..... افادہ رضویہ
- ۴۸۸ ..... افادہ رضویہ
- ۴۸۹ ..... ایک کپڑے سے نماز
- ۴۹۰ ..... نماز کے وقت جوتے کہاں رکھے؟
- ۴۹۱ ..... افادہ رضویہ
- ۴۹۱ ..... جوتے پہن کر نماز پڑھنا
- ۴۹۲ ..... افادہ رضویہ
- ۴۹۲ ..... نماز میں چادر وغیرہ کس طرح اوڑھے
- ۴۹۳ ..... نماز میں بسم اللہ جہر سے نہیں پڑھی جائے گی
- ۴۹۷ ..... افادہ رضویہ
- ۴۹۹ ..... حتی الوسع اچھے کپڑوں میں نماز پڑھو
- ۴۹۹ ..... رکوع میں تطبیق
- ۵۰۰ ..... افادہ رضویہ
- ۵۰۰ ..... نماز سے فارغ ہو کر دہنی جانب پلٹنا
- ۵۰۱ ..... نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مصلیٰ پر بیٹھنا سنت ہے

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### ۵۰۳ ..... ۷۔ مساجد

- ۵۰۳ ..... مسجد کا بیان
- ۵۰۳ ..... مسجد بہتر اور بازار بدتر جگہ ہے
- ۵۰۳ ..... مسجد بنانے پر اجر
- ۵۰۵ ..... مسجد کی دیوار قبلہ آراستہ نہ کیجائے
- ۵۰۵ ..... مسجد کی زینتوں میں حد سے تجاوز ممنوع ہے
- ۵۰۶ ..... افادہ رضویہ
- ۵۰۶ ..... مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرنا منع ہے
- ۵۰۷ ..... مسجد میں خرید و فروخت کرنا منع ہے

۵۰۸	افادہ رضویہ
۵۰۸	بودار چیز کھا کر مسجد نہ جائے
۵۰۸	افادہ رضویہ
۵۰۸	مسجد میں دنیا کی بات حرام
۵۱۰	مسجدوں میں نا سمجھ بچوں کو نہ لاؤ
۵۱۱	مساجد کو پاک و صاف رکھو
۵۱۱	مسجد میں بلند آواز سے نہ بولو
۵۱۲	مسجد کا پڑوسی مسجد میں نماز پڑھے
۵۱۲	افادہ رضویہ
۵۱۲	اذان کے بعد مسجد سے نہ جائے
۵۱۳	مسجد کی پابندی کرنے والا مومن کامل ہے
۵۱۴	مسجد جانے والے بزرگ ہیں
۵۱۴	بلا عذر گھر میں فرائض پڑھنا گناہ ہے
۵۱۵	اندھیری رات میں مسجد جانا عظیم ثواب کا باعث ہے
۵۱۶	مسجد میں نماز باعث اجر ہے
۵۱۶	مساجد جنت کی کیاریاں ہیں
۵۱۷	مسجد میں ذکر خدا اور نماز کیلئے بنی ہیں
۵۱۷	گفتگو فٹائے مسجد میں ہی کرو
۵۱۸	جہاں نماز پڑھی جائے وہ جگہ گواہ ہو جاتی ہے
۵۱۸	تمام زمین مسجد ہے
۵۱۹	افادہ رضویہ
۵۱۹	معذور کو گھر میں نماز کی اجازت ہے
۵۲۰	مسجد میں نمازی پر شیطان حملہ کرتا ہے
۵۲۱	مسجد نبوی کی تعمیر مراحل میں

۶۱۸	۱۷۔ عیدین
۶۱۹	عیدین کی نماز اور وعظ و نصیحت
۶۱۹	عیدین کی نماز دو رکعت ہے
۶۲۱	خطبہ عیدین نماز کے بعد ہو
۶۲۲	افادہ رضویہ
۶۲۲	خطبہ عیدین اور دعا بعد نماز ہو
۶۲۲	عید کے دن کی فضیلت
۶۲۳	افادہ رضویہ
۶۲۴	معذور اور عورتیں بھی عید کے دن دعا میں شریک ہوں
۶۲۴	عیدین میں دو گانہ سے پہلے اور بعد میں کھانا
۶۲۶	۱۸۔ کسوف
۶۲۶	سورج گرہن کی نماز <a href="http://www.alahazratnetwork.org">www.alahazratnetwork.org</a>
۶۳۰	۱۹۔ استسقاء
۶۳۰	نماز استسقاء
۶۳۰	افادہ رضویہ
۶۳۲	۲۰۔ سہو
۶۳۲	نماز میں سہو کا بیان
۶۳۲	افادہ رضویہ
۶۳۳	سجدہ سہو کی حکمت
۶۳۳	افادہ رضویہ
۶۳۴	۲۱۔ مکروہات
۶۳۴	مکروہات نماز



- ۶۳۵ ..... محراب و در میں کھڑے ہونے کی ممانعت
- ۶۳۶ ..... نماز میں قبلہ کی جانب تھوکنامنع ہے
- ۶۳۷ ..... نمازی کے سامنے ایسی چیز نہ ہوں جس سے دل بٹے
- ۶۳۸ ..... نماز میں آسمان کی طرف منہ اٹھانا منع ہے

### ۶۳۹ ..... ۲۲۔ عمامہ

- ۶۳۹ ..... عمامہ کی فضیلت
- ۶۳۹ ..... افادہ رضویہ
- ۶۴۳ ..... افادہ رضویہ
- ۶۴۴ ..... عمامہ کی فضیلت نماز میں
- ۶۴۴ ..... افادہ رضویہ
- ۶۴۵ ..... افادہ رضویہ

### ۶۴۹ ..... ۲۳۔ قضا کے فرائض

- ۶۴۹ ..... قضا نماز کا بیان

### ۶۵۵ ..... ۲۴۔ فضائل درود شریف

- ۶۵۵ ..... فضائل درود
- ۶۵۵ ..... کثرت درود کی فضیلت
- ۶۵۵ ..... افادہ رضویہ
- ۶۵۶ ..... افادہ رضویہ
- ۶۵۷ ..... درود شریف اور دیدار رسول ﷺ
- ۶۵۷ ..... افادہ رضویہ
- ۶۵۸ ..... درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے

# فہرست عنوانات جلد دوم

## ۵۔ کتاب الجنائز

۳

۵

### ۱۔ موت

۵

مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو

۵

افادہ رضویہ

۶

رزق مکمل ہونے سے پہلے موت نہیں آتی

۶

موت سے مسلمان کے گناہ مٹتے ہیں

۷

جمعہ کی رات اور دن میں انتقال کی فضیلت

۷

روح قبض ہونے کے بعد کیا کیا جائے؟

۸

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

نابالغ بچوں کے مرنے پر اجر

۱۰

جو جس حال میں مرے گا وہ اسی پر اٹھے گا

۱۰

افادہ رضویہ

### ۲۔ تجہیز و تکفین و تدفین

۱۱

۱۱

کفن دینے کا مسنون طریقہ

۱۲

کفن میں لکھ کر رکھنے کی دعا

۱۲

جنازہ میں جلد کرو

۱۲

افادہ رضویہ

۱۳

اچھا کفن دو اور میت کا دین جلد ادا کرو

۱۳

افادہ رضویہ

۱۳

میت کے کنگھے کرنا ممنوع ہے

۱۴

جنازہ کے ساتھ کیا پڑھے

- ۱۴ میت کو قبر میں اتارے تو کیا پڑھے؟
- ۱۵ میت رکھ کر قبر میں دعا کرنا
- ۱۵ جنازہ کے ساتھ آگ نہ لے جاؤ
- ۱۶ جنازے میں عورتیں شریک نہ ہوں
- ۱۶ معظم دینی و بزرگوں کے کپڑوں سے کفن دینا بہتر ہے
- ۱۷ حضور نے حضرت علی کی والدہ کو اپنی قمیص میں کفن دیا
- ۱۷ عبداللہ بن ابی منافق کے کفن کیلئے حضور نے قمیص دی
- ۱۸ افادہ رضویہ
- ۱۹ بعد دفن دعا پڑھو
- ۱۹ بعد دفن استغفار کرو
- ۲۰ افادہ رضویہ
- ۲۱ افادہ رضویہ
- ۲۱ مردہ غسل دینے والے کو پہنچاتا ہے
- ۲۳ نیک لوگوں کے قرب میں دفن کرو
- ۲۴ انسان اپنی مٹی کی جگہ دفن ہوتا ہے
- ۲۵ حضرت فاطمہ کا وصال اور کفن دفن میں جلدی

### ۳۔ نماز جنازہ

- ۲۷ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھو
- ۲۷ مومن کی نماز جنازہ پڑھنا باعث مغفرت ہے
- ۲۷ مومن کی نماز جنازہ پڑھنے پر ثواب عظیم
- ۲۹ نماز جنازہ صرف ایک بار جائز ہے
- ۳۰ افادہ رضویہ
- ۳۲ حضور کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا آپ کی خصوصیات سے ہے
- ۳۲ افادہ رضویہ

۳۳	افادہ رضویہ
۳۳	افادہ رضویہ
۳۶	افادہ رضویہ
۳۹	افادہ رضویہ
۴۱	اہل قبلہ کی نماز جنازہ پڑھو
۴۲	نماز جنازہ کا طریقہ اور ابتداء
۴۲	افادہ رضویہ
۴۲	حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال
۴۳	نماز جنازہ میں تین صفیں بناؤ
۴۳	تین صفوں کے ذریعہ نماز جنازہ باعث مغفرت ہے
۴۴	افادہ رضویہ
۴۵	سونمازیوں کے طفیل میت کی بخشش ہوتی ہے
۴۶	افادہ رضویہ <a href="http://www.alahazratnetwork.org">www.alahazratnetwork.org</a>
۴۶	مومن کے جنازے میں شریف لوگ بکس دئے جاتے ہیں
۴۸	چالیس نمازیوں کی دعا سے میت بخش دی جاتی ہے
۴۸	سونمازیوں کے طفیل میت بخش دی جاتی ہے
۴۹	قبر پر نماز جنازہ پڑھنا
۵۰	مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں
۵۰	مسجد میں نماز جنازہ جائز نہیں
۵۱	نماز جنازہ کیلئے بوقت ضرورت تیمم جائز ہے
۵۳	حضور کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی گئی

## ۴۔ نماز جنازہ کی دعائیں ۵۶

۵۶	دعائے جنازہ
۵۶	نماز جنازہ کی دیگر مسنون دعائیں

## ۵۔ زیارت قبور

۶۳

- ۶۳ ..... ایک سال پر قبروں کی زیارت اور عرس  
 ۶۳ ..... بوسہ قبر تعظیم روح کیلئے ہے  
 ۶۴ ..... افادہ رضویہ  
 ۶۴ ..... زیارت قبر سے مردہ کا دل بہلتا ہے  
 ۶۵ ..... اہل قبور کو سلام کرو وہ جواب دیتے ہیں  
 ۶۵ ..... افادہ رضویہ  
 ۶۵ ..... افادہ رضویہ  
 ۶۷ ..... افادہ رضویہ  
 ۶۸ ..... قبر کی زیارت سے مردہ خوش ہوتا ہے  
 ۶۹ ..... اہل قبور سنتے اور دیکھتے ہیں  
 ۶۹ ..... افادہ رضویہ  
 ۷۰ ..... قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت  
 ۷۰ ..... افادہ رضویہ  
 ۷۱ ..... افادہ رضویہ  
 ۷۱ ..... عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں  
 ۷۲ ..... افادہ رضویہ  
 ۷۳ ..... قبر پر عورت کی حاضری اور جزع و فزع سے ممانعت  
 ۷۳ ..... کافر کی قبر سے گزرو تو کیا کہو  
 ۷۴ ..... افادہ رضویہ

## ۶۔ احترام مقابر

۷۵

- ۷۵ ..... مسلم کی قبر پر ہرگز نہ چلو  
 ۷۵ ..... قبر پر ٹیک نہ لگاؤ  
 ۷۶ ..... افادہ رضویہ



- ۷۸ ..... قبر پر چلنے سے میت کو اذیت ہوتی ہے
- ۷۸ ..... افادہ رضویہ
- ۷۸ ..... قبر پر قبہ بنانا جائز ہے

## ۷۔ مردوں سے حسن سلوک اور ایصال ثواب ۸۲

- ۸۲ ..... مردوں کو بھلائی سے یاد کرو
- ۸۳ ..... قبرستان میں جا کر استغفار کرو
- ۸۵ ..... میت کی ہڈیاں توڑنا زندہ کی طرح ہے
- ۸۵ ..... مرنے کے بعد تین چیزوں کا ثواب ملتا ہے
- ۸۶ ..... والدین کی طرف صدقہ دینے سے ان کو ثواب ملتا ہے
- ۸۷ ..... بعد دفن قبر پر دعا کرنا سنت ہے
- ۸۸ ..... ایصال ثواب
- ۸۸ ..... پیرام سعد برائے ایصال ثواب کھودا گیا
- ۸۹ ..... افادہ رضویہ

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## ۸۔ عالم برزخ کے احوال ۹۱

- ۹۱ ..... عالم برزخ کی وسعت
- ۹۱ ..... افادہ رضویہ
- ۹۱ ..... مومن کی روح آزاد رہتی ہے
- ۹۲ ..... روحیں متعلقین سے ملاقات کرتی ہیں
- ۹۲ ..... مومن کی روح آزاد رہتی ہے اور کافر کی قید
- ۹۳ ..... مردہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے
- ۹۴ ..... مردہ قبرستان لے جانے والوں سے کلام کرتا ہے
- ۹۵ ..... افادہ رضویہ
- ۹۵ ..... مومن کو وقت انتقال ہی بشارت دیدی جاتی ہے
- ۹۶ ..... مردہ سب کو دکھتا اور آواز دیتا ہے

- ۹۸ ..... مومن مردہ قبر کے پاس سے گزرنے والے کو پہچانتا ہے
- ۹۹ ..... افادہ رضویہ
- ۹۹ ..... مردہ دفن کے بعد جانے والوں کے جوتے کی آواز سنتا ہے
- ۱۰۱ ..... مردے سنتے ہیں خواہ کافر ہوں
- ۱۰۳ ..... حضور نے قبر کی آواز سنی
- ۱۰۳ ..... حضرت فاروق اعظم نے اہل قبور کی آواز سنی
- ۱۰۴ ..... حضرت مولیٰ علی نے اہل قبور کی آواز سنی
- ۱۰۵ ..... افادہ رضویہ
- ۱۰۵ ..... بے گناہ کو مٹی نہیں کھاتی

## ۹۔ سوگ اور نوحہ ۱۰۷

- ۱۰۷ ..... غم اور آنسو پر عذاب نہیں
- ۱۰۷ ..... رونے سے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے
- ۱۰۹ ..... افادہ رضویہ
- www.alahazratnetwork.org
- ۱۱۰ ..... مرثیہ ناجائز ہے
- ۱۱۰ ..... افادہ رضویہ
- ۱۱۰ ..... نوحہ جائز نہیں
- ۱۱۳ ..... اہل میت کے یہاں کھانے کیلئے جمع ہونا سوگ ہے
- ۱۱۳ ..... افادہ رضویہ

## ۱۰۔ اذان قبر ۱۱۴

- ۱۱۴ ..... اذان قبر کا ثبوت
- ۱۱۴ ..... افادہ رضویہ
- ۱۱۷ ..... ۱۰۔ کفن وغیرہ میں تبرکات
- ۱۱۷ ..... تبرکات کا استعمال
- ۱۱۷ ..... کی مبارک چھڑی قبر میں رکھی گئی

- ۱۱۸ ..... حضور کے موئے مبارک منہ میں رکھے گئے
- ۱۱۸ ..... حضور کا بچا ہوا مشک حضرت علی نے کفن میں لگوا دیا
- ۱۱۸ ..... افادہ رضویہ
- ۱۱۸ ..... حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

## ۱۱۔ شہید کون؟

- ۱۲۰ ..... شہیدوں کی قسمیں

## ۱۲۔ شہید کی فضیلت

- ۱۲۳ ..... فضیلت شہید
- ۱۲۵ ..... افادہ رضویہ
- ۱۲۶ ..... شہید کی روح جسم مثالی میں رکھی جاتی ہے
- ۱۲۶ ..... شہدائے احد کی تدفین اور ان کی فضیلت
- ۱۲۷ ..... فاروق اعظم کا جسم اطہر ایک مدت کے بعد صحیح و سلامت تھا

## ۱۳۔ طاعون

- ۱۲۹ ..... طاعون میں مرنے والا شہید ہے
- ۱۲۹ ..... طاعون مومن کیلئے شہادت ہے
- ۱۳۳ ..... طاعون سے بھاگنا حرام ہے
- ۱۳۹ ..... افادہ رضویہ
- ۱۴۱ ..... جذامی سے میل جول
- ۱۴۲ ..... جذامی سے دور بھاگو
- ۱۴۵ ..... جذامی کے ساتھ قیام و طعام
- ۱۵۰ ..... افادہ رضویہ

## ۶۔ کتاب الزکوۃ

۱۵۵

### ۱۔ زکوۃ کی اہمیت و فرضیت

۱۵۷

- ۱۵۷ فضائل زکوۃ
- ۱۵۸ افادۂ رضویہ
- ۱۵۹ زکوۃ کی فرضیت
- ۱۵۹ حوالان حوال پر زکوۃ ادا کرنا واجب ہے
- ۱۶۰ زیور کی زکوۃ فرض ہے
- ۱۶۰ زکوۃ نہ دینے والا جہنمی ہے
- ۱۶۱ افادۂ رضویہ
- ۱۶۱ زکوۃ نہ دینے پر سزا و عذاب
- www.alahazratnetwork.org
- ۱۶۳ افادۂ رضویہ
- ۱۶۷ جس نے زکوۃ نہ دی اس کی نماز نہیں
- ۱۶۸ زکوۃ نہ دینے پر سزا
- ۱۶۸ زکوۃ کے بعد مال کنز نہیں رہتا
- ۱۶۹ اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرو
- ۱۷۰ ضرورتِ اصلیہ میں زکوۃ نہیں

### ۲۔ بنو ہاشم کیلئے زکوۃ حرام

۱۷۱

- ۱۷۱ اہل بیت کیلئے زکوۃ ناجائز
- ۱۷۷ افادۂ رضویہ
- ۱۷۷ بنو ہاشم کا غلام بھی زکوۃ نہیں لے سکتا

### ۳۔ مصارف زکوۃ و صدقات

۱۷۸

- ۱۷۸ ..... اہل قرابت کو زکوٰۃ و صدقہ دینا اجر عظیم کا باعث
- ۱۷۹ ..... اہل قرابت کے علاوہ کو صدقہ دینا مقبول نہیں
- ۱۸۱ ..... غنیوں و تندرست کیلئے زکوٰۃ جائز نہیں

## ۴۔ فضائل صدقہ

- ۱۸۱ ..... صدقہ و خیرات کی فضیلت
- ۱۸۲ ..... افادۂ رضویہ
- ۱۸۲ ..... پوشیدہ صدقہ افضل ہے
- ۱۸۲ ..... صدقہ عمر بڑھاتا ہے
- ۱۸۳ ..... صدقہ غضب الہی کو بجھاتا ہے
- ۱۸۴ ..... صدقہ جہنم سے بچاتا ہے
- ۱۸۴ ..... صدقہ گناہ مٹاتا ہے
- ۱۸۵ ..... صدقہ بلائیں دفع کرتا ہے [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۱۸۶ ..... صدقہ کی کثرت سے روزی بڑھتی ہے
- ۱۸۷ ..... بہرے کو بات سنانا صدقہ ہے
- ۱۸۷ ..... خود کھانا اور دوسرے کو کھلانا صدقہ ہے
- ۱۸۸ ..... ہر جاندار کو کھلانا باعث ثواب
- ۱۸۸ ..... حرام کمائی سے صدقہ حرام ہے
- ۱۸۹ ..... حلال کمائی ہی مقبول ہے

## ۵۔ حیلہ شرعی

- ۱۹۲ ..... حیلہ شرعی کی اصل

## ۶۔ صدقہ فطر

- ۱۹۴ ..... صدقہ فطر کی مقدار
- ۱۹۴ ..... عہد رسالت میں صدقہ فطر عموماً تین چیزوں سے ادا کیا جاتا تھا



۱۹۴ ..... افادہ رضویہ

## ۷۔ چندہ اور اسراف ۱۹۶

۱۹۶ ..... چندہ کی اصل اور اجر و ثواب

۱۹۷ ..... راہ خدا میں مال کثیر خرچ کرنا اسراف نہیں

۱۹۷ ..... افادہ رضویہ

۱۹۸ ..... عوام کو تمام مال راہ خدا میں خرچ کرنا جائز نہیں

۱۹۸ ..... افادہ رضویہ

## ۸۔ احکام سوال ۱۹۹

۱۹۹ ..... اللہ کے نام پر مانگنا

۲۰۰ ..... افادہ رضویہ

۲۰۱ ..... مال جمع کرنے کیلئے سوال درست نہیں

۲۰۲ ..... کثرت سوال اور فضول خرچی مکروہ ہے

۲۰۳ ..... دینے والا ہاتھ افضل ہے

۲۰۳ ..... عزت نفس کے ذریعہ حاجت طلب کرو

۲۰۴ ..... افادہ رضویہ

## ۹۔ مال جمع کرنا ۲۰۵

۲۰۵ ..... اہل خانہ کیلئے ایک سال کا خرچ جمع کرنا جائز ہے

۲۰۵ ..... بلا ضرورت جائداد نہ بیچو

## ۷۔ کتاب الصوم ۲۰۷

### ۱۔ روزے کی فرضیت و اہمیت ۲۰۹

۲۰۹ ..... فرائض اسلام چار ہیں

- ۲۰۹ ..... رمضان کی فضیلت
- ۲۱۰ ..... روزے کے فائدے
- ۲۱۰ ..... روزہ ارکان اسلام سے ہے
- ۲۱۱ ..... رمضان کا ایک روزہ تمام زندگی کے روزوں سے افضل ہے
- ۲۱۱ ..... روزہ نہ رکھنے کی سزا اور وقت سے پہلے افطار پر وعید
- ۲۱۳ ..... حالت جنابت میں روزہ
- ۲۱۴ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۱۵ ..... رویت ہلال
- ۲۱۵ ..... صوم و افطار اور رویت ہلال
- ۲۱۶ ..... قیامت کے قریب چاند پھولے ہوئے نکلے ہوئے
- ۲۱۶ ..... چاند کیلئے اندازہ بیکار ہے
- ۲۱۷ ..... رمضان کیلئے شعبان کے چاند کی حفاظت کرو
- ۲۱۷ ..... نیا چاند دیکھ کر کیا دعا پڑھیں
- ۲۲۰ ..... چاند دکھ کر اللہ کی پناہ چاہو
- ۲۲۰ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۲۰ ..... یوم شک کاروزہ
- ۲۲۱ ..... مہینہ ۲۹/ اور ۳۰ دن کا ہوتا ہے
- ۲۲۱ ..... عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مہینے مسلسل ۲۹ کے نہیں ہوتے
- ۲۲۲ ..... افادۂ رضویہ

### ۳۔ نفلی روزے

- ۲۲۴ ..... عاشورہ کاروزہ
- ۲۲۴ ..... یوم عاشورہ کے ساتھ نویں محرم کاروزہ
- ۲۲۵ ..... ستائیس رجب کاروزہ
- ۲۲۶ ..... افادۂ رضویہ

۲۲۷	شعبان کے روزے
۲۲۷	عرفہ اور عشرہ ذوالحجہ کے روزے
۲۲۹	ہر ماہ ایام بیض کے روزے
۲۳۰	شوال کے چھ روزے
۲۳۰	دوشنبہ، چہار شنبہ، پنجشنبہ، جمعہ کے روزے
۲۳۲	ہفتہ کا روزہ
۲۳۳	صوم وصال منع ہے
۲۳۴	صوم داؤدی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
۲۳۶	سحری و افطار
۲۳۶	سحری کا آخری وقت
۲۳۶	افادہ رضویہ
۲۳۶	افطار کا وقت
۲۳۷	افادہ رضویہ
۲۳۹	افطار میں جلدی مستحب ہے
۲۴۰	کھجور سے روزہ افطار کرنا افضل ہے
۲۴۱	عام طور پر لوگ جس دن افطار کریں تم بھی کرو
۲۴۲	افطار کرانے کا ثواب
۲۴۴	افطار کی دعائیں
۲۴۶	افادہ رضویہ

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## ۸۔ کتاب الحج

۲۴۷

۲۴۹

### ۱۔ حج کی فرضیت و اہمیت

۲۴۹

فرضیت حج کا ثبوت

۲۴۹	حج زیارت اور عمرہ کے فضائل
۲۵۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حج فرمایا
۲۵۵	افادہ رضویہ
۲۶۱	حج بیت اللہ کی برکت
۲۶۲	حج نفل
۲۶۲	حج بدل
۲۶۴	افادہ رضویہ

## ۲۶۵ ۲۔ مناسک کی فضیلت

۲۶۵	طواف کی فضیلت
۲۶۵	تلبیہ کے الفاظ
۲۶۶	عرفات و مزدلفہ پیدل جانے کی فضیلت
۲۶۶	افادہ رضویہ
۲۶۶	عرفات و مزدلفہ میں نمازوں کا جمع کرنا

## ۲۶۸ ۳۔ زیارت روضہ انور

۲۶۸	زیارت روضہ انور اور بوسہ تبرکات
۲۶۸	روضہ انور کی زیارت شفاعت کا اہم ذریعہ ہے
۲۶۹	افادہ رضویہ
۲۷۰	روضہ انور کی زیارت گویا حضور کا دیدار پر انوار ہے
۲۷۱	ثواب کی نیت سے زیارت روضہ انور باعث شفاعت ہے
۲۷۱	روضہ انور کے زائر کیلئے شفاعت واجب
۱۷۱	مسجد نبوی حضور کی زیارت کی نیت سے جانا دو حج مبرور کا ثواب ہے
۲۷۲	افادہ رضویہ
۲۷۲	حج کے ساتھ زیارت نہ کرنا ظلم ہے

- ۲۷۳ ..... صاحب استطاعت پر زیارت لازم ہے
- ۲۷۳ ..... بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنا سعادت دارین کا اہم ذریعہ ہے
- ۲۷۳ ..... افادہ رضویہ

## ۴۔ فضائل مدینہ منورہ ۲۸۱

- ۲۸۱ ..... فضیلت مدینہ
- ۲۸۳ ..... مدینہ افضل ہے یا مکہ؟
- ۲۸۴ ..... مدینہ میں مرنے والا شفاعت کا مستحق ہے
- ۲۸۴ ..... مدینہ میں سکونت کی فضیلت
- ۲۸۴ ..... افادہ رضویہ

## ۵۔ فضیلت حرم ۲۸۶

- ۲۸۶ ..... فضیلت کعبہ
- ۲۸۶ ..... حرمین میں مرنے کی فضیلت [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۲۸۷ ..... کعبہ مقدسہ میں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے

## ۹۔ کتاب النکاح ۲۸۹

### ۱۔ فضیلت نکاح اور احکام ۲۹۱

- ۲۹۱ ..... نکاح حضور کی اہم سنت ہے
- ۲۹۲ ..... نکاح کی برکت
- ۳۹۲ ..... افادہ رضویہ
- ۲۹۳ ..... تین لوگ دو گنے اجر کے مستحق ہیں
- ۲۹۴ ..... بچوں کی پرورش نکاح ثانی نہ کرنے والی عورت جنتی ہے
- ۲۹۴ ..... افادہ رضویہ



۲۹۵	افادہ رضویہ
۲۹۷	افادہ رضویہ
۲۹۸	جنت میں دنیوی بیوی ملے گی
۲۹۸	افادہ رضویہ
۲۹۹	افادہ رضویہ
۳۰۰	بالغہ کی شادی میں جلدی کرو
۳۰۰	افادہ رضویہ
۳۰۰	عقلہ بالغہ کو اپنے نفس کا اختیار ہے
۳۰۱	افادہ رضویہ
۳۰۱	کسی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دو
۳۰۲	متعہ حرام ہے
۳۰۴	حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح
۳۰۵	ام المومنین حضرت عائشہ کا نکاح
۳۰۵	لڑکا بالغ ہو جائے تو نکاح کر دو
۳۰۶	افادہ رضویہ
۳۰۶	حضرت سلیمان علیہ السلام کی نویں یا سوہیڑیاں تھیں

۳۰۷

## ۲۔ مہر

۳۰۷	مہر کا بیان
۳۰۷	افادہ رضویہ
۳۰۹	مہر سیدہ فاطمہ
۳۱۱	افادہ رضویہ

۳۱۳

## ۳۔ حسن معاشرت

۳۱۳	عورتوں سے حسن سلوک
-----	--------------------

- ۳۱۴ ..... افادہ رضویہ
- ۳۱۴ ..... عورت کو حسن تدبیر سے سیدھا رکھو
- ۳۱۵ ..... عورتوں کو نہ ستاؤ
- ۳۱۵ ..... میاں بیوی کی محبت بے مثال چیز ہے
- ۳۱۵ ..... عورت کو شوہر سے جدا کرنا حرام ہے
- ۳۱۶ ..... دو بیویوں کے درمیان انصاف ضروری
- ۳۱۶ ..... ازواج کے دوران باری مقرر کرنا

## ۴۔ شوہر کے حقوق ۳۱۷

- ۳۱۷ ..... بیوی پر شوہر کا حق
- ۳۲۵ ..... افادہ رضویہ
- ۳۲۸ ..... افادہ رضویہ
- ۳۳۰ ..... افادہ رضویہ
- ۳۳۱ ..... افادہ رضویہ
- ۳۳۲ ..... افادہ رضویہ
- ۳۳۴ ..... افادہ رضویہ
- ۳۳۴ ..... شوہر کی غیرت کا خیال بیوی پر لازم ہے
- ۳۳۴ ..... اکثر عورتیں شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے جہنمی ہیں
- ۳۳۶ ..... شوہروں کی اطاعت پر اجر عظیم
- ۳۳۷ ..... شوہروں کی فرمانبرداری عورتیں جنتی ہیں
- ۳۳۸ ..... شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے بیوی نکاح سے خارج ہوئی

## ۵۔ نسب و رضاعت ۳۳۹

- ۳۳۹ ..... اچھے نسب والوں میں نکاح کرو
- ۳۴۰ ..... شریف و رذیل کا ثبوت

۳۴۱	.....	بغیر عمل نسبی شرافت کام نہیں دیتی
۳۴۱	.....	افادہ رضویہ
۳۴۲	.....	افادہ رضویہ
۳۴۳	.....	نسب بدلنا حرام
۳۴۴	.....	افادہ رضویہ
۳۴۴	.....	ولد الزنا پر کوئی گناہ نہیں
۳۴۵	.....	حرامی بچہ عموماً بد خصلت ہوتا ہے
۳۴۶	.....	افادہ رضویہ
۳۴۶	.....	بچہ بستر والے کا اور زانی کیلئے پتھر
۳۴۷	.....	افادہ رضویہ
۳۴۷	.....	رشتہ ولد نسبی رشتہ کی طرح ہے
۳۴۷	.....	افادہ رضویہ
۳۴۸	.....	رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے

www.alahazratnetwork.org

## ۳۵۰ ۶۔ اعلان نکاح

۳۵۰	.....	اعلان نکاح اور مساجد میں انعقاد مسنون ہے
۳۵۰	.....	نکاح میں لوگوں کو اطلاع ضرور چاہیئے
۳۵۱	.....	شادی میں گانے کی محفل کا حکم
۳۵۱	.....	افادہ رضویہ
۳۵۵	.....	افادہ رضویہ
۳۵۶	.....	شادی سے قبل عورت کو دیکھ لینا جائز
۳۵۷	.....	افادہ رضویہ

## ۳۵۸ ۷۔ مباشرت

۳۵۸	.....	بغیر غسل چند بیویوں کے پاس جاسکتا ہے
-----	-------	--------------------------------------

۳۵۸

وقت جماع برہنگی صحیح نہیں ہے

## ۸۔ نکاح پر عدم قدرت

۳۵۹

۳۵۹

صاحب استطاعت نکاح کرے ورنہ روزہ رکھے

## ۱۰۔ کتاب الطلاق

۳۶۱

## ۱۔ طلاق کی شرعی حیثیت

۳۶۳

۳۶۳

مباح چیزوں میں مبغوض تر طلاق ہے

۳۶۳

افادہ رضویہ

۳۶۴

کثرت نکاح و طلاق ممنوع ہے

۳۶۴

طلاق کی قسم کھانا اور کھلانا صفت نفاق ہے

۳۶۴

زمانہ جاہلیت میں ایک مجلس کی چند طلاقوں کی کوئی حیثیت نہ تھی

۳۶۶

طلاق مغلطہ اور حلالہ کا حکم

۳۶۷

حلالہ کرنے والا ملعون ہے

۳۶۷

افادہ رضویہ

۳۶۷

طلاق مغلطہ کا حکم

۳۶۸

ایک وقت میں تین طلاق دینے سے تین ہوں گی

۳۷۰

افادہ رضویہ

۳۷۱

تین طلاقوں کے بعد رجعت منسوخ ہوگئی

۳۷۲

حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے

۳۷۶

بیوی کو بہن کہنے کا حکم

۳۷۶

افادہ رضویہ

۳۷۷

مفقود الخمر شوہر کا حکم

۳۷۷

افادہ رضویہ

# ۱۱۔ کتاب البیوع

۳۷۹

## ۱۔ کسب حلال و حرام

۳۸۱

۳۸۱

کسب حلال کی فضیلت

۳۸۳

طلب معاش میں اچھا طریقہ اپناؤ

۳۸۴

تلاش معاش کی فضیلت

۳۸۵

تلاش معاش میں دنیا و آخرت دونوں کو پیش نظر رکھے

۳۸۵

افادہ رضویہ

۳۸۶

قوت بازو کی کمائی افضل ہے

۳۸۷

کسب حلال ضروری ہے

۳۸۸

نا جائز کمائی

۳۸۹

جس کسب سے روزی ملے اسی کو اختیار کرے

## ۲۔ خرید و فروخت

۳۹۰

۳۹۰

مسلمان کے عقد پر عقد نہ کرو

۳۹۰

معدوم کی بیع جائز نہیں

۳۹۰

آدمی اپنی کمائی برباد نہ کرے

۳۹۱

بلا ضرورت جائیداد نہ بیچو

۳۹۱

بیع کو قرض کی شرط سے مشروط نہ کرو

۳۹۱

افادہ رضویہ

۳۹۲

روپے کی بیع تفاضل کے ساتھ جائز ہے

۳۹۲

افادہ رضویہ

## ۳۔ غبن و غصب و عاریت

۳۹۴



- ۳۹۴ ..... غبن مذموم ہے
- ۳۹۴ ..... غصب کا وبال
- ۳۹۵ ..... عاریت کا مال واپس کرے

## ۴- اجرت و مزارعت ۳۹۶

- ۳۹۶ ..... اجرت ادا کرو
- ۳۹۶ ..... تعویذ پر اجرت جائز ہے
- ۳۹۸ ..... افادہ رضویہ
- ۳۹۸ ..... کام ختم ہوتے ہی مزدور کی اجرت ختم کرو
- ۳۹۹ ..... تعلیم قرآن پر اجرت کا حکم
- ۳۹۹ ..... بیائی پر زراعت کا حکم
- ۳۹۹ ..... افادہ رضویہ

## ۵- قرض و سود ۴۰۱

- ۴۰۱ ..... ہر قرض جس سے منفعت مقصود ہو وہ سود ہے
- ۴۰۱ ..... سود کی لعنت
- ۴۰۲ ..... سود کی مذمت
- ۴۰۲ ..... افادہ رضویہ
- ۴۰۳ ..... سود کھانا زنا سے بدتر کام ہے
- ۴۰۸ ..... سود اور اس سے بچنے کی صورت
- ۴۰۹ ..... قرض ادا کی نیت سے لو تا کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے
- ۴۱۱ ..... قرض ادا کرتے وقت زیادہ دینا جائز ہے
- ۴۱۲ ..... افادہ رضویہ
- ۴۱۳ ..... قرض دار کو مہلت دینے پر اجر
- ۴۱۳ ..... قرض معاف کرنے والا اجر عظیم کا مستحق

۴۱۴

افادہ رضویہ

۴۱۵

## ۱۲۔ کتاب الایمان والندور

۴۱۷

## ۱۔ قسم و کفارہ

۴۱۷

اچھی چیز کی قسم کھائے تو اس کو توڑنا ضروری ہے

۴۱۸

قسم صرف خدا کے نام کی کھاؤ

۴۱۸

ماں باپ کی قسم نہ کھاؤ

۴۱۹

نذر اطاعت صحیح و نذر معاصیت گناہ

۴۲۰

نذر سے تدبیر کا لکھا نہیں ملتا

۴۲۰

افادہ رضویہ

۴۲۰

احباب کو ایذا دینے کی قسم نہ کھاؤ

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۴۳۲

## ۱۳۔ کتاب الحدود والدیات

۴۲۵

## ۱۔ شراب

۴۲۵

شراب کی حرمت

۴۲۷

شراب اور شرابی کی مذمت

۴۲۷

افادہ رضویہ

۴۲۷

شرابی کے سوا خاتمہ کا اندیشہ

۴۲۷

شرابی کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں

۴۲۸

شرابی کا جہنم کا کھولتا پانی ملے گا

۴۲۹

شرابی دخول جنت سے محروم رہے گا

۴۲۹

شراب و جواء حرام ہے

## ۲۔ نشہ آور اشیاء

۴۳۰

- ۴۳۰ ..... ہر نشہ والی رفیق چیز حرام
- ۴۳۱ ..... طلا، تاڑی، سیندھی اور نبیذ کے احکام
- ۴۳۶ ..... افادۂ رضویہ
- ۴۳۹ ..... افادۂ رضویہ
- ۴۵۴ ..... نشہ حرام ہے
- ۴۵۴ ..... نشہ باز کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے

## ۳۔ حد شرعی

۴۵۵

- ۴۵۵ ..... حدود قائم کرنے میں احتیاط
- ۴۵۵ ..... زنا کی حد میں رعایت

## ۱۴۔ کتاب الحجۃ والجمہاد

۴۵۹

## ۱۔ ہجرت

۴۶۱

- ۴۶۱ ..... بہتر ہجرت کیا ہے؟
- ۴۶۱ ..... دارالاسلام سے ہجرت نہ کرے
- ۴۶۲ ..... ہجرت نیت کا حکم

## ۲۔ جہاد

۴۶۴

- ۴۶۴ ..... جہاد کی فضیلت
- ۴۶۴ ..... جہاد کی اہمیت
- ۴۶۴ ..... افادۂ رضویہ
- ۴۶۵ ..... غزوۂ بدر کا انجام
- ۴۶۶ ..... قومی حمیت کیلئے جنگ مذموم ہے

- ۴۶۸ ..... سفر جہاد پنج شنبہ کو بہتر ہے
- ۴۶۸ ..... جنگ میں مثلہ نہ کرو

## ۱۵۔ کتاب الخلافۃ

۴۶۹

۴۷۱

### ۱۔ خلافت

- ۴۷۱ ..... امامت و خلافت
- ۴۷۲ ..... شیخین کی خلافت حضرت مولیٰ علی کے نزدیک حق تھی
- ۴۷۴ ..... خلیفہ قریشی ہوگا
- ۴۷۶ ..... افادہ رضویہ
- ۴۷۷ ..... افادہ رضویہ
- ۴۷۸ ..... اسلام میں بارہ خلفاء ہوں گے
- ۴۸۹ ..... افادہ رضویہ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۴۸۲

### ۲۔ قضاء

- ۴۸۲ ..... حاکم افضل شخص کو بنایا جائے
- ۴۸۳ ..... اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کی اطاعت نہیں
- ۴۸۳ ..... مدعی گواہ لائے
- ۴۸۳ ..... دعویٰ کو ثابت کرنے میں حق گوئی اختیار کرو

## ۱۶۔ کتاب الروایا

۴۸۷

۴۸۹

### ۱۔ خواب

- ۴۸۹ ..... حضور لوگوں سے صبح کو خواب سماعت فرماتے
- ۴۸۹ ..... اچھے خواب کی فضیلت
- ۴۹۵ ..... برا خواب دیکھنے والا کیا کرے

# ۷۔ کتاب الاطعمۃ والاشربۃ

۴۹۷

۴۹۹

## ۱۔ مقدار طعام

۴۹۹

کھانے کی مسنون مقدار

۴۹۹

زیادہ کھانا مذموم ہے

۵۰۰

افادہ رضویہ

۵۰۱

## ۲۔ آداب طعام

۵۰۱

کھانے کے آداب

۵۰۱

افادہ رضویہ

۵۰۲

کھانے کے بعد انگلیاں اور برتن چاٹ لینا چاہئے

۵۰۴

کھانے میں غیروں سے مشابہت نہ کرو

۵۰۵

غیر مسلموں کے برتنوں کا استعمال

۵۰۷

کافر کے یہاں کھانا جائز ہے

۵۰۸

جمع ہو کر کھانے کی فضیلت

۵۰۹

افادہ رضویہ

۵۱۰

## ۳۔ دعوت

۵۱۰

عوت قبول کرو

۵۱۰

بلا دعوت جانا منع ہے

۵۱۰

افادہ رضویہ

۵۱۲

## ۴۔ کھلانے پلانے کی فضیلت

۵۱۲

کھلانا پلانا نہایت اجر کا کام ہے

۵۱۲

افادہ رضویہ



۵۱۲	پانی پلانے کی فضیلت
۵۱۳	پانی پلانے سے گناہ جھڑتے ہیں
۵۱۳	کھلانے اور پہنانے کی فضیلت
۵۱۴	کھلانا اور سلام کو رواج دینا گناہوں کا کفارہ ہے
۵۱۵	کھلانا پلانا جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے
۵۱۵	دعوت طعام کے ذریعہ گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے
۵۱۶	فرشتے کھانا کھلانے والے پر درود بھیجتے ہیں
۵۱۶	مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے
۵۱۶	دینی بھائی کو کھلانے کی فضیلت
۵۱۷	ریا کاری کیلئے کھلانا ممنوع ہے
۵۱۷	افادہ رضویہ
۵۱۸	پرہیز گارہی کی دعوت کرو
۵۱۸	کھاتے وقت وہم سے بچو

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## ۱۸۔ کتاب الاضحیہ

### ۱۔ قربانی

۵۲۱

۵۲۱	صاحب نصاب پر قربانی ضروری ہے
۵۸۱	قربانی کا جانور تندرست ہونا بہتر ہے
۵۸۱	حضور نے دو میندھوں کی قربانی کی
۵۲۲	قربانی کی دعا
۵۲۲	قربانی کس جانور کی ہو
۵۲۳	گائے کی قربانی سنت ہے
۵۲۳	گائے اور اونٹ میں سات حصے
۵۲۴	چرم قربانی کے خود مشکیزے بنائے جاسکتے ہیں

- ۵۲۵ ..... قربانی کی کھال فروخت نہ کرو
- ۵۲۶ ..... قربانی کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ
- ۵۲۶ ..... قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ صدقہ کرو

## ۱۹۔ کتاب الصيد والذبائح

- ۵۲۹ ..... ۱۔ ذبیحہ
- ۵۳۱ ..... اللہ کے نام پر ذبح کرو
- ۵۳۲ ..... غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ حرام ہے
- ۵۳۲ ..... مہمان کی خوشنودی کیلئے ذبیحہ باعث ثواب ہے
- ۵۳۳ ..... افادۂ رضویہ
- ۵۳۳ ..... مجوس کا ذبیحہ ناجائز ہے
- ۵۳۳ ..... افادۂ رضویہ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## ۲۔ حرام جانور


- ۵۳۵ ..... مردار کھانا حرام ہے
- ۵۳۵ ..... زندہ جانور کا عضو کھانا حرام ہے
- ۵۳۵ ..... پالتو گدھے حرام
- ۵۳۶ ..... کیلے والے درندے اور پنچے والے پرندے ممنوع ہیں
- ۵۳۶ ..... حریت نامی مچھلی کا حال
- ۵۳۷ ..... ماکول اللحم جانور کے سات اعضاء مکروہ ہیں

## ۲۰۔ کتاب الطب والرقي

- ۵۳۹ ..... ۱۔ مرض و دوا
- ۵۴۱ ..... ہر مرض کی دوا اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے

۵۴۱	افادہ رضویہ
۵۴۱	بیوی کے مہر سے خریدی گئی دوا میں برکت و شفاء ہے
۵۴۲	حرام چیز میں شفا نہیں
۵۴۲	کاہن کی تصدیق حرام ہے
۵۴۳	کاہن تصدیق کرنے والی کی چالیس دن کی نماز غیر مقبول

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)



# فہرست عنوانات جلد سوم

## ۲۱۔ کتاب الادب

۳

### ۱۔ لباس

۵

۵

کپڑے اتار کر تہہ کرنے کا حکم

۶

افادہ رضویہ

۶

پاجامہ کا استعمال

۶

افادہ رضویہ

۷

اون کا لباس سنت انبیاء ہے

۸

پاجامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے

۸

پاجامہ پہننے میں زیادہ ستر پوشی ہے

۸

افادہ رضویہ

۹

ریشم کا لباس ناجائز ہے

۱۱

لباس شہرت مذموم ہے

۱۱

سرخ کپڑا مرد کیلئے شیطانی لباس ہے

۱۲

افادہ رضویہ

۱۲

عورتوں کو مردوں سے اور مردوں کو عورتوں سے تشبہ حرام ہے

۱۶

عورت مرد کا جوتا نہ پہنے

۱۷

عورت کتنا نیچا لباس پہنے

۱۸

ٹخنوں کے نیچے پاجامہ وغیرہ بہ نیت تکبر ناجائز ہے

۲۰

افادہ رضویہ

۲۲

عورت کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیئے

۲۲	اورٹھنی کے استعمال کا طریقہ
۲۲	افادہ رضویہ

## ۲۳ ۲۔ خضاب

۲۳	سیاہ خضاب ناجائز ہے
۲۷	افادہ رضویہ
۲۷	افادہ رضویہ
۲۸	سرخ اور زرد خضاب جائز ہے
۲۹	افادہ رضویہ

## ۳۰ ۳۔ داڑھی مونچھ

۳۰	داڑھی حد شرعی کے مطابق رکھو
۳۱	افادہ رضویہ
۳۱	داڑھی ضرور رکھو <a href="http://www.alahazratnetwork.org">www.alahazratnetwork.org</a>
۳۶	افادہ رضویہ
۳۷	داڑھی منڈانا مثلاً کرنا ہے اور یہ ناجائز ہے
۴۱	افادہ رضویہ
۴۱	دس چیزیں فطرت سے ہیں
۴۲	افادہ رضویہ
۴۳	مونچھ ناخن اور بغل وغیرہ حلق کرنے کی مدت
۴۳	حضور کی مبارک داڑھی گھنی تھی
۴۳	جسم کے بال صاف کرنا جائز ہے
۴۴	افادہ رضویہ

## ۴۵ ۴۔ ختنہ

۴۵	نومسلم کا ختنہ کراؤ
----	---------------------



۴۵	افادہ رضویہ
۴۵	لڑکیوں کا ختنہ ضروری نہیں

## ۵۔ مصافحہ و معانقہ ۴۷

۴۸	مصافحہ کا ثبوت
۴۸	افادہ رضویہ
۴۸	ملاقات و مصافحہ
۴۹	دونوں ہاتھ سے مصافحہ کا ثبوت
۵۰	مصافحہ کی برکت
۵۰	افادہ رضویہ
۵۱	سلام و مصافحہ کا باہمی تعلق
۵۱	افادہ رضویہ
۵۱	مصافحہ کے وقت مسکراہٹ
۵۲	افادہ رضویہ
۵۲	معانقہ کا ثبوت
۶۱	افادہ رضویہ

## ۶۔ سلام ۶۴

۶۴	سلام کرنا باعث اجر ہے
۶۴	گھر میں داخل ہو تو سلام کرو
۶۵	اسلامی سلام اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت
۶۵	افادہ رضویہ
۶۵	ملاقات و سلام کے وقت نہ جھکے
۶۶	سلام کا جواب طہارت کیساتھ بہتر ہے

## ۷۔ حسن معاشرت ۶۷

۶۷	..... مساوات بین المسلمین
۶۷	..... مدارات خلق
۶۹	..... مسلمانوں کو خوش کرنا محبوب عمل ہے
۷۰	..... حسن سلوک ہلاکت سے بچاتا ہے
۷۱	..... لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو
۷۱	..... افادۂ رضویہ
۷۲	..... آپس میں میل محبت سے رہو
۷۲	..... اللہ کی رضا کیلئے محبت کرو
۷۳	..... مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ ہو
۷۴	..... بندے کی مدد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے
۷۵	..... رہنمائی کا رخیر ہے
۷۶	..... بے جا تشدد کرنے والے ہلاکت میں ہیں
۷۶	..... افادۂ رضویہ
۷۷	..... جو بات سننے میں بری لگے اس سے بچو
۷۸	..... کسی کے گھر میں نہ جھانکے
۷۸	..... فتنہ نہ اٹھاؤ
۷۸	..... عجب و خود پسندی بری چیز ہے
۷۸	..... تواضع بلندی کا سبب ہے
۷۹	..... نیک عمل پر مداومت کرو
۷۹	..... ہر چیز پر احسان کرو
۸۰	..... بغیر ضرورت عجمی زبان سے احتراز کرو
۸۰	..... افادۂ رضویہ
۸۱	..... بابرکت چیز کو لازم کر لو
۸۱	..... مسلمانوں کی کوئی چیز بغیر رضائے لو

- ۸۱ ..... لوگوں سے ان کے حال کے مطابق گفتگو کرو
- ۸۲ ..... کسی کو عبدی و امتی کہہ کر نہ پکارو
- ۸۲ ..... افادہ رضویہ
- ۸۳ ..... بے مقصد چیزوں میں نہ پڑو
- ۸۳ ..... کام دہنی طرف سے شروع کرو
- ۸۳ ..... رحم دل لوگوں کی فضیلت
- ۸۵ ..... افادہ رضویہ

## ۸۔ صحبت صالح و طالح

- ۸۶ ..... مومن متقی کی مصاحبت اختیار کرو
- ۸۶ ..... نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے
- ۸۶ ..... برے ہم نشین کی مثال
- ۸۷ ..... برے ساتھی سے بچو [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۸۷ ..... دوست کو دوست سے پہچانو
- ۸۸ ..... دوست کی صحبت موثر ہوتی ہے
- ۸۸ ..... جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ حشر ہوگا
- ۸۹ ..... بدکاروں کی صحبت بدکار بنادیتی ہے
- ۹۰ ..... اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے احباب کیلئے اچھے ہوں
- ۹۱ ..... قیامت میں آدمی اپنے محبوب کیساتھ ہوگا
- ۹۱ ..... بروں کے ساتھ بیٹھنا بھی موجب لعنت ہے

## ۹۔ عزت و تعظیم و شفقت

- ۹۳ ..... بڑوں کی تعظیم کرو
- ۹۳ ..... بوڑھے کی فضیلت
- ۹۴ ..... بوڑھے کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم سے ہے

۹۴	عالم اور عادل سلطان اور بوڑھے مسلمان کی تعظیم
۹۴	حافظ کی تعظیم خدا کی عظمت و جلال کا اقرار ہے
۹۴	خوبصورت اور وجیہہ لوگوں فضیلت
۹۸	افادہ رضویہ
۹۸	معزز اور شریف لوگوں کی رعایت کرو
۹۹	حسب مراتب عزت کرو
۱۰۰	افادہ رضویہ
۱۰۰	منافق کی تعظیم غضب رب کا سبب ہے
۱۰۱	افادہ رضویہ
۱۰۱	چھوٹوں سے پیارا اور بڑوں کی تعظیم

## ۱۰۔ لہو و لعب

۱۰۳	لہو و لعب ناجائز ہے
۱۰۳	افادہ رضویہ
۱۰۵	کھیل کود کرنا جائز نہیں
۱۰۵	تین چیزوں کے علاوہ ہر دنیوی کھیل باطل ہے
۱۰۵	افادہ رضویہ

## ۱۱۔ شعر و شاعری

۱۰۷	شعر گوئی عیب نہیں
۱۰۷	شعر حکمت ہے
۱۰۸	نعت گو شاعر کی فضیلت
۱۰۸	افادہ رضویہ
۱۱۱	اچھے اور برے شعراء
۱۱۱	آپس میں مذاکرہ شعر جائز ہے

## ۱۲۔ گانا اور مزامیر ۱۱۳

- ۱۱۳ مزامیر کا استعمال ناجائز ہے
- ۱۱۳ افادہ رضویہ
- ۱۱۴ گانا اور مزامیر باعث لعنت ہے
- ۱۱۶ ناچ گانے میں شریک ہونے والا ملعون ہے
- ۱۱۸ باجے گاجے ناجائز ہے
- ۱۱۹ افادہ رضویہ
- ۱۱۹ گانا نفاق پیدا کرتا ہے

## ۱۳۔ وعدہ عاریت و امانت ۱۲۱

- ۱۲۱ وعدہ خلافی کیا ہے؟
- ۱۲۱ معذرت سے بچو
- ۱۲۱ عاریت کی چیز واپس کرو [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۱۲۲ امانت ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں
- ۱۲۲ بغیر اجازت کسی کا خط پڑھنا جائز نہیں
- ۱۲۳ افادہ رضویہ

## ۱۴۔ حقوق عباد ۱۲۴

- ۱۲۴ مسلمانوں کے مسلمان پر چھ حق ہیں
- ۱۲۴ افادہ رضویہ
- ۱۲۵ پڑوسی کا حق
- ۱۲۵ افادہ رضویہ
- ۱۲۶ حقوق العباد قیامت میں دئے جائیں گے
- ۱۲۶ قیامت میں ہر حق دلایا جائے گا
- ۱۲۷ افادہ رضویہ



- ۱۲۷ ..... مفلس وہ ہے جو قیامت میں مفلس ہو
- ۱۲۸ ..... قیامت میں ماں باپ بھی سختی سے پیش آئیں گے
- ۱۲۸ ..... افادۂ رضویہ
- ۱۲۸ ..... حقوق العباد خداوند قدوس اپنے فضل سے معاف فرمائے گا
- ۱۳۴ ..... افادۂ رضویہ

### ۱۵۔ ہدیہ وصلہ رحمی ۱۴۰

- ۱۴۰ ..... ہدیہ محبت کا سبب ہے
- ۱۴۱ ..... ہدیہ اور نذرانہ لینا جائز ہے
- ۱۴۱ ..... صدقہ اور ہدیہ کا فرق
- ۱۴۲ ..... خوشبو تحفہ میں ملے تو واپس نہ کرو
- ۱۴۲ ..... صلہ رحمی سے رزق کشادہ ہوتا ہے
- ۱۴۴ ..... صلہ رحمی کرنے والے محتاج نہیں ہوتے
- ۱۴۴ ..... صلہ رحمی عمر بڑھاتا ہے

### ۱۶۔ صدق و کذب ۱۴۵

- ۱۴۵ ..... سچ اور جھوٹ کی علامت
- ۱۴۵ ..... پہلو دار بات کہنا جائز ہے
- ۱۴۵ ..... جھوٹ بولنے والے پر وبال عظیم
- ۱۴۶ ..... بکو اس کی مذمت

### ۱۷۔ حیا و فحش گوئی ۱۴۷

- ۱۴۷ ..... حیا زینت ہے
- ۱۴۷ ..... حیا بہتر ہے
- ۱۴۷ ..... بے حیائی کی مذمت
- ۱۴۸ ..... فحش گوئی کی مذمت

۱۴۸

فحش گوئی اور حیا

## ۱۸۔ بدگمانی اور تہمت

۱۵۰

۱۵۰

بدگمانی سے بچو

۱۵۰

تہمت کی جگہ سے بچو

۱۵۱

حسد بدگمانی اور بدفالی بری خصلتیں ہیں

۱۵۲

## ۱۹۔ غیبت و دھوکہ

۱۵۲

غیبت زنا سے بدتر ہے

۱۵۲

غیب کی بدبو

۱۵۳

فاسق کی برائی غیبت نہیں

۱۵۳

افادہ رضویہ

۱۵۳

فاسق کی تعظیم موجب غضب ہے

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۱۵۴

افادہ رضویہ

۱۵۴

جس نے دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت سے خارج

۱۵۶

## ۲۰۔ ظالم و مظلوم

۱۵۶

ظلم و تعدی نہ کرو

۱۵۶

ظلم قیامت میں اندھیروں کا سبب ہوگا

۱۵۶

ظلم کسی کی زمین دبانے کا وبال

۱۵۸

ظالم کی اعانت منجانب اللہ نہیں ہوتی

۱۵۹

ناحق ایذا دینے والا مبغوض خدا ہے

۱۵۹

مظلوم کی داد رسی پراجر

۱۶۰

مظلوم کی داد رسی اور فاروق اعظم کا عدل

۱۶۱

مجبور و بے کس شخص اللہ تعالیٰ کی حمایت میں ہے

## ۲۱۔ اچھے اور برے نام ۱۶۲

- ۱۶۲ ..... اچھے ناموں کی برکت
- ۱۶۴ ..... نام اچھے رکھنا چاہئے
- ۱۶۴ ..... محمد اور احمد ناموں کی فضیلت
- ۱۶۵ ..... افادۂ رضویہ
- ۱۶۸ ..... سب سے بہتر نام
- ۱۶۸ ..... حارث و ہام ناموں کی فضیلت
- ۱۸۹ ..... حضرت فاطمہ کے نام کی فضیلت
- ۱۶۹ ..... بندوں کیلئے برے نام
- ۱۷۰ ..... عزیز و حکیم نام نہ رکھو
- ۱۷۰ ..... حرب و ولید نام منع ہے
- ۱۷۰ ..... نام بگاڑنے کی ممانعت [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۱۷۲ ..... سجدۂ تعظیسی
- ۱۷۲ ..... مخلوق کو سجدہ کرنا حرام ہے
- ۱۷۲ ..... سجدۂ تعظیسی حرام
- ۱۷۳ ..... اپنے لئے قیام کی خواہش رکھنے والا جہنمی ہے

## ۲۲۔ عورتوں کے احکام ۱۷۴

- ۱۷۴ ..... زیورات اور سنگار عورتوں کیلئے ہے
- ۱۷۴ ..... عورتیں مہندی لگائیں
- ۱۷۵ ..... عورت اور پردہ
- ۱۷۶ ..... افادۂ رضویہ
- ۱۷۷ ..... نابینا سے بھی پردہ ضروری ہے
- ۱۷۸ ..... دیور سے بھی پردہ ضروری ہے

- ۱۷۸ عورت بغیر محرم سفر نہ کرے
- ۱۷۹ افادہ رضویہ
- ۱۷۹ لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھاؤ اور بالا خانہ پر نہ رکھو
- ۱۸۰ افادہ رضویہ
- ۱۸۲ ہجڑوں کو گھر میں نہ آنے دو
- ۱۸۲ اجنبیہ سے خلوت حرام ہے

### ۱۸۳ ۲۳۔ تشبہ کفار

- ۱۸۳ تشبہ کفار سے بچو

### ۱۸۵ ۲۴۔ شکر

- ۱۸۵ شکر عباد شکر خدا
- ۱۸۵ بھلائی کرنے والے کی تعریف کرنا شکر ہے
- ۱۸۶ قلیل عطا پر بھی شکریہ ادا کرو
- ۱۸۶ قلیل احسان کو بھی حقیر نہ سمجھو
- ۱۸۷ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں کرو
- ۱۸۷ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت کرو
- ۱۸۸ نعمت کا چرچا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے

### ۱۸۹ ۲۵۔ حقوق والدین

- ۱۸۹ والدین کی رضا رب کی رضا ہے
- ۱۹۱ والدین کی فرمانبرداری ضروری ہے
- ۱۹۲ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد نہ کرو
- ۱۹۲ ماں باپ کو ستانے والا جنت سے محروم ہے
- ۱۹۳ ماں باپ کو ایذا دینے والے کے فرض و نفل غیر مقبول
- ۱۹۳ والدین کا نافرمان ملعون ہے

- ۱۹۳ ..... ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے
- ۱۹۴ ..... ماں باپ کا حق اولاد پر
- ۱۹۴ ..... افادہ رضویہ
- ۱۹۷ ..... ماں باپ کے قدموں میں جنت
- ۱۹۸ ..... ماں کا حق باپ سے زائد ہے
- ۲۰۰ ..... ماں کی نافرمانی حرام ہے
- ۲۰۰ ..... بیٹے کی کمائی میں والد کا حصہ
- ۲۰۱ ..... والد کے دوست سے حسن سلوک
- ۲۰۳ ..... ماں باپ کو ستانے والے کی سزا
- ۲۰۳ ..... چچا بجائے باپ ہوتا ہے
- ۲۰۳ ..... جمعہ کے دن اولاد کے اعمال ماں باپ پر پیش ہوتے ہیں
- ۲۰۴ ..... افادہ رضویہ
- ۲۰۴ ..... [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۲۰۴ ..... ماں کا عظیم حق
- ۲۰۵ ..... حقوق والدین سے ہے ان کیلئے استغفار کرنا
- ۲۰۶ ..... ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرو
- ۲۰۷ ..... افادہ رضویہ
- ۲۰۷ ..... ماں باپ کی طرف سے حج کرو
- ۲۰۹ ..... ماں باپ کا قرض ادا کرو
- ۲۰۹ ..... روز جمعہ والدین کی قبروں کی زیارت کرو
- ۲۱۰ ..... افادہ رضویہ
- ۲۱۱ ..... باپ کے احباب سے حسن سلوک
- ۲۱۴ ..... مشرک ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ



## ۲۲۔ کتاب الحیوانات

۲۱۵

### ۱۔ جانوروں سے سلوک

۲۱۷

- ۲۱۷ ..... جانوروں کے کھلانے پر اجر
- ۲۱۷ ..... جانوروں کے دانہ پانی کا خیال کھو
- ۲۱۸ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۱۸ ..... جانور بازی ناجائز ہے
- ۲۱۸ ..... جانور غیر مکلف
- ۲۱۹ ..... جانور کو مشلہ نہ کرو

### ۲۔ جانور پالنا

۲۲۰

- ۲۲۰ ..... کتا پالنا گناہ ہے
- ۲۲۰ ..... [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org) کالاکتا شیطان ہے
- ۲۲۱ ..... بلی گھر میں آنے جانے والا جانور ہے
- ۲۲۲ ..... بلی ناپاک نہیں
- ۲۲۲ ..... بلی درندہ ہے
- ۲۲۲ ..... مرغ پالنا اچھا ہے

### ۳۔ موذی جانور

۲۲۳

- ۲۲۳ ..... سانپ کو مار ڈالو
- ۲۲۳ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۲۴ ..... سانپ مارنا باعث اجر ہے
- ۲۲۵ ..... پانچ جانوروں کو حرم میں اور حالت احرام میں قتل کرنا جائز ہے
- ۲۲۶ ..... چھوٹے اور زہریلے سانپ ضرور مارو
- ۲۲۷ ..... سانپ اور بچھو مارنا نماز میں بھی جائز ہے

۲۲۷	.....سانپ مارنے پر سات نیکیاں اور چھکلی پر ایک
۲۲۸	.....چھ جانور احرام اور حالت نماز میں بھی مارنا جائز ہیں
۲۲۸	.....چھکلی مارنا ثواب ہے
۲۲۹	.....سفید سانپ نہ مارو
۲۲۹	.....جن بھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں
۲۳۲	.....افادہ رضویہ

## ۲۳۔ کتاب التوبہ

۲۳۵

### ۱۔ فضائل توبہ

۲۳۷

۲۳۷	.....توبہ کا طریقہ
۲۳۷	.....افادہ رضویہ
۲۳۷	.....توبہ گناہ مٹا دیتی ہے <a href="http://www.alahazratnetwork.org">www.alahazratnetwork.org</a>
۲۳۸	.....گنہگار کی بھلائی توبہ میں ہے
۲۳۸	.....مومن کو توبہ کے بعد طعنہ نہ دے
۲۳۹	.....گناہ کے بعد سچی توبہ سے دل صیقل ہو جاتا ہے

۲۴۰

### ۲۔ توبہ کیا ہے؟

۲۴۰	.....جس نے توبہ کی اس نے گناہ پر اصرار نہ کیا
۲۴۰	.....ندامت توبہ ہے
۲۴۰	.....معصیت میں مبتلا رہ کر توبہ اللہ سے استہزاء ہے
۲۴۱	.....گناہ کے فوراً بعد توبہ کرنا مومن کی شان ہے
۲۴۱	.....افادہ رضویہ

## ۳۔ توبہ کی نوعیت

- ۲۲۲ ..... جیسا گناہ ویسی ہی توبہ
- ۲۲۲ ..... افادہ رضویہ

## ۲۴۔ کتاب الزہد

- ۲۵۱ ..... ۱۔ زہد
- ۲۵۱ ..... زہد تو توکل
- ۲۵۲ ..... فقر کی ترغیب
- ۲۵۳ ..... افادہ رضویہ
- ۳۵۴ ..... دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم
- ۲۵۷ ..... مذمت دنیا
- ۲۵۸ ..... دنیا کی ہوس نہیں بھرتی
- ۲۵۹ ..... اللہ تعالیٰ اپنے بندے کیلئے کافی ہے
- ۲۵۹ ..... دنیا و آخرت دونوں پیش نظر رکھے
- ۲۶۰ ..... افادہ رضویہ
- ۲۶۰ ..... آزمائش کے وقت اعانت ہوتی ہے
- ۲۶۰ ..... مفلس وہ ہے جو قیامت میں مفلس ہو

## ۲۔ تقویٰ

- ۲۶۱ ..... تقویٰ و تواضع کی فضیلت
- ۲۶۱ ..... خوف خدا کا صلہ مغفرت
- ۲۶۲ ..... صفائی قلب اصلاح اعمال کی اصل ہے
- ۲۶۲ ..... قلب کی وجہ تسمیہ

- ۲۶۳ ..... دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں ہے
- ۲۶۳ ..... مومن متقی کی فضیلت

## ۲۵۔ کتاب الدعوات

۲۶۵

### ۱۔ فضائل دعا

۲۶۷

- ۲۶۷ ..... دعا کرنے والے پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے
- ۲۶۷ ..... کثرت دعا کی ترغیب
- ۲۶۷ ..... افادہ رضویہ
- ۲۶۸ ..... کثرت دعا کی ترغیب
- ۲۹۰ ..... جمعہ کی ایک ساعت میں دعا قبول ہوتی ہے
- ۲۹۰ ..... مقبولیت دعا کی ساعت کونسی ہے؟
- ۲۹۲ ..... افادہ رضویہ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۲۹۴ ..... عرفہ کے دن دعا بہتر ہے
- ۲۹۴ ..... نصف رات میں دعا مقبول ہوتی ہے
- ۲۹۶ ..... ختم قرآن اور فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے
- ۲۹۶ ..... افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے
- ۲۹۷ ..... آخری رات میں دعا کی فضیلت
- ۲۹۸ ..... اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے
- ۲۹۸ ..... راتوں کو جاگ کر دعا کرنا
- ۲۹۸ ..... پانچ راتوں میں دعا مقبول ہے
- ۲۹۹ ..... تین اوقات میں دعا کے قبولیت
- ۲۹۹ ..... دو وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے
- ۳۰۰ ..... غائبانہ دعا جلد قبول ہوتی ہے

- ۳۰۰ ..... آسمان کے دروازے کھلنے پر دعا قبول ہوتی ہے
- ۳۰۰ ..... رقت قلب کے وقت دعا مقبول ہے
- ۳۰۱ ..... دن ڈھلے اور ہوا چلے تو دعا قبول ہے
- ۳۰۱ ..... مرغ کی آواز پر اللہ کا فضل مانگو
- ۳۰۱ ..... مزدلفہ میں حضور کی ایک اہم دعا قبول ہوئی

## ۴۔ کن لوگوں کی دعا کب اور کہاں قبول ہوتی ہے ۳۰۳

- ۳۰۳ ..... چار اشخاص کی دعا مقبول ہے
- ۳۰۴ ..... حاجیوں کی دعا مقبول ہے
- ۳۰۵ ..... احسان مند کی دعا محسن کے حق میں مقبول ہے
- ۳۰۵ ..... مسلمانوں کی اجتماعی دعا مقبول ہے
- ۳۰۶ ..... جلدی نہ کرنے والی کی دعا قبول ہوتی ہے
- ۳۰۶ ..... افادۂ رضویہ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۳۰۸ ..... راحت میں دعا کرنا مصائب میں دعا کی قبولیت کی نشانی ہے
- ۳۰۸ ..... تین اشخاص کی دعا مقبول نہیں
- ۳۰۹ ..... افادۂ رضویہ
- ۳۱۰ ..... تین مقامات پر دعا مقبول ہے
- ۳۱۰ ..... مزارات پر جا کر دعا کرنے کا ثبوت
- ۳۱۱ ..... اپنے لئے دوسروں سے دعا کراؤ
- ۳۱۱ ..... بزرگوں سے دعائے مغفرت کراؤ

## ۵۔ مسنون دعائیں ۳۱۲

- ۳۱۲ ..... نماز کے بعد کی دعا



۳۱۲	.....	مسنون دعا
۳۱۵	.....	افادہ رضویہ
۳۱۸	.....	فائدہ
۳۱۹	.....	اللہ تعالیٰ کی محبوب دعا
۳۱۹	.....	عافیت کی دعا

## ۲۶۔ کتاب الذکر

۳۲۱

### ۱۔ فضائل ذکر

۳۲۳

۳۲۳	.....	فضیلت ذکر
۳۲۷	.....	افضل الذکر کیا ہے؟
۳۲۷	.....	ذکر اللہ پر اجر و ثواب
۳۲۸	.....	ذکر اللہ ذاکرین کی مغفرت کا سبب ہے
۳۲۸	.....	ذکر اللہ عذاب سے نجات کا سبب
۳۳۰	.....	ذکر خدا سے اللہ کی اعانت ساتھ رہتی ہے
۳۳۰	.....	سبحان اللہ کی فضیلت
۳۳۱	.....	تسبیح، تکبیر، اور تہلیل وغیرہ کی فضیلت
۳۳۱	.....	فضائل کلمہ طیبہ
۳۳۲	.....	مجلس سے اٹھو تو سبحان اللہ وغیرہ پڑھو
۳۳۴	.....	افادہ رضویہ
۳۳۶	.....	ذکر آہستہ بہتر ہے

### ۲۔ فضیلت مجالس ذکر

۳۳۷

۳۳۷	.....	مجالس ذکر جنت کی کیا ریاں ہیں
-----	-------	-------------------------------

- ۳۳۹ ..... ذکرین کو ملائکہ رحمت گھیرے رہتے ہیں
- ۳۴۰ ..... افادہ رضویہ

### ۳- ذکر کی تاکید

- ۳۴۱ ..... ذکر اللہ کی کثرت کرو
- ۳۴۲ ..... ہر شجر و ہجر کے پاس ذکر الہی کرو
- ۳۴۳ ..... افادہ رضویہ

## ۲- کتاب الفرائض

۳۴۵

### ۱- علم فرائض کی اہمیت

- ۳۴۷ ..... علم فرائض نصف علم دین ہے
- ۳۴۷ ..... میراث سے محروم نہ کرو [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۳۴۸ ..... افادہ رضویہ

### ۲- میراث کی تفصیل

- ۳۵۱ ..... عصبہ کو مال پہلے دیا جائے
- ۳۵۱ ..... قریبی رشتہ دار کا حق میراث میں
- ۳۵۱ ..... اہل قرابت کو میراث دو
- ۳۵۲ ..... افادہ رضویہ
- ۳۵۲ ..... ایک قبیلہ کا وارث دوسرے کو قرار دیا جاسکتا ہے
- ۳۵۳ ..... افادہ رضویہ
- ۳۵۴ ..... کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا

## ۲۸۔ کتاب الساعة

۳۵۷

### ۱۔ علامات قیامت

۳۵۹

۳۵۹ ..... جاہلوں کی کثرت قیامت کی نشانی

۳۵۹ ..... نااہلوں کو حاکم بنانا قیامت کی نشانی

۳۶۰ ..... آخری زمانوں میں معاملہ برعکس ہوگا

۳۶۰ ..... آخری زمانہ میں فریبی جھوٹے پیدا ہوں گے

۳۶۰ ..... افادۂ رضویہ

۳۶۱ ..... حضرت امام مہدی کے بارے میں بشارت

۳۶۲

### ۲۔ دجال

۳۶۲ ..... دجال کا خروج

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۳۶۳ ..... واقعہ ابن صیاد

۳۶۵ ..... افادۂ رضویہ

۳۶۶ ..... تیس دجال مدعیان نبوت ہوں گے

۳۶۷ ..... ستائیس دجال ہوں گے

۳۶۸

### ۳۔ میدان قیامت

۳۶۸ ..... حساب و کتاب

۳۶۹ ..... پل صراط جہنم کا پیٹھ پر نصب ہوگا

۳۷۳

### ۴۔ شفاعت

۳۷۳ ..... شفاعت کا ثبوت

۳۷۵ ..... شفاعت کبیرہ گناہوں کیلئے ہے

۳۷۶ ..... حضور سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے

- ۳۷۶ ..... شفاعت کبریٰ کی تفصیل
- ۳۸۳ ..... حضور کی شفاعت بے شمار لوگوں کیلئے ہے
- ۳۸۳ ..... حضور کی شفاعت مومن کیلئے ہے
- ۳۸۳ ..... کافر و مشرک کے علاوہ شفاعت سب کو عام ہے
- ۳۸۴ ..... حضور کو اپنی امتیوں کی شفاعت کا خاص خیال ہوگا
- ۳۸۴ ..... اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو امت کے حق میں راضی فرمائے گا
- ۳۸۵ ..... مقام محمود منصب شفاعت ہے
- ۳۸۶ ..... افادہ رضویہ
- ۳۹۰ ..... شفاعت برحق ہے منکر محروم رہے گا
- ۳۹۳ ..... عام جنتی بھی شفاعت کریں گے
- ۳۹۵ ..... نیک لوگ اپنے خاندان کے شفیع ہوں گے

### ۳۹۶ ..... ۵۔ حوض کوثر

www.ainazratnetwork.org

- ۳۹۶ ..... حوض کوثر کی خصوصیت
- ۳۹۷ ..... حوض کوثر میں دو پرنا لے جنت سے گرتے ہیں

### ۳۹۸ ..... ۶۔ رویت باری تعالیٰ

- ۳۹۸ ..... رویت باری تعالیٰ حق ہے
- ۳۹۸ ..... جنت اور دیدار الہی
- ۳۹۹ ..... اہل جنت کیلئے تجلی ربانی کا نزول
- ۳۹۹ ..... اللہ تعالیٰ کی تجلی آسمانوں میں ہے
- ۴۰۲ ..... اللہ عز و جل کی تجلی خاص انسان کو نیک بخت بناتی ہے

### ۴۰۳ ..... ۷۔ جنت

- ۴۰۳ ..... جنت اور دوزخ کا مکالمہ

۴۰۴	جنت نہایت گراں قیمت چیز ہے
۴۰۴	زمانہ فترت کے مطیع لوگ جنتی ہیں
۴۰۴	اہل جنت کی مقبولیت
۴۰۵	مومنوں سے جنت قریب ہوگی
۴۰۷	جنتیوں میں خاندان کی رعایت ہوگی
۴۰۷	افادہ رضویہ
۴۰۸	بعض جنتیوں کے گناہ نیکوں سے بدل جائیں گے
۴۰۹	۸۔ جہنم

۴۰۹	جہنم کی آگ نہایت سیاہ ہے
۴۱۰	ادنیٰ عذاب پانے والا دوزخی
۴۱۱	نفس امارہ اور جنت و دوزخ
۴۱۳	ابوطالب کا حال
۴۱۷	افادہ رضویہ

## ۲۹۔ کتاب الفضائل

۴۳۲

### ۱۔ فضائل قرآن

۴۲۵	تلاوت قرآن کی فضیلت
۴۲۶	افادہ رضویہ
۴۲۶	عظمت قرآن
۴۲۷	افادہ رضویہ
۴۲۷	فضیلت سورہ بقرہ و آل عمران
۴۲۸	فضیلت سورہ رحمن
۴۲۸	فضیلت سورہ اخلاص



- ۴۲۹ ..... تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے
- ۴۳۰ ..... تلاوت قرآن اچھی آواز سے کرو
- ۴۳۱ ..... جو اچھی آواز سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں
- ۴۳۱ ..... قرآن کی تلاوت میں سوز و گداز پیدا کرو
- ۴۳۳ ..... تلاوت قرآن کی کثرت کرو
- ۴۳۳ ..... قرآن بندوں کیلئے ہدایت ہے
- ۴۳۴ ..... آداب قرآن وحدیث
- ۴۳۴ ..... افادہ رضویہ
- ۴۳۴ ..... فضیلت حافظ قرآن
- ۴۳۵ ..... تعلیم قرآن کی فضیلت
- ۴۳۶ ..... تعلیم و تعلم قرآن کا مقصد عمل ہے
- ۴۳۶ ..... معنی قرآن میں غور کرو
- ۴۳۷ ..... [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۴۳۷ ..... حامل قرآن اور حافظ کی فضیلت
- ۴۳۷ ..... جسے کچھ قرآن یاد نہ ہو ویران گھر کی طرح ہے
- ۴۳۸ ..... قرآن پڑھ کر بھول جانا گناہ ہے
- ۴۳۸ ..... قرآن بھول جانے پر وعید
- ۴۳۸ ..... قرآن کی حفاظت کرو
- ۴۳۹ ..... قرآن بندوں کیلئے فلاح کا سبب ہے
- ۴۳۹ ..... قرآن سات طریقوں پر نازل ہوا
- ۴۴۰ ..... ہر آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے
- ۴۴۰ ..... بسملہ قرآنی سورتوں کیلئے حد فاصل ہے
- ۴۴۱ ..... قرآن پاک میں ظاہری حکم نہ ملے تو اہل علم متقی عابد سے مشورہ کرو
- ۴۴۲ ..... ختم قرآن کریم پہ اظہار خوشی

## ۲۔ فضائل قبائل

۴۴۳

- ۴۴۳ ..... فضیلت قریش
- ۴۴۳ ..... قریش کو دیگر اقوام پر فوقیت ہے
- ۴۴۷ ..... افادہ رضویہ
- ۴۵۱ ..... قریش، انصار اور ثقیف کی فضیلت
- ۴۵۱ ..... قریش کی اطاعت صرف جائز چیزوں میں ہوگی
- ۴۵۲ ..... قریشی عورتوں کی فضیلت
- ۴۵۲ ..... فضیلت بنی ہاشم
- ۴۵۷ ..... قبیلہ مضر کی فضیلت
- ۴۵۷ ..... اہل عرب کی فضیلت
- ۴۵۸ ..... اہل عرب کو علی الاطلاق گالی دینا مشرکین کا طریقہ ہے

## ۳۔ فضائل مقامات

۴۵۹

- ۴۶۹ ..... فضیلت حجاز
- ۴۶۹ ..... شیطان جزیرہ عرب میں شرک سے مایوس ہو گیا
- ۴۶۱ ..... عرب کی فضیلت
- ۴۶۱ ..... فضیلت عسقلان و غزہ

## ۴۔ فضائل ایام

۴۶۳

- ۴۶۳ ..... بدھ کی فضیلت
- ۴۶۳ ..... شب برأت کی فضیلت

# فہرست عنوانات جلد چہارم

## کتاب المناقب

۵

۱۔ حضور افضل الخلق والانبياء ہیں ۵

۵

حضور اولاد آدم کے سردار اور صاحب شفاعت ہیں

۱۳

حضور تمام جہان کے سردار ہیں

۱۳

حضور حبیب اللہ ہیں

۱۵

حضور تمام مخلوق سے بہتر ہیں

۱۵

قیامت میں تمام مخلوق پر حضور کی سیادت کا اظہار

۱۶

حضور افضل الانبياء ہیں

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۱۷

افادہ رضویہ

۱۹

افادہ رضویہ

۲۳

افادہ رضویہ

۳۲

افادہ رضویہ

۳۴

حضور کے لئے انبیائے کرام سے عہد و میثاق

۳۵

افادہ رضویہ

۳۶

حضور افضل خلق ہیں

۳۶

حضور کو جنت میں مقام وسیلہ عطا ہوگا

۳۷

افادہ رضویہ

۳۹

## ۲۔ معجزات

۳۹

انگشتان مبارک سے چشمہ جاری ہوا

۴۰

درخت اور ابر کا سایہ کرنا

۴۶	چاند کا شق ہونا
۴۶	سایہ حضور نہیں تھا
۴۶	خواب میں حضور کا دیدار واقعی ہوتا ہے
۷۳	افادہ رضویہ
۷۳	سفر معراج کی تفصیل
۹۰	معراج میں دیدار خداوند قدوس
۹۰	افادہ رضویہ
۹۳	افادہ رضویہ
۹۴	افادہ رضویہ
۹۴	افادہ رضویہ
۹۴	افادہ رضویہ
۹۶	معراج کی شب جنت کی سیر
۱۰۷	شب معراج تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت فرمانا
۱۱۴	حضور نے شب معراج ملائکہ کی امامت فرمائی

### ۳۔ تصرفات و اختیارات رسول ۱۱۵

۱۱۵	اللہ و رسول کا فضل بڑا ہے
۱۱۸	اختیار مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء
۱۲۰	افادہ رضویہ
۱۲۱	حضور نعمت دیتے ہیں
۱۲۲	افادہ رضویہ
۱۲۳	حضور رزق عطا فرماتے ہیں
۱۲۳	حضور نجات دہندہ ہیں
۱۲۵	غیر خدا سے استمداد اور اختیارات حضور
۱۲۵	افادہ رضویہ

- ۱۲۷ ..... حضور حافظ و نگہبان ہیں
- ۱۳۲ ..... حضور کو تمام خزان ارض کی کنجیاں عطا ہوئیں
- ۱۳۴ ..... افادہ رضویہ
- ۱۳۵ ..... ساری دنیا وزمین و آسمان کی کنجیاں حضور کی مٹھی میں
- ۱۳۶ ..... افادہ رضویہ
- ۱۳۶ ..... حضور دنیا و آخرت میں کارساز ہیں
- ۱۳۹ ..... حضور مالک ارض ہیں
- ۱۴۰ ..... افادہ رضویہ
- ۱۴۰ ..... حضور تمام انسانوں کے مالک ہیں
- ۱۴۱ ..... افادہ رضویہ
- ۱۴۲ ..... حضور پناہ گاہ عالم ہیں
- ۱۴۳ ..... افادہ رضویہ
- ۱۴۴ ..... افادہ رضویہ
- ۱۴۵ ..... دشمنوں کے مقابلہ میں خدا و رسول کافی ہیں
- ۱۴۷ ..... افادہ رضویہ
- ۱۴۷ ..... اہل خانہ کے لئے خدا و رسول بس ہیں
- ۱۴۸ ..... حضور نے خود تعلیم دی کہ ہم سے مدد مانگو
- ۱۵۱ ..... افادہ رضویہ
- ۱۵۲ ..... ہر شی رسول کے زیر فرمان ہے
- ۱۵۲ ..... افادہ رضویہ
- ۱۵۳ ..... افادہ رضویہ
- ۱۵۵ ..... اللہ تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے
- ۱۵۸ ..... افادہ رضویہ
- ۱۵۹ ..... حضور نے اپنی بارگاہ میں ندا اور استعانت کی تعلیم فرمائی



- ۱۶۰ ..... افادہ رضویہ
- ۱۶۳ ..... افادہ رضویہ
- ۱۶۳ ..... صحابہ کرام کا عقیدہ کہ حضور ہماری جان و مال کے مالک ہیں
- ۱۶۴ ..... حضور سے خلق کی امیدیں وابستہ ہیں
- ۱۶۶ ..... ایک صحابی نے حضور سے بارش طلب کی
- ۱۶۷ ..... افادہ رضویہ
- ۱۶۸ ..... جنت و دوزخ کی کنجیاں حضور کے دست اقدس میں ہیں
- ۱۶۹ ..... افادہ رضویہ
- ۱۷۰ ..... حضور اپنی امت سے نار جہنم دفع فرمائیں گے
- ۱۷۰ ..... افادہ رضویہ
- ۱۷۲ ..... حضور کی دعا سے اندھیری قبریں روشن ہو جاتی ہیں
- ۱۷۳ ..... حضور کو انصار نے عزیز کہا
- ۱۷۳ ..... حضور کی دعا سے قحط جاتا رہا
- ۱۷۵ ..... افادہ رضویہ
- ۱۷۶ ..... حضور مدد فرماتے ہیں
- ۱۷۶ ..... حضور مومنین کے والی و مالک ہیں
- ۱۷۷ ..... حضور الطاف ربانی و دفع بلیات کا وسیلہ ہیں
- ۱۷۸ ..... افادہ رضویہ
- ۱۷۹ ..... حضور بشیر و نذیر اور داد و دفع بلیات ہیں
- ۱۷۹ ..... اللہ اور اسکے رسول پر بھروسہ کرنا صحابہ کا عقیدہ تھا
- ۱۸۰ ..... بارگاہ رسالت میں مغفرت ذنوب کی التجا کرنا
- ۱۸۵ ..... اللہ و رسول کی طرف توبہ کرنا
- ۱۸۶ ..... افادہ رضویہ
- ۱۸۷ ..... اللہ و رسول کے لئے صدقہ کرنا

۱۹۹	افادہ رضویہ
۲۰۳	افادہ رضویہ
۲۰۳	حضرت عمر کا فرمان کہ عزت حضور کی عطا کردہ ہے
۲۰۵	افادہ رضویہ
۲۰۵	حضور کی بخشش و عطا کی امتیازی شان
۲۰۶	افادہ رضویہ
۲۰۸	حضور نے پیانہ رزق میں برکت عطا فرمادی
۲۰۹	مدینہ طیبہ کو حضور نے حرم کر دیا
۲۱۴	افادہ رضویہ
۲۱۷	افادہ رضویہ
۲۲۵	احکام شریعت حضور کے سپرد ہیں
۲۲۷	افادہ رضویہ
۲۳۳	افادہ رضویہ
۲۳۴	ششماہی بکری کی قربانی جائز فرمادی
۲۳۵	افادہ رضویہ
۲۳۶	افادہ رضویہ
۲۳۷	چند بیویوں کے لئے نوحہ کرنا جائز فرمادیا
۲۳۹	افادہ رضویہ
۲۳۹	حضرت اسماء کی عدت و فوات اور سوگ فقط تین دن متعین فرمایا
۲۴۰	افادہ رضویہ
۲۴۰	تعلیم قرآن کو بیوی کا مہر قرار دیدیا
۲۴۰	حضرت خزیمہ کی گواہی دو مردوں کے برابر فرمادی
۲۴۲	افادہ رضویہ
۲۴۲	روزہ کا کفارہ ایک صحابی کیلئے خود کھالینا حلال فرمادیا

- ۲۴۴ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۴۵ ..... حضرت سالم کے لئے جوانی میں بھی حرمت رضاعت ثابت فرمادی
- ۲۴۶ ..... دو صحابیوں کے لئے ریشم کا لباس جائز کر دیا
- ۲۴۷ ..... حضرت علی کے لئے حالت جنابت میں بھی مسجد میں داخلہ جائز
- ۲۴۸ ..... حضرت براء کے لئے سونے کی انگوٹھی جائز فرمائی
- ۲۴۹ ..... حضرت سراقہ کو سونے کے کنگن جائز کر دیئے
- ۲۵۰ ..... حضرت علی کے نام و کنیت جمع کرنے کی رخصت
- ۲۵۱ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۵۲ ..... حضرت معاذ کو قاضی ہوتے ہوئے بھی ہدیہ حلال فرمادیا
- ۲۵۵ ..... غبن کو باعث خیار قرار دیدیا
- ۲۵۶ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۵۶ ..... بعد عصر نماز نفل ممنوع لیکن ام المومنین کے لئے رخصت
- ۲۵۹ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۶۰ ..... حضرت ضیاعہ کے لئے نیت حج کے لئے شرط کی اجازت عطا فرمادی
- ۲۶۲ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۶۲ ..... ایک صاحب کو دو وقت کی نماز پڑھنے کی شرط پر مسلمان کر لیا
- ۲۶۳ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۶۳ ..... موزوں پر مسح کی مدت اور اختیار رسول
- ۲۶۳ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۶۵ ..... مسواک اور اختیار رسول
- ۲۶۶ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۶۹ ..... گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ حضور نے معاف فرمادی
- ۲۶۹ ..... افادۂ رضویہ
- ۲۶۹ ..... اللہ و رسول نے زنا کو حرام فرمایا

- ۲۷۰ عورت اور یتیم کی حق تلفی حضور نے حرام فرمادی
- ۲۷۰ اللہ و رسول نے شراب اغرہ کی بیع حرام فرمائی
- ۲۷۱ افادہ رضویہ
- ۲۷۲ حضور کی حرام کردہ چیز اللہ کی حرام کردہ چیز کی مثل ہے
- ۲۷۲ افادہ رضویہ
- ۲۷۳ حضور شارع و بانی اسلام ہیں
- ۲۷۳ افادہ رضویہ
- ۲۷۴ حضور نے بہت چیزوں سے منع فرمایا اور بہت کا حکم دیا
- ۳۱۰ افادہ رضویہ
- ۳۱۲ خدا اور رسول کو ایک ضمیر تشبیہ میں جمع کرنے کا حکم
- ۳۱۳ افادہ رضویہ
- ۳۱۴ اللہ و رسول چاہیں تو یہ کام ہو جائے، اس قول کی تحقیق
- ۳۱۷ افادہ رضویہ
- ۳۲۵ حضور نے ابوطالب کی سزا ہلکی فرمادی
- ۳۲۶ افادہ رضویہ
- ۳۲۸ حضور اپنے رضائی باپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے
- ۳۲۸ افادہ رضویہ
- ۳۲۹ اللہ و رسول بچوں کے محافظ و نگہبان ہیں

## ۴۔ حضور تمام کائنات کے نبی ہیں ۳۳۱

- ۳۳۱ حضور تمام مخلوق کے نبی ہیں
- ۳۳۲ افادہ رضویہ
- ۳۳۲ تمام مخلوق حضور کو اپنا نبی جانتی اور مانتی ہے
- ۳۳۲ افادہ رضویہ
- ۳۳۷ حضور جن و انس کے رسول ہیں

- ۳۳۸ ..... افادہ رضویہ
- ۳۳۸ ..... جانور بھی حضور کے مطیع اور اپنا نبی مانتے ہیں
- ۳۴۰ ..... ۵۔ حضور باعث ایجاد عالم ہیں
- ۳۴۰ ..... حضور کی خاطر کائنات بنی
- ۳۴۱ ..... افادہ رضویہ
- ۳۴۱ ..... حضور تخلیق عالم سے پہلے نبی تھے
- ۳۴۳ ..... ۶۔ فضائل رسول
- ۳۴۳ ..... حضور کی فضیلت انبیائے کرام پر
- ۳۴۴ ..... افادہ رضویہ
- ۳۴۴ ..... حضور نے غافل دل زندہ کئے
- ۳۴۵ ..... حضور کا مقدس سینہ منبع تقویٰ ہے
- ۳۴۶ ..... سب سے پہلے حضور روضہ انور سے اٹھیں گے
- ۳۴۷ ..... افادہ رضویہ
- ۳۴۸ ..... حضور عرش اعظم کی دہنی جانب جلوہ فرما ہونگے
- ۳۴۹ ..... پہلے حضور کے لئے ہی دروازہ جنت کھلے گا
- ۳۵۰ ..... حضور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے
- ۳۵۰ ..... حضور اور آپ کے امتی دنیا میں آخر لیکن قیامت میں سابق ہونگے
- ۳۵۱ ..... افادہ رضویہ
- ۳۵۲ ..... حضور اور آپ کی امت جنت میں پہلے داخل ہونگے
- ۳۵۳ ..... حضور کا زمانہ سب سے افضل ہے
- ۳۵۵ ..... حضور معلم کائنات ہیں
- ۳۵۶ ..... ذکر مصطفیٰ کی عظمت و فضیلت
- ۳۵۶ ..... حضور بے مثل بشر ہیں



- ۳۵۷ ..... حضور کی محبت شرط ایمان ہے
- ۳۵۸ ..... حضور دعائے ابراہیم اور بشارت عیسیٰ ہیں
- ۳۵۸ ..... اللہ تعالیٰ نے صرف حضور کی حیات کی قسم یاد فرمائی
- ۳۵۹ ..... حضور کی حیات اور شہر کی قسم یاد فرمائی
- ۳۶۰ ..... حضور کا نام اقدس ساق عرش پر لکھا ہے
- ۳۶۱ ..... افادہ رضویہ
- ۳۶۱ ..... قیامت میں سب سے پہلے خدا حضور کو
- ۳۶۲ ..... افادہ رضویہ

### ۷۔ تعظیم رسول

- ۳۶۳ ..... بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام کا ادب
- ۳۶۳ ..... افادہ رضویہ
- ۳۶۳ ..... حضرت ابوالیوب انصاری کے یہاں حضور کا قیام اور ان کا ادب رسول
- ۳۶۴ ..... افادہ رضویہ
- ۳۶۵ ..... حضور کی جانب دانستہ جھوٹ کی نسبت اشد حرام ہے

### ۸۔ نور مصطفیٰ

- ۳۶۶ ..... حضور کے نور کی پیدائش
- ۳۶۷ ..... افادہ رضویہ
- ۳۷۹ ..... افادہ رضویہ
- ..... افادہ رضویہ
- ۳۸۰ ..... حضور کا نور سب پر غالب تھا
- ۳۸۱ ..... افادہ رضویہ
- ۳۸۵ ..... حضور ہمیشہ پاک اصلاب میں منتقل ہوتے ہیں
- ۳۸۵ ..... افادہ رضویہ

۳۸۵

افادہ رضویہ

۳۸۶

## ۹۔ علم غیب

۳۸۶

قیامت تک کی تمام چیزیں حضور کے پیش نظر ہیں

۳۸۶

افادہ رضویہ

۳۹۳

حضور کے لئے آسمان وزمین کی تمام چیزیں روشن ہو گئیں

۳۹۵

حضور نے ہوا میں اڑنے والے پرند کی بھی خبر دی

۳۹۵

مطلق علم غیب کا انکار کفر ہے

۳۹۶

افادہ رضویہ

۳۹۷

حضور نے قیامت تک کی اجمال خبر دی

۴۰۰

حضور نے حضرت امام باقر کی پیدائش کی خبر دی

۴۰۱

حضور بعد وصال بھی اس عالم سے باخبر ہیں

۴۰۱

حضور نے عالم برزخ کی خبر دی

۴۰۱

حضور آئندہ کے حالات سے باخبر ہیں

۴۰۳

حضور نے اپنی غیب دانی کے ذکر سے کیوں منع فرمایا

۴۰۳

افادہ رضویہ

۴۰۷

غیوب خمسہ کا ثبوت

۴۰۸

افادہ رضویہ

۴۱۱

افادہ رضویہ

۴۱۱

حضور کو اپنے وصال کا مقام و وقت خوب معلوم تھا

۴۱۲

حضور جانتے تھے کہ کون کہاں مرے گا

۴۱۳

حضور کو علم تھا کہ بارش کب ہوگی

۴۱۳

حضور کو قیامت کا علم تھا کہ کب آئے گی

۴۱۵

حضور نے آسمانوں کے چرچرانے کی آواز سنی

۴۱۵

غیر خدا پر لفظ علم غیب اطلاق جائز ہے

۴۱۷	پندرہویں رمضان کو چنگھاڑ کی خبر حضور نے دی
۴۱۷	افادہ رضویہ

## ۱۰۔ خصائص رسول

۴۱۸	حضور کے لئے صوم وصال جائز تھا
۴۱۸	حضور کا بھولنا سنت قائم کرنے کے لئے تھا
۴۱۸	افادہ رضویہ
۴۱۹	انبیائے کرام بدخواہی سے محفوظ رہتے ہیں
۴۲۰	افادہ رضویہ
۴۲۰	حضور کا رشتہ قیامت میں بھی قائم رہے گا
۴۲۱	انبیائے کرام کی بہ نسبت حضور کے خصائص
۴۲۷	افادہ رضویہ
۴۳۷	حضور کو آٹھ چیزیں بطور فضیلت ہیں
۴۴۳	افادہ رضویہ

## ۱۱۔ حضور خاتم الانبیاء ہیں

۴۴۶	حضور بنائے نبوت کی آخری اینٹ ہیں
۴۴۷	افادہ رضویہ
۴۵۰	حضور کے بعد کوئی نبی نہیں
۴۵۱	بریت آدم اور ختم نبوت
۴۵۱	حضرت موسیٰ اور ختم نبوت
۴۵۲	حضور اول و آخر ہیں
۴۵۲	حضور کا دین آخری دین ہے
۴۵۳	حضور کا نام پاک خاتم ہے
۴۵۳	حضور پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا

- ۴۵۴ ..... شب معراج اللہ عزوجل نے حضور کو آخری نبی فرمایا
- ۴۵۵ ..... حضور اولاد آدم میں آخری نبی ہیں
- ۴۵۵ ..... حضور کا نام مبارک عاقب ہے
- ۴۵۶ ..... حضور کا اسم مبارک مقشٰی کہ سب انبیاء کے بعد آنے والے
- ۴۵۷ ..... افادہ رضویہ
- ۴۶۲ ..... حضور کے اسمائے مبارکہ ختم نبوت پر نص صریح ہیں
- ۴۶۳ ..... افادہ رضویہ
- ۴۶۵ ..... حضور دنیا میں پچھلے نبی ہیں
- ۴۶۶ ..... افادہ رضویہ
- ۴۶۷ ..... حضور سب سے پہلے نبی لیکن بعثت میں سب سے آخر
- ۴۶۸ ..... حضور دنیا میں آخری نبی اور قیامت میں پہلے شفیع
- ۴۶۸ ..... تخلیق آدم کے وقت بھی حضور خاتم النبیین تھے
- ۴۶۸ ..... حضرت آدم پہلے نبی اور حضور آخری نبی
- ۴۷۰ ..... حضور کے مقدس شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی
- ۴۷۰ ..... انبیائے سابقین یکے بعد دیگرے خلیفہ لیکن حضور آخری نبی
- ۴۷۱ ..... نبوت و رسالت حضور پر منتہی ہو گئی
- ۴۷۱ ..... نبوت سے کچھ باقی نہیں مگر اچھے خواب
- ۴۷۳ ..... بالفرض حضور کے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے
- ۴۷۳ ..... صاحبزادہ رسول زندہ رہتے تو نبی ہوتے
- ۴۷۴ ..... افادہ رضویہ
- ۴۷۴ ..... افادہ رضویہ
- ۴۷۶ ..... حضور کے بعد مدعی نبوت کذاب دجال ہے
- ۴۷۷ ..... افادہ رضویہ
- ۴۷۷ ..... حضرت علی خلیفہ رسول لیکن نبوت سے کچھ حصہ نہیں

- ۴۸۰ ..... ختم نبوت کی گواہی حضرت کے وصی نے دی
- ۴۸۹ ..... حضور کے نام مبارک سے ظاہر کے سب انبیاء کے بعد آئے
- ۴۸۹ ..... حضرت عباس خاتم المہاجرین اور حضور خاتم النبیین
- ۴۹۱ ..... چار پائے ختم نبوت کی گواہی دیتے تھے
- ۴۹۲ ..... افادہ رضویہ
- ۴۹۴ ..... بشارتوں کے سوا نبوت سے کچھ باقی نہیں رہا
- ۴۹۵ ..... حضرت علی حضور کے سچے نائب لیکن نبی نہیں
- ۴۹۷ ..... ولادت رسول سے قبل ختم نبوت کی گواہی
- ۵۰۱ ..... احبار یہود نے ولادت سے قبل ختم نبوت کی گواہی دی
- ۵۰۴ ..... افادہ رضویہ

## ۱۲۔ ولادت، بعثت، وصال ۵۱۱

- ۵۱۱ ..... حمل مبارک و ولادت مبارک [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۵۱۱ ..... افادہ رضویہ
- ۵۱۱ ..... حضور پیر کے دن پیدا ہوئے
- ۵۱۲ ..... حضور کی بعثت قیامت کے قریب ہوئی
- ۵۱۲ ..... حضور اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں
- ۵۱۲ ..... حالت وصال اقدس
- ۵۱۳ ..... افادہ رضویہ
- ۵۱۴ ..... تاریخ وصال اقدس

## ۱۳۔ اخلاق، شمائل، تبرکات ۵۱۶

- ۵۱۶ ..... خوشبو کا استعمال حضور کو پسند تھا
- ۵۱۷ ..... حضور کی سادہ زندگی
- ۵۱۷ ..... حضور اچھے اخلاق کی تعلیم کے لئے مبعوث ہوئے



۵۱۸	حضور نے بطور تحدیث نعمت اپنے نسب پر فخر فرمایا
۵۱۸	افادہ رضویہ
۵۱۹	افادہ رضویہ
۵۲۰	افادہ رضویہ
۵۲۱	افادہ رضویہ
۵۲۱	حضور صحابہ کرام کے پیچھے چلتے تھے
۵۲۲	حضور کا مشورہ کرنا سنت قائم کرنے کے لئے تھا
۵۲۳	افادہ رضویہ
۵۲۳	حضور مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں
۵۲۳	حضور کا جو دو کرم
۵۲۴	افادہ رضویہ
۵۲۵	حضور کو حلوہ اور شہد پسند تھا
۵۲۵	حضور کے زمانہ میں گھروں میں چراغ نہ تھے
۵۲۵	حضور کے تبرکات
۵۲۷	افادہ رضویہ
۵۲۷	افادہ رضویہ
۵۳۰	افادہ رضویہ

## ۱۴۔ فضائل انبیائے کرام

۵۳۲	حیات انبیا کا ثبوت
۵۳۲	افادہ رضویہ
۵۳۳	ہر نبی کا منبر نور ہوگا
۵۳۳	انبیائے کرام آپس میں بھائی ہیں
۵۳۳	انبیائے کرام کو ایک خاص دعا عطا ہوتی ہے
۵۳۵	انبیائے کرام کو ہر چیز کا اختیار دیا جاتا ہے

- ۵۳۷ ..... افادہ رضویہ
- ۵۴۱ ..... حضرت موسیٰ نے بوڑھی کو جنت اور جوانی عطا فرمائی
- ۵۴۲ ..... افادہ رضویہ
- ۵۴۲ ..... حضرت آدم سب سے پہلے نبی تھے
- ۵۴۲ ..... حضرت آدم کامل صورت انسان پر پیدا ہوئے
- ۵۴۳ ..... حضرت آدم نے حضرت داؤد کو عمر عطا کی
- ۵۴۴ ..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کا واقعہ
- ۵۴۵ ..... حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ڈوبا سورج پلٹ آیا
- ۵۴۶ ..... افادہ رضویہ
- ۵۴۷ ..... حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی عظمت
- ۵۴۷ ..... انبیائے کرام کا ترکہ مالی تقسیم نہیں ہوتا
- ۵۴۸ ..... قاتل انبیاء سخت عذاب میں مبتلا ہوگا

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۵۴۹

## ۱۵۔ فضائل شیخین

- ۵۴۹ ..... شیخین کی پیروی کرو
- ۵۴۹ ..... شیخین کی فضیلت اہل بیت کی نظر میں
- ۵۵۶ ..... افادہ رضویہ
- ۵۵۸ ..... رافضی عموماً شیخین پر تبرا کرتے ہیں
- ۵۵۹ ..... افادہ رضویہ
- ۵۶۳ ..... خلافت شیخین کی طرف حضور کے خواب سے اشارہ
- ۵۶۳ ..... فضائل شیخین اور خلافت کی طرف اشارہ
- ۵۶۶ ..... افادہ رضویہ
- ۵۶۶ ..... شیخین، عمار اور ابن مسعود کی فضیلت
- ۵۶۷ ..... افادہ رضویہ

۵۶۷	فضیلت صدیق اکبر
۵۶۷	فضیلت صدیق اکبر
۵۷۰	افادہ رضویہ
۵۷۲	خلافت صدیق پر حضرت علی کی شہادت
۵۷۳	حضرت عمر کی تائید و فرشتے کرتے ہیں
۵۷۳	حضرت عمر کے اسلام سے اہل اسلام کو عزت ملی
۵۷۴	حضرت عمر صاحب الہام حق تھے
۵۷۵	حضرت عمر سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا
۵۷۶	حضرت عمر سچی پناہ گاہ مسلمین تھے
۵۷۷	حضرت عمر لوگوں کے لئے راحت رساں تھے
۵۷۸	حضرت عمر نے لوگوں کو جہنم میں گرنے سے روکا

۵۸۰

## ۱۶۔ فضائل ختمین

www.anaazratnetwork.org

۵۸۰	حضرت عثمان کی لغزش معاف کر دی گئی
۵۸۰	حضرت عثمان نے حضور سے دو مرتبہ جنت خریدی
۵۸۱	حضرت عثمان نے جنت کا چشمہ خریدا
۵۸۱	حضرت عثمان کے لئے جنت میں محل
۵۸۲	حضرت عثمان نے جنت میں مکان خریدا
۵۸۲	افادہ رضویہ
۵۸۳	حضرت علی آٹھ سال کی عمر میں ایمان لائے
۵۸۳	فضائل حضرت علی
۵۸۴	افادہ رضویہ
۵۸۴	کائنات حضرت علی کے سامنے ہے
۵۸۵	حضرت علی قاضی الحاجات ہیں

- ۵۸۶ ..... افادہ رضویہ
- ۵۸۶ ..... مولیٰ علی قسیم النار ہیں
- ۵۸۶ ..... افادہ رضویہ
- ۵۸۷ ..... مولیٰ علی کی مدح میں افراط و تفریط نہ کرو
- ۵۸۸ ..... افادہ رضویہ

## ۵۹۰۔ فضائل اہل بیت

- ۵۹۰ ..... افادہ رضویہ
- ۵۹۱ ..... اہل بیت جنتی ہیں
- ۵۹۳ ..... اہل بیت کو ایذا دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت
- ۵۹۳ ..... اہل بیت کو ایذا دینے والے کی عمر میں برکت نہیں ہوتی
- ۵۹۴ ..... اہل بیت کی قدر نہ کرنے والا منافق ہے
- ۵۹۴ ..... اہل بیت سے محبت دخول جنت کا سبب ہے [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۵۹۵ ..... افادہ رضویہ
- ۵۹۵ ..... فضائل سیدہ فاطمہ
- ۵۹۶ ..... حضرت سیدہ عورتوں کے عوارض سے پاک تھیں
- ۵۹۷ ..... حضرت سیدہ چال ڈھال میں حضور کے مشابہ تھیں
- ۵۹۷ ..... حضرت سیدہ سے محبت دوزخ سے آزادی کا پروانہ
- ۵۹۷ ..... افادہ رضویہ
- ۵۹۸ ..... فضائل حسنین کریمین
- ۵۹۹ ..... فضائل امام حسن
- ۵۹۹ ..... فضیلت امام حسین
- ۵۹۹ ..... ازواج مطہرات اہل جنت سے ہیں
- ۵۹۹ ..... افادہ رضویہ
- ۶۰۰ ..... ام المومنین حضرت خدیجہ کا وصال اقدس

## ۱۸۔ فضائل صحابہ کرام

- ۶۰۱ ..... صحابہ کرام کا تذکرہ بھلائی سے کرو
- ۶۰۱ ..... صحابہ کو ایذا دینا ہلاکت کا سبب ہے
- ۶۰۲ ..... صحابہ پر تبرا کرنے والوں سے میل جول حرام ہے
- ۶۰۲ ..... افادہ رضویہ
- ۶۰۳ ..... صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی فضیلت
- ۶۰۴ ..... فضیلت انصار
- ۶۰۴ ..... حضرت طلحہ، زبیر وغیرہما کی فضیلت
- ۶۰۷ ..... حضرت امیر حمزہ کی فضیلت
- ۶۰۸ ..... حضرت جعفر طیار کی فضیلت
- ۶۰۹ ..... فضائل عمرو بن العاص
- ۶۱۰ ..... افادہ رضویہ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۶۱۲ ..... فضائل عبداللہ بن عباس
- ۶۱۲ ..... حضرت عباس بن عبدالمطلب کی فضیلت
- ۶۱۳ ..... حضرت امیر معاویہ کی فضیلت
- ۶۱۳ ..... حضرت معاذ بن جبل کی فضیلت
- ۶۱۳ ..... حضرت ابودرداء کی فضیلت
- ۶۱۴ ..... حضرت براء بن مالک کی فضیلت
- ۶۱۴ ..... افادہ رضویہ
- ۶۱۵ ..... حضرت فاطمہ بن اسد کی فضیلت

## ۱۹۔ فضائل تابعین

- ۶۱۶ ..... فضیلت حضرت اویس قرنی
- ۶۱۹ ..... فضیلت امام اعظم



۶۱۹

افادہ رضویہ

۶۲۰

## ۲۰۔ فضائل اولیائے کرام

۶۲۰

اولیائے کرام سے قدرت الہی کا صدور

۶۲۰

خدا کا محبوب بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے

۶۲۱

اولیائے کرام کی شان عظیم

۶۲۲

محبوب بندہ کے حالات اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائے

۶۲۲

عرفاء کے دل تقویٰ کا خزانہ ہیں

۶۲۲

نیک بندے حاجت روائی فرماتے ہیں

۶۲۵

ضعیفوں کے سبب رزق ملتا ہے

۶۲۵

نیکیوں کی صحبت میں رہنے والوں کے طفیل رزق ملتا ہے

۶۲۶

ابدال نظام کائنات کا سبب ہیں

۶۲۹

صالحین کے طفیل بلائیں دفع ہوتی ہیں

۶۳۰

صحابہ کے دم قدم سے زمانہ میں صلاح و فلاح رہی

۶۳۱

افادہ رضویہ

۶۳۱

اولیائے کرام سے استمداد

۶۳۲

افادہ رضویہ

۶۳۳

خدا کے ولی سے دشمنی خدا سے اعلان جنگ ہے

۶۳۳

افادہ رضویہ

۶۳۴

مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے

۶۳۵

## ۲۱۔ تخلیق ملائکہ اور فضیلت

۶۳۵

فرشتے نور سے پیدا ہوئے

۶۳۵

روح ایک عظیم فرشتہ ہے

۶۳۶

ملائکہ کی خشیت ربانی سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں

- ۶۳۶ ..... جبریل کے جنتی نہر میں غوطہ لگانے سے فرشتوں کی تخلیق
- ۶۳۷ ..... افادہ رضویہ
- ۶۳۸ ..... مومن کو خوش کرنے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے
- ۶۳۸ ..... فضائی نہر میں فرشتے کے غوطے سے فرشتوں کی تخلیق
- ۶۳۹ ..... ملائکہ نور عزت اور ربانی روح سے پیدا ہوئے
- ۶۳۹ ..... افادہ رضویہ
- ۶۴۰ ..... حضرت جبریل کے نوری نہر میں غوطہ لگانے سے فرشتوں کی تخلیق
- ۶۴۰ ..... درود پاک کی برکت سے فرشتوں کی تخلیق
- ۶۴۱ ..... افادہ رضویہ
- ۶۴۵ ..... عام مومنین بعض ملائکہ سے افضل ہیں
- ۶۴۶ ..... فرشتے کا روبرو دنیا کی تدبیر کرتے ہیں
- ۶۴۶ ..... حضرت جبریل دعائیں قبول کرتے ہیں
- ۶۴۷ ..... فرشتے رزق دینے پر مامور ہیں
- ۶۴۷ ..... فرشتہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے
- ۶۴۸ ..... فرشتے بچوں کی صورت بناتے ہیں
- ۶۵۰ ..... افادہ رضویہ
- ۶۵۱ ..... فرشتہ قاضی شرع کی اعانت کرتا ہے
- ۶۵۲ ..... فرشتہ آتش دوزخ سے نگہبان ہوتا ہے

### ۶۵۳ ..... ۳۱۔ کتاب الشقی

- ۶۵۵ ..... حلال و حرام کا اجمالی بیان اور مسکوت عنہ معاف
- ۶۵۵ ..... افادہ رضویہ
- ۶۵۶ ..... افادہ رضویہ
- ۶۵۷ ..... حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں
- ۶۵۷ ..... افادہ رضویہ

- ۶۵۸ ..... مشکوک چیزوں کو چھوڑ دو
- ۶۵۹ ..... برائی اور منکر کو مٹا دو
- ۶۵۹ ..... کنگھا کرنا سنت ہے
- ۶۶۰ ..... ہردن کنگھی نہ کی جائے
- ۶۶۰ ..... افادہ رضویہ
- ۶۶۱ ..... کسی صورت سے ہردن کنگھی کر سکتا ہے
- ۶۶۱ ..... بالوں کو سنبھالنا چاہیے
- ۶۶۲ ..... بدفالی ناجائز ہے
- ۶۶۲ ..... علم رمل ناجائز ہے
- ۶۶۲ ..... افادہ رضویہ
- ۶۶۳ ..... منھ پر طمانچہ نہ مارو
- ۶۶۳ ..... بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے
- ۶۶۴ ..... سفر سے جلد واپس آئے
- ۶۶۴ ..... افادہ رضویہ
- ۶۶۴ ..... کنکریاں مھینکر مارنا منع ہے
- ۶۶۵ ..... بچوں سے معمولی کام لینا جائز ہے
- ۶۶۵ ..... افادہ رضویہ
- ۶۶۵ ..... ہبہ کر کے واپس لینا برا ہے
- ۶۶۶ ..... افادہ رضویہ
- ۶۶۶ ..... ہر شخص کے خمیر میں اس کے مدفن کی مٹی ہوتی ہے
- ۶۶۷ ..... سب سے پہلے قلم کی تخلیق ہوئی
- ۶۶۸ ..... فضائل میں احادیث ضعیفہ پر عمل جائز ہے
- ۶۶۹ ..... افادہ رضویہ
- ۶۷۰ ..... اللہ تعالیٰ فاسق کے ذریعہ بھی دین کی تائید کرا لیتا ہے

۶۷۰	زمین و آسمان ساکن ہیں اور سورج چلتا ہے
۶۷۲	افادہ رضویہ
۶۷۳	افادہ زمین اللہ و رسول کی ہے
۶۷۴	عرب و موالی اپنے اپنے کفو ہیں
۶۷۵	بیعت و ارادت
۶۷۵	افادہ رضویہ
۶۷۶	بیعت و امامت کبری
۶۷۶	اطاعت خدا و رضائے الہی



# فہرست مسائل ضمنیہ

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)







# فہرست مسائل ضمنیہ جلد اول

## کتاب الایمان

### نیت

- ۸ ..... حدیث نیت کی عظمت و صحت پر اجماع مسلمین ہے
- ۸ ..... حدیث نیت کو تہائی اور چوتھائی اسلام بتایا گیا ہے
- ۸ ..... حدیث نیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت یحییٰ بن سعید انصاری تک خبر واحد ہے
- ۸ ..... حضرت یحییٰ بن سعید انصاری سے حدیث نیت کے رواۃ دو سو سے زائد بتائے جاتے ہیں
- ۸ ..... حدیث نیت مشہور صحیح ہے لیکن متواتر نہیں کہ شرائط ابتدائے سند میں مفقود رہے۔
- ۹ ..... عالم نیت ایک فعل کو کئی نیکیاں کر سکتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال
- ۱۳ ..... امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیشاپور میں آمد کا واقعہ اور آپ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک
- ۱۴ ..... نیشاپور میں حضرت امام کا ارشاد مبارک ہیں ہزار سے زائد لوگوں نے لکھا۔
- ۱۴ ..... اسمائے اہل بیت کرام پر مشتمل سند حدیث کا عظیم فائدہ
- ۱۴ ..... اسمائے اصحاب کہف کے فوائد
- ۱۴ ..... نام مسمیٰ کے انحائے وجود سے ایک نحو ہے
- ۱۴ ..... امام فخر الدین رازی وغیرہ علماء کا قول ہے کہ وجود شے کی چار صورتیں ہیں
- ۱۴ ..... وجود اعیان میں، علم میں، تلفظ میں، کتابت میں
- ۱۴ ..... نام کا مسمیٰ کے ساتھ اختصاص کپڑوں کے اختصاص سے زائد ہے
- ۱۷ ..... میدان محشر میں عظمت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا ظہور

- ۱۹ ..... ارتکاب کبائر سے مومن ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔
- ۱۹ ..... حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوین کریمین کے اسلام کا ثبوت۔
- ۱۹ ..... حدیث احیائے ابوین کریمین کی غایت ضعف ہے بلکہ بقول امام ابن حجر متعدد حفاظ نے اس کی تصحیح کی ہے۔
- ۲۱ ..... ابوین کریمین کے بارے میں بعض علمائے کرام کی ایک واجب الحفظ نصیحت بندے کے دل میں جتنی عظمت اللہ کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی لے لائق اپنے یہاں اسے مرتبہ دیتا ہے۔
- ۲۷ ..... غیر خدا کو شہنشاہ کہنا کیسا ہے؟ اس کی نفیس تحقیق۔
- ۳۰ ..... جب لفظ ارادۃ و افادۃ ہر طرح شاعت سے پاک ہو تو صرف احتمال باطل اسے ممنوع نہ کرے گا۔
- ۳۱ ..... صدر اسلام میں غیر خدا کو شہنشاہ اور سید کہنے سے ممانعت کی حکمت۔
- ۳۵ ..... اہل اسلام اہل اللہ سے کون سی استعانت کرتے ہیں۔
- ۳۶ ..... اہل اللہ سے استعانت کی ممانعت پر ”ایاک نستعین“ سے استدلال کا جواب۔

## دین حق

- ۳۸ ..... بقدر استطاعت ہر مسلمان کی خیر خواہی فرض ہے۔
- ۳۸ ..... نامقدور و مضربات پر مسلمانوں کو ابھارنا ان کی بدخواہی ہے۔
- ۴۰ ..... دین میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔
- ۴۱ ..... دین میں زیادہ باریکیاں نکالنے سے بچو۔
- ..... اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیک عمل محبوب ہے جس پر مداومت ہو اگرچہ وہ عمل قلیل ہو۔
- ۴۱ ..... اہل کلمہ کے قول و فعل میں اگر کوئی ضعیف سے ضعیف تاویل حکم اسلام کی نکلے تو اسی کا لحاظ کیا جائے گا۔
- ۴۳ ..... مسلمانوں کا بڑا گروہ مقلد ہے۔
- ۴۶ ..... چار مذاہب کی تقلید درست ہونے پر اجماع مسلمین ہے۔

## سنت کی اہمیت

- ۴۹ ..... رسول کا حرام کردہ ایسا ہے جیسا اللہ کا حرام کردہ
- ۴۹ ..... پالتو گدھا اور کیلے والا جانور حرام ہے
- ۴۹ ..... ضیافت مہمان کی اہمیت
- ..... حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ میں ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا اور اس کا ایک نمونہ
- ۵۱ ..... سنت رسول سے محبت، محبت رسول کی دلیل ہے
- ۵۴ ..... ختنہ، خوشبو کا استعمال، نکاح اور مسواک انبیائے کرام کی سنت ہیں
- ۵۵

## بدعت

- ..... قرون ثلاثہ کے بعد حادث ہونے والے امور خیر کو ممنوع ٹھہرانے والوں کا رد
- ۶۰ ..... جو بات فی نفسہ خیر ہو، مخالف شرع نہ ہو وہ ممنوع نہیں اگرچہ قرون ثلاثہ میں اس کا وجود نہ ہو
- ۶۰ ..... فعل تو دلیل جواز ہے لیکن عدم فعل دلیل منع نہیں
- ۶۱ ..... اس اعتراض کا جواب کہ کیا تم صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے محبت و تعظیم میں زیادہ ہو کہ جو انہوں نے نہ کیا تم کرتے ہو
- ۶۲ ..... ایک دلچسپ و دل نشیں مثال
- ۶۲ ..... چند امور محدثہ کا ذکر جو مانعین کا معمول ہیں
- ۶۳ ..... منکرین قدر اس امت کے مجوس ہیں
- ۶۵ ..... یہ خیال کہ مجھے بد مذہب کی صحبت کیا ضرر دے گی نفس کا بڑا دھوکہ ہے
- ۶۶ ..... شیاطین الجن اور شیاطین الانس کون ہیں؟
- ۶۷ ..... شیطان آدمی شیطان جن سے زیادہ سخت ہوتا ہے
- ۶۷

- ۶۷ ..... وسوسہ شیطان کا علاج
- ۶۸ ..... عوام کو بیدینوں کی بات سننا موجب ہلاکت ہے
- ۶۸ ..... دشمنان اسلام کے مذہبی لیکچر سننے والوں کو نصیحت

## کفر و شرک

- ۷۰ ..... ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر قوم نوح کے صالحین تھے ان کے وصال کے بعد صرف ان کی عقیدت میں انکے مجسمے بنائے گئے بعد کی نسلیں پوجا کرنے لگیں
- ۷۳ ..... مشرک کی ادنیٰ درجہ کی تکریم بھی ممنوع ہے
- ۷۳ ..... ذمی کافر کے لئے ائمہ دین کے احکام
- ۷۹ ..... حدیث پاک ”لا تستھیوا بنا را لمشرکین“ سے کیا مراد ہے
- ۸۴ ..... ہندوؤں کے میلوں میں جانے کے احکام
- ۸۸ ..... کفار سے ہدیہ قبول کرنے کے بارے میں احکام
- ۹۱ ..... حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت ابن عباس کو چند نصیحتیں
- ۹۲ ..... حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذمی کافر کو محرر نہ بنایا
- ۹۳ ..... کفار سے معاملت جائز ہے موالات حرام ہے
- ۹۴ ..... کسی وصف پر حکم کا مرتب ہونا اس کی علیت کا مشعر ہوتا ہے
- ۹۵ ..... کافر طبیب سے علاج کے احکام
- ۱۰۱ ..... غیر خدا کی عبادت کا رواج کس طرح پڑا
- ۱۰۱ ..... زمین میں سب سے پہلے کس بت کی عبادت ہوئی
- ۱۰۱ ..... احکام تصویر
- ۱۰۱ ..... معظم دین کی تصویر زیادہ موجب وبال و نکال ہے
- ..... حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد افضل المخلوق ہیں
- ۱۰۲ ..... حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام کی تصاویر



- ۱۰۲ کفار نے دیوار کعبہ پر نقش کی تھیں جو حسب ارشاد نبوی محو کی گئیں۔
- ۱۰۲ تصویر کی چار صورتیں اور ان کے احکام۔
- صورت اول۔ تصویر موضع اہانت میں ہو تو جائز ہے اور مانع ملائکہ نہیں، اگرچہ بنانا اور بنوانا اس کا بھی حرام ہے۔
- ۱۰۲ صورت دوم۔
- ۱۰۲ صورت سوم۔
- ۱۰۳ صورت چہارم۔

### فرق باطلہ

- آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے زعم میں قرآن و حدیث سے
- ۱۰۷ سند پکڑیں گے لیکن اسلام سے خارج ہوں گے۔
- ۱۰۹ وہابیہ، نجدیہ، دیوبندیہ وغیرہ مقلدین پرانے خوارج کی یادگار ہیں۔
- خارجی اپنا ظاہر اس قدر متشرع بناتے کہ عوام مسلمین انہیں نہایت پابند شرع جانتے۔
- ۱۰۹ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا کہنے والوں کے ساتھ میل جول سے منع فرمایا۔
- ۱۱۰ فساق کے ساتھ بغض تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔
- ۱۱۱ مبتدعین فساق سے ہزار درجہ بدتر ہیں اور اس کی وجہ
- ۱۱۱ تفضیلی کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔
- ۱۱۲ منکرین تقدیر سے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیزار ہیں۔
- روافض کے ساتھ میل جول، شادی بیاہ، ان کی عیادت، ان کے جنازے میں
- ۱۱۳ جانا سب حرام ہے۔
- جو بھی ضروریات دین میں سے کسی شے کا منکر ہو کا فرو مرتد ہے اور اس کے
- ۱۱۳ ساتھ کوئی بھی اسلامی برتاؤ کرنا حرام ہے۔

## تقدیر و تدبیر

- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں  
 ۱۱۵ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل لکھیں  
 حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم جیسے عظیم الشان صحابہ کو مسئلہ  
 ۱۱۶ تقدیر میں غور و خوض سے منع کیا گیا  
 مسئلہ تقدیر میں حضرت مولیٰ علی کا قول فیصل  
 ۱۱۷ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ انسان پتھر کی طرح مجبور محض ہے نہ خود مختار ہے،  
 بلکہ ان دونوں کے بیچ ایک حال ہے  
 ۱۱۷ ایک صاحب کا سوال کہ کیا معاصی بھی بے ارادۃ الہیہ واقع نہیں ہوتے؟  
 اور مولیٰ علی کا جواب  
 ۱۱۷ عمر بن عبید معزلی پر ایک مجوسی کا مسکت الزام  
 ۱۱۸ مجوسی کے الزام کا رضوی جواب  
 ۱۱۸ مشیت کے بارے میں حضرت مولیٰ علی کی ایک شخص سے گفتگو  
 ۱۱۹ مسئلہ تقدیر میں خلاصہ کلام  
 نیک بخت کیلئے نیک بختوں کا کام آسان ہو جاتا ہے اور بد بخت کیلئے  
 ۱۲۱ بد بختوں کا  
 ۱۲۲ دوا خود بھی تقدیر سے ہے  
 جس جگہ وبائی بیماری طاعون وغیرہ ہو وہاں جانے اور وہاں سے فرار کا  
 ۱۲۳ حکم  
 تدبیر منافی توکل نہیں بلکہ صلاح نیت کے ساتھ عین توکل ہے  
 ۱۲۳ آدمی کا ہمہ تن تدبیر میں اسہاک اور اس کی درستی میں جاوے جا کا عدم  
 ۱۲۳ لحاظ مذموم ہے  
 محرف کتاب اللہ، مکذب تقدیر، اپنی طاقت کے بل پر دلیلوں کو معزز اور  
 شرفا کو ذلیل کرنے والا، محرمات الہیہ کو حلال ٹھہرانے والا، اہل بیت

کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھنے والا، سنت کو ہلکا جان کر چھوڑنے والا، ان سب پر خدا و رسول کی لعنت ہے۔

۱۲۵

### گناہ صغیرہ و کبیرہ

۱۲۶

اصرار سے گناہ صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔

۱۲۶

جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔

۱۲۷

شرک، نافرمانی والدین، جھوٹی گواہی، یہ گناہ اکبر کہلاتے ہیں۔

۱۲۹

لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد تصدیق جمیع ضروریات دین ہوتی ہے۔

۱۳۰

جو کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ ان سب سے ہلاک ہونے والا ہے۔

۱۳۰

ایک شخص گناہ کرتا ہے لیکن اس کا وبال دوسروں پر بھی پڑتا ہے، عار دلانے والے، غیبت کرنے والے، اور راضی رہنے والے پر۔

۱۳۱

مسلمان طعن کرنے والا، بہت لعنت کرنے والا، بے حیا اور فحش گو نہیں ہوتا۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۱۳۳

مسلمان کی بدخواہی کرنا، اسے ضرر پہونچانا، یا فریب دینا ان امور کی حرمت

۱۳۷

ضروریات دین سے ہے۔

۱۴۰

بے شک شیطان انسان کے خون دوڑنے کی رگوں میں گردش کرتا ہے۔

۱۴۴

دوزخیوں میں سخت عذاب والے لوگ کون ہیں؟

۱۴۵

جس گھر میں کتاب یا حب یا جاندار کی تصویر ہو اس میں ملائکہ رحمت و برکت داخل نہیں ہوتے۔

۱۴۵

قبر کو حد شرع سے اونچا کرنا مذموم ہے۔

۱۴۶

بلندی قبر میں حد شرع ایک بالشت ہے۔

۱۴۶

تصاویر معظمین دین بھی حکم حرمت میں داخل ہیں۔

۱۴۶

ابتدائے بت پرستی تصویرات معظمین سے ہوئی۔

ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، یہ پانچ بندگان صالحین تھے لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد باغوائے ابلیس ان کی تصاویر بنا کر ان کی مجلس میں قائم کیں۔

- ۱۴۶ ..... پھر بعد کی نسلوں نے انہیں معبود سمجھ لیا
- بیت اللہ شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ
- ۱۴۷ ..... عنہا کی تصویریں تھیں جو حسب ارشاد نبوی محو کی گئیں
- ۱۵۰ ..... تصویر ذی روح اور تصویر غیر ذی روح سے کیا مراد ہے؟

### شعب ایمان

- ۱۵۳ ..... کامل مسلمان اور حقیقی مہاجر کون ہے؟
- ۱۵۴ ..... فحش کلامی نفاق کی علامت ہے

### صفات مومن

- ۱۵۵ ..... مسجد میں حاضر رہنے کی عادت ایمان کی علامت ہے
- آدمی کی عزت اس کا دین ہے، اس کی مروت اس کی
- ۱۵۵ ..... عقلی ہے اور اس کا حسب اس کا خلق
- طعنہ زنی کرنے والا، بہت لعنت کرنے والا، بیہودگی سے پیش آنے والا،
- ۱۵۶ ..... اور فضول گو مومن کامل نہیں
- مرد دو قسم کے ہیں، نیک متقی اللہ کے یہاں عزت والا، بدکار بد بخت اللہ
- ۱۵۶ ..... کی بارگاہ میں ذلیل
- کسی کا کثرت سے ذکر کرنا اس کے ساتھ محبت کی دلیل ہے
- ۱۵۹ ..... انتہائی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے
- ۱۶۰ ..... دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا، کسی کی مدد کر کے اسکو سواری پر سوار کرنا صدقہ
- ۱۶۰ ..... ہے
- سواری پر سامان لدوا دینا، اچھی بات کہنا، راستہ بتانا، راستے سے تکلیف
- ۱۶۰ ..... دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے
- ۱۶۱ ..... رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک دلیل
- ۱۶۲ ..... کافر کو حسب و نسب کے اعتبار سے بھی خیر و بہتر نہیں کہا جاسکتا



# کتاب العلم

## ضرورت علم دین

حدیث اقدس ”طلب العلم فریضۃ الخ“ میں علم سے مراد علم دین ہے اور اسکی دلیل

۱۶۶

۱۶۶

۱۶۶

فرائض قلبیہ اور محرمات باطنیہ کیا ہیں؟  
فلسفہ، نجوم، قافیہ، عروض، نقشہ و مساحت جاننے والے کو عالم نہیں کہہ سکتے۔  
فلسفہ میں منہمک رہنے والا لقب جاہل، اجہل بلکہ اس سے زیادہ کا مستحق

۱۶۸

ہے۔  
امام شافعی کا ارشاد ہے ”قرآن وحدیث اور فقہ کے علاوہ تمام علوم ایک دنیوی مشغلہ ہیں۔“

۱۶۸

## فضیلت علم وعلماء

۱۶۹

۱۷۱

۱۷۱

علم عبادت سے افضل ہے۔  
حق علما کو ہلکا جاننے والا کھلا منافق ہے۔  
عالم کو برا کہنے کا حکم۔  
پانچ چیزیں عبادت سے ہیں، کم کھانا، مسجد میں بیٹھنا، کعبہ کو دیکھنا، مصحف کو دیکھنا، اور عالم کا چہرہ دیکھنا۔

۱۷۲

۱۷۲

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۴

ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔  
زمزم کے اندر نظر کرنا عبادت ہے اور اس سے گناہ اترتے ہیں۔  
ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے۔  
ہر شخص سے اس کے مرتبہ کے لائق برتاؤ کرنا چاہیے۔  
حضرت علی کا ارشاد ”لایابی الکرامۃ الا حمار“  
علمائے دین کو مجالس میں صدر مقام و مسند اکرام پر جگہ دینا سلفا و خلفا شائع



- ۱۷۴ ..... و ذائع اور شرعاً و عرفاً مندوب و مطلوب ہے۔
- ۱۷۵ ..... علما و سادات کو یہ ناجائز ہے کہ آپ اپنے لئے سب سے امتیاز چاہیں۔
- ۱۷۵ ..... حضور اکرم ﷺ مقام و مجلس خورش و روش کسی امر میں اپنے بندگان بارگاہ سے امتیاز نہ چاہتے۔
- ۱۷۵ ..... لوگوں سے اپنے لئے قیام چاہنا مکروہ اور لوگوں کو معظم دینی کے لئے قیام مندوب۔
- ۱۷۵ ..... بوڑھا مسلمان، مسلمان بادشاہ عادل، عالم کہ مسلمانوں کو نیک بات بتائے انکے حق کو ہلکا جاننے والا منافق ہے۔
- ۱۷۶ ..... عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کا گناہ دو اور اسکی وجہ۔

## تبلیغ و عمل

- ۱۷۸ ..... امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکام۔
- ۱۷۸ ..... مرید کا پیر پر یہ حق ہے کہ اسکو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔
- ۱۷۹ ..... جو پیر دنیوی مفادات کے لئے مرید سے پابندی شرع کو نہ کہے وہ پیر غواہیت ہے شیخ ہدایت نہیں۔
- ۱۸۰ ..... جہاد کی تین اقسام اور انکے احکام۔
- ۱۸۱ ..... کر بلا کی لڑائی میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہرگز پہل نہ تھی اور اس کے دلائل۔
- ۱۸۲ ..... فاسقوں پر ازالہ منکر میں حملہ جائز ہے اگرچہ تنہا ہو اور وہ ہزاروں، اور سلطان اسلام جس پر اقامت جہاد فرض ہے اسے بھی کافروں سے پہل حرام جبکہ ان کے مقابلہ کے قابل نہ ہو۔
- ۱۸۳ ..... بے عمل عالم مثل شمع ہے کہ آپ جلے اور لوگوں کو روشنی دے۔
- ۱۸۵ ..... غیر خدا کے لئے تو اضع حرام ہے۔
- ۱۸۵ ..... جو تو اضع انبیاء و اولیاء و علماء و مسلمین کے لئے ہو وہ تو اضع لغیر اللہ نہیں۔

- ۱۸۶ ..... تواضع لغیر اللہ کی ایک صورت
- قرآن و حدیث میں جن باتوں کی نہ اجازت ثابت نہ ممانعت وارد، وہ اصل
- ۱۸۸ ..... جواز پر ہیں
- ۱۸۸ ..... بلا وجہ قیل و قال، کثرت سوال اور ضیاع مال اللہ کو ناپسند ہے
- جس نے قریبی رشتہ دار کو حاکم بنایا اور لوگوں میں کوئی اس سے زیادہ اہل ہے تو
- ۱۸۹ ..... اس نے خدا و رسول اور جملہ مومنین کی خیانت کی
- ۱۸۹ ..... علم دین کو محض کھانے پینے کا ذریعہ بنانے والے کی مذمت
- ۱۹۱ ..... اہل فقہ مانند طبیب ہیں اور محدثین مثل عطار
- امام اجل حضرت اعمش کا ارشاد ”امام ابو حنیفہ فقہ و حدیث دونوں کے جامع
- ۱۹۱ ..... ہیں
- ۱۹۲ ..... اگر سامع کی حیثیت کے پیش نظر کوئی بات بیان نہ کی جائے تو یہ کتمان علم نہیں
- امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بعض مجالس میں اس بات کو چھپاتے تھے
- ۱۹۵ ..... کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج باری تعالیٰ کا دیدار کیا۔
- حضور معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۱۹۵ ..... کو قواعد کتابت کی تعلیم دی
- ۱۹۶ ..... صبح کے کاموں میں برکت ہے
- ۱۹۷ ..... دنیا سے علم دین اٹھنے کی کیا صورت ہوگی

## توسل و استمداد

- قحط کے وقت حضرت فاروق اعظم حضرت عباس کے وسیلہ سے بارش کی دعا
- ۱۹۸ ..... کرتے
- ۱۹۸ ..... قضائے حاجت کی ایک مجرب دعا
- ۲۰۱ ..... مانعین استمداد و ندا کے ایک بڑے عالم کی بے حیائی اور خیانت
- لباس کی کثرت سے مستورات کو زینت کا خیال اور باہر گھومنے کی خواہش پیدا

- ہوتی ہے۔ ۲۰۳
- حاجتوں کو پوشیدہ رکھ کر انکی کامیابی پر مدد چاہو۔ ۲۰۴
- سفر میں دشواری کے ازالہ کی مجرب دعا ”یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی،
- یا عباد اللہ اعینونی۔ ۲۰۴
- عتبہ بن غزو ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالیقین یہ بات آزمائی ہوئی ہے۔ ۲۰۴
- حدیث پاک میں جن بندگان خدا کو وقت حاجت پکارنے اور ان سے مدد مانگنے کا حکم ہے وہ ابدال ہیں اور ممکن کہ ملائکہ یا مسلمان صالح جن مراد ہوں۔ ۲۰۴
- مذکورہ عالم کی ایک اور صریح خیانت۔ ۲۰۵
- حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابوں سے استمداد کا ثبوت۔ ۲۰۶
- جب کسی کا جانور جنگل میں چھوٹ جائے تو یوں ندا کرے ”اے خدا کے بندو! روک لو، اے خدا کے بندو! روک لو، اللہ کے کچھ بندے اس میں ہیں وہ اسے روک لیں گے۔ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org) ۲۰۸
- حضرت امام نووی کے ایک استاد کا تجربہ۔ ۲۰۸
- امام نووی کا خود اپنا تجربہ۔ ۲۰۸
- رحم دل لوگ رحمت خداوندی کے مظہر ہیں۔ ۲۰۹
- حدیث پاک ”بھلائی خوش رویوں سے مانگو“ میں خوش رویوں سے کون مراد ہے؟ ۲۱۰
- یہ حدیث امام سیوطی کی پرکھ میں حسن صحیح ہے۔ ۲۱۰

## کتاب الطہارت

### ضرورت طہارت و احکام آب

- ۲۱۹ ..... پانی ذی لون ہے۔  
 حقیقت امر یہ ہے کہ پانی خالص سیاہ نہیں مگر اس کا رنگ سفید بھی نہیں میلا مائل
- ۲۱۹ ..... بیک گوشت سوا د خفیف ہے۔  
 گرم ملک گرم موسم میں جو پانی سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن  
 میں دھوپ سے گرم ہو جائے وہ جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے بدن کو کسی طرح نہیں
- ۲۲۱ ..... پہونچایا جائے کہ اس سے احتمال برص ہے۔  
 ایک حدیث میں ہے ”مرد عورت کے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی  
 سے غسل نہ کرے“ دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار حضرت میمونہ کے غسل  
 کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرماتے“ ان دونوں احادیث میں تطبیق
- ۲۲۲ ..... مائے مستعمل کی جامع و مانع تعریف اور چند افادات جن کے ضمن میں بہت  
 سے مسائل ہیں۔
- ۲۲۳ ..... مائے مستعمل سے نجاست حقیقیہ دھو سکتے ہیں۔  
 آثار بلوغ مثل احتلام حیض نہ پائے جانے کی صورت میں بلوغ کا تحقق
- ۲۲۵ ..... پورے پندرہ برس ہونے پر ہوگا۔  
 میت اگر دریا میں ملے تو جب تک احیا اپنے قصد سے اسے پانی میں جنبش  
 نہ دیں انکا فرض نہ اترے گا مگر میت کے سب بدن پر پانی گزر گیا تو اسے
- ۲۲۵ ..... طہارت حاصل ہوگئی۔
- ۲۲۶ ..... مائے مستعمل کو قابل وضو بنانے کے دو طریقے۔
- آداب استنجاء**
- ۲۲۸ ..... رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت۔
- ۲۲۹ ..... پانی میں سانس لینا منع ہے۔
- ۲۳۱ ..... عام طور پر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔  
 دو شخصوں کا ذکر جن میں ایک پیشاب سے نہ بچنے اور دوسرا
- ۲۳۲ ..... چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا تھا۔



- ۲۳۳ ..... تین باتیں جفاو بے ادبی ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، نماز میں اپنی پیشانی سے مٹی یا پسینہ پونچھنا، سجدہ کرتے وقت زمین کو پھونکنا
- ۲۳۴ ..... حدیث پاک ”حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا“ کا جواب
- ۲۳۵ ..... فعل وقول میں جب تعارض ہو تو قول واجب العمل ہے کہ فعل احتمال
- ۲۳۵ ..... مخصوص وغیرہ رکھتا ہے
- ۲۳۵ ..... میح وحاظر جب متعارض ہوں تو حاظر مقدم ہے
- ۲۳۵ ..... حدیث حذیفہ میں مقلدان نصرانیت کا رد ہے

## احکام حیض

- ۲۳۷ ..... وہ آیات جو ذکر و ثنا و مناجات و دعا ہوں محض بہیت دعا بے نیت تلاوت پڑھنا جب حائضہ و نفاس سبکو جائز ہے
- ۲۳۸ ..... جو پارہ آیت ایسا قلیل ہو کہ عرفا اس کے پڑھنے کو قرآن نہ سمجھیں اتنے کو بحالت جنابت و حیض و نفاس بہیت قرآن پڑھنا کیسا ہے؟
- ۲۴۱ ..... حالت حیض و نفاس میں وطی پر کفارے کے حکم کی حیثیت اور مقدار کفارہ کی تفصیل

## وضو

- ۲۴۳ ..... حضرت مولیٰ علی کی داڑھی سینہ تک خوب گھنی تھی
- ۲۴۴ ..... اعضائے وضو کے نور کو زیادہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
- ۲۴۶ ..... حضرت ابو حاتم کا ارشاد ہے ”ہم حدیث کو اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک کہ اسکو ساٹھ وجوہ سے نہ لکھ لیتے“
- ۲۴۷ ..... وضو میں اعضا کو تین تین مرتبہ دھونا کامل واکمل وضو ہے
- ۲۴۷ ..... حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اعضائے وضو تین تین بار دھوتے تھے
- ۲۴۸ ..... وضو پر وضو کرنے والے کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں



- ۲۵۰ ..... اصحاب مشاہدہ اپنی آنکھوں سے وضو کے پانی سے لوگوں کے گناہوں کو دھلتا ہوا دیکھتے ہیں۔
- ۲۵۰ ..... امام اعظم وضو میں استعمال شدہ پانی دیکھ کر اس میں جتنے صغائر و کبائر و مکروہات ہوتے انکو پہچان لیتے۔
- ۲۵۰ ..... امام اعظم نے مائے مستعمل کے تین درجات مقرر فرمائے اس کی وجہ۔
- ۲۵۰ ..... مائے مستعمل سے گرتے ہوئے گناہوں کو مشاہدہ کرنے کے سلسلہ میں امام اعظم کے چند واقعات۔
- ۲۵۲ ..... بسملہ فی الوضو کی فضیلت میں حدیث ابن مسعود کے مقام و مرتبہ کی تحقیق۔
- ۲۵۵ ..... حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق جسمیں بعد وضو ہاتھ پونچھنے کی ممانعت صریح طور پر ہے۔
- ۲۵۶ ..... تولیہ سے اعضائے وضو پونچھنے میں صحابہ کرام کوئی حرج نہیں جانتے تھے لیکن عادت بنانا پسند فرماتے۔
- ۲۵۷ ..... وضو کی طرح غسل کی تری بھی تولی جائے گی۔
- ۲۵۷ ..... اعضائے وضو پونچھنے کے بارے میں تحقیق مسئلہ۔
- ۲۵۷ ..... اعضائے وضو پونچھنے کی کراہت کے قائلین کا یہ استدلال درست نہیں کہ وضو کی تری تولی جائیگی اسکی دلیل۔
- ۲۵۷ ..... مستحب کی خلاف ورزی مکروہ تنزیہی نہیں۔
- ۲۵۸ ..... جب فضائل میں حدیث ضعیف بالا جماع مقبول ہے تو اباحت میں بدرجہ اولیٰ ہوگی۔
- ۲۵۹ ..... اعضائے وضو کپڑے سے صاف کر نیے بارے میں امام اجل ابراہیم نخعی کا فتویٰ۔
- ۲۵۹ ..... بعض صورتوں میں وضو و غسل کے بعد اعضا کا پونچھنا واجب ہوگا۔
- ۲۶۰ ..... حضرت میمونہ سرکار کے غسل سے فارغ ہونے پر کپڑا لے کر حاضر ہوئیں تو آپ نے وہ کپڑا نہ لیا، اور ہاتھ سے پانی جھاڑا اس حدیث پاک کی تاویلات۔
- ..... حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی فعل کو احیاناً ترک کرنا دلیل کراہت نہیں بلکہ تئمہ

- ۲۶۰ ..... دلیل سنیت ہے
- ..... حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی تابعی فرماتے ہیں ”وضو میں غسل رجل پر صحابہ
- ۲۶۲ ..... کا اجماع ہے
- ۲۶۳ ..... وضو میں مسح رجل سے حضرت ابن عباس کا رجوع ثابت ہے
- ۲۶۵ ..... طہارت و دعا میں حد سے تجاوز مذموم ہے
- ۲۶۵ ..... لیس بخیر اور لا خیر فیہ میں فرق ہے
- ۲۶۶ ..... وضو میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا نام ”ولہان“ ہے
- ۲۶۸ ..... رومالی پر چھینٹا دینا خاص اہل وسوسہ کیلئے نہیں بلکہ سب کے لئے سنت ہے
- ۲۶۸ ..... انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وسوسہ سے کوئی علاقہ نہیں
- ۲۶۹ ..... حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رومالی پر چھینٹا دینا تعلیم امت کے لیے تھا
- ۲۷۱ ..... نفی وسوسہ کے واسطے رومالی پر چھینٹا دینے کے تعلق سے چند ضروری ہدایات۔

### نواقص وضو

www.alanazratnetwork.org

- ۲۷۸ ..... حدیث میں شک ہو تو وضو واجب نہیں
- ..... حدیث سے اس وقت وضو واجب ہوگا جبکہ اس کا ایسا یقین کامل ہو کہ اس پر قسم
- ۲۷۸ ..... کھا سکے
- ۲۷۸ ..... یقین شک سے زائل نہیں ہوتا
- ۲۷۹ ..... وسوسہ کی وقت تین حالتیں ہوتی ہیں
- ۲۷۹ ..... وسوسہ سے نجات کی صورت
- ..... اس پر وضو واجب نہیں جو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا سجدہ بروجہ مسنون کی حالت میں
- ۲۸۰ ..... سوئے
- ..... ضعف راوی اگر غفلت کے باعث ہونہ کہ فسق کی وجہ سے تو یہ ضعف متابعت
- ۲۸۱ ..... سے ختم ہو جاتا ہے
- ..... اگر سجدے میں سویا اور سجدہ مسنون ہیئت پر نہیں تو اس صورت میں نیند ناقض
- ۲۸۲ ..... وضو قرار دی جائے گی



- ۲۹۲ ..... حدیث سوم
- ۲۹۲ ..... جسکی نیت نہ ہو اس کا عمل نہیں، اور جسمیں خشیت الہی نہ ہو اسکا اجر نہیں
- ۲۹۲ ..... حدیث چہارم
- ۲۹۲ ..... رکوع میں تسویۂ ظہر سنت ہے
- ۲۹۴ ..... جب نمازی قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اسکے منہ پر رکھ دیتا ہے
- غسل**
- ۲۹۵ ..... حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال گھنے تھے
- ۲۹۷ ..... عورت کے لئے غسل میں گندھے ہوئے بال کھولنا ضروری نہیں
- ۲۹۹ ..... صاع، مد، رطل، استار اور مثقال کی تحقیق
- ۳۰۲ ..... مکوک کی مقدار
- ..... حدیث حضرت صدیقہؓ میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسے برتن سے غسل کرتے جس میں تین دبا اس کے قریب پانی آتا تھا کی تین
- ۳۰۳ ..... توجیہات
- ۳۰۵ ..... لفظ فرق کی تحقیق
- ۳۰۷ ..... تنقیح طلب امور
- ..... گیہوں کی کثرت زمانہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اس سے پہلے
- ۳۰۹ ..... طعام جو تھا
- ..... عہد رسالت میں زکوٰۃ کھجور، منقہ اور جو سے ہی دی جاتی تھی، گیہوں اسوقت عام
- ۳۰۹ ..... مروج نہیں تھا
- ۳۱۰ ..... صاع کی مقدار کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا تجربہ
- ۳۱۱ ..... حضرت مولیٰ علی سرمنڈاتے تھے
- ..... حدیث پاک ”فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، قال نعم اذا رأت الماء“ میں
- ۳۱۲ ..... رویت سے مراد رویت علمیہ اور ظن غالب ہے
- ۳۱۲ ..... باتفاق اہل لغت علم اور رویت حقیقی طور پر علم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔



- ۳۱۲ ..... جھے ہوئے گھی میں چوہیا گر جائے تو کیا کریں؟
- ۳۱۳ ..... ہر چڑا پکانے سے پاک ہو جاتا ہے۔

## کتاب الصلوٰۃ

### اوقات نماز

- ۳۱۷ ..... جب عورت کا کفول جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کی جائے
- ۳۱۹ ..... جس نے نماز کی حفاظت کر لی، اس نے دین کی حفاظت کر لی
- ۳۲۱ ..... سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے
- ۳۲۳ ..... دیگر انبیائے کرام کیلئے بھی نمازوں کے یہی اوقات متعین تھے
- ۳۲۸ ..... فجر کو روشن کر کے پڑھنے پر صحابہ کا اتفاق تھا
- نماز فجر کو اول وقت میں پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کے خلاف تھا
- ۳۲۸ ..... [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- حضرت عبداللہ ابن مسعود کے واسطے خدمت اقدس میں آنے کے لئے استیذان معاف تھا
- ۳۲۸ ..... اسفار فجر کی حکمت فقہی، تکثیر جماعت ہے
- ۳۲۸ ..... امام کو تخفیف صلوٰۃ اور کبیر وضعیف و مریض و حاجت مند کی مراعات کا حکم ہے
- ۳۲۸ ..... دفع مفاسد جلب مصالح پر اہم واقعہ ہے اور اس پر ایک دلیل
- ۳۲۸ ..... اسفار فجر کا ایک اور فائدہ
- ۳۲۹ ..... اسفار کی حد کیا ہے؟
- ۳۲۹ ..... گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے
- ۳۳۰ ..... میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد کا رد
- ۳۳۳ ..... حرین شریفین میں موسم تابستان میں سایہ اصلی نہایت قلیل ہوتا ہے
- ۳۳۳ ..... مکہ معظمہ میں ۳۰ مئی اور ۲۴ جولائی کو سایہ اصلی مطلقاً نہیں ہوتا



- ۳۳۳ ..... صاحب مبسوط کا ایک تسامح
- ۳۳۸ ..... حضرت فاروق اعظم نے یہ فرمان نافذ فرمایا تھا کہ ایک وقت میں دو نمازیں ملانا گناہ کبیرہ ہے۔
- ۳۴۰ ..... میاں نذیر حسین کا رد۔
- ۳۴۰ ..... احتاف صرف عبارات شارع غیر متعلقہ بعقوبات میں مفہوم مخالف کی نفی کرتے ہیں۔
- ۳۴۰ ..... صحابہ و علمائے مابعد کے کلام میں مفہوم مخالف بے خلاف معتبر ہے۔
- ..... ایک ہی حدیث کو رواۃ بالمعنی متنوع طور سے روایت کرتے ہیں کوئی ایک ٹکڑا کوئی دوسرا، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح۔
- ۳۴۵ ..... امام ابو حاتم رازی معاصر امام بخاری کا قول ہے: ہم جب تک حدیث کو ساٹھ وجہ سے نہ لکھتے اسکی حقیقت نہ پہچانتے۔
- ۳۴۶ ..... تنوعات سے احادیث متعدد نہ ہونگیں، نہ ایک طریق دوسرے کا نافی و منافی ہوگا
- ۳۴۸ ..... میاں نذیر حسین کی فن حدیث میں نادانیاں
- ۳۴۸ ..... میاں صاحب کی تشیع ورفض کے فرق سے جہالت۔
- ..... میاں صاحب نے اپنی نادانی سے ایک راوی کو ضعیف اور ایک کو متشیع و صاحب افراد قرار دیکر حدیث نسائی کو نامقبول و متروک قرار دیا۔
- ۳۴۸ ..... میاں صاحب کو ضعیف، متشیع، صاحب افراد اور متروک الحدیث میں فرق کا علم نہیں۔
- ۳۴۸ ..... متشیع و صاحب افراد ہونا اصلاً موجب ضعف نہیں۔
- ۳۴۸ ..... صحیحین کے رواۃ میں بہت سے متشیع اور ”لہ افراد“ والے موجود ہیں۔
- ..... ضعیف اور متروک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ضعیف کی حدیث معتبر و مکتوب اور متابعت و شواہد میں مقبول و مطلوب ہے، بخلاف متروک کے۔
- ۳۴۸ ..... حضرت امام اعمش کا اسم مبارک سلیمان بن مہران ہے حدیث نسائی میں سلیمان سے یہی امام اعمش مراد ہیں میاں صاحب نے سلیمان بن ارقم سمجھ لیا۔
- ۳۵۰

- تقریب میں ہے سلیمان بن مہران اعمش ثقہ ہیں، حافظ ہیں، عالم قرأت اور متقی ہیں۔
- ۳۵۰ ..... حدیث ہذا میں سلیمان سے مراد امام اعمش ہیں اس کی دلیل
- ۳۵۰ ..... جب بصری کہیں عن عبداللہ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص مفہوم ہوں گے اور کوئی کہے تو عبداللہ بن مسعود
- ۳۵۰ ..... رواۃ مابعد میں عبداللہ کثر ہیں لیکن جب سوید کہیں حدیث عبداللہ تو ابن المبارک مراد ہوں گے
- ۳۵۰ ..... جب بندار کہیں عن محمد عن شعبہ تو غندر کے سوا کسی طرف ذہن نہ جائے گا
- ۳۵۰ ..... حدیث نسائی میں خالد سے مراد امام اجل ثقہ ثبت حافظ جلیل الشان خالد بن حارث بصری ہیں۔ جنہیں میاں جی نے خالد ابن مخلد قرار دے دیا اس پر دلیل
- ۳۵۱ ..... جمع صلاتین کی بحث کا خلاصہ
- ۳۵۲ ..... کسی حدیث صحیح میں جمع تقدیم کا نام کو اصل پتہ نہیں
- ۳۵۲ ..... جمع تاخیر میں کوئی حدیث صریح نہیں یا ضعاف و منا کیر ہیں یا محض بے علاقہ یا صاف محتمل
- ۳۵۲ ..... محتمل کو متعین کی طرف لوٹایا جائے گا
- ۳۵۲ ..... نماز میں رعایت وقت کی فرضیت اظہر ضروریات دین سے ہے
- ۳۵۵ ..... امر یقینی کے مقابل امر ظنی مضحل ہے
- ۳۵۵ ..... جب حاضر و میح مجتمع ہوں تو حاضر مقدم ہے
- ۳۵۵ ..... قول فعل پر مرجح ہوتا ہے
- ۳۵۵ ..... اقلیت راوی بھی وجہ ترجیح ہے
- ۳۵۵ ..... فضائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۳۵۵ ..... حضرت فاروق اعظم کا ارشاد ہے، حضرت ابن مسعود ایک گٹھری ہیں علم کی
- ۳۵۶ ..... امت کیلئے جو بات ابن مسعود کو پسند ہے وہ سر کا کو بھی پسند ہے

بالفرض براہین منع اور اولہ جمع برابر ہی سہی تاہم منع کو ترجیح رہے گی کہ اس میں احتیاط زائد ہے۔

۳۵۶

۳۶۲

وہ احادیث جن میں جمع صوری کا ذکر ہے۔  
ظہرین عرفہ وعشائین مزدلفہ کے سوا دو نمازوں کا قصد ایک وقت میں جمع کرنا سفر اُحضرا ہرگز کسی طرح جائز نہیں قرآن عظیم و احادیث صحاح اس پر شاہد عدل ہیں۔ اور یہی مذہب ہے اعظم صحابہ، اجلہ تابعین اور اکابر تبع تابعین کا۔  
جمع صوری کی وضاحت، بعد مرض و ضرورت سفر احناف کے نزدیک بھی اسکی رخصت ہے۔

۳۶۳

۳۶۴

۳۶۴

۳۶۵

۳۶۷

۳۶۸

۳۶۸

جمع حقیقی کی مراد اور ایک نکتہ نفسیہ۔  
جمع حقیقی کی اقسام جمع تقدیم و جمع تاخیر کی تعریفات اور حکم اور ان کے مفاسد۔  
جمع حقیقی کے باب میں اصلاً کوئی حدیث صحیح، صریح، مفسر وار نہیں۔  
حدیث جلیل سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعدد طرق کا ذکر۔  
امام لاندہاں کی خرافات، جہالات، تحریفات، اور خیانات کے چند لطائف۔  
لطیفہ اول۔  
میاں صاحب کا محمد بن فضیل کو ضعیف کہنا باطل ہے وہ ثقہ اور رجال صحیح و مسلم سے ہیں۔

۳۶۸

۳۶۸

۳۶۸

۳۶۹

۳۶۹

۳۶۹

۳۶۹

۳۶۹

۳۷۰

میاں صاحب کو یہ خبر نہیں کہ محاورات سلف و اصطلاح محدثین میں تشیع ورفض میں کتنا فرق ہے؟  
متقدمین و متاخرین کے نزدیک لفظ ”شیعہ“ کے معنی مختلف ہیں۔  
بخاری و مسلم کے تئیں سے زیادہ راوی ایسے ہیں جنہیں اصطلاح قداماء پر بلفظ تشیع ذکر کیا جاتا ہے۔  
لطیفہ دوم۔  
میاں صاحب کی ایک خیانت۔  
”فلان یغرب“ اور فلان غریب الحدیث“ میں فرق ہے۔



- ۳۷۰ ..... لطیفہ سوم
- ۳۷۰ ..... میاں صاحب کی اک تحریف شدید
- ۳۷۱ ..... لطیفہ چہارم
- ۳۷۱ ..... ”وہمی“ اور ”صدوق بیہم“ میں فرق ہے
- ۳۷۱ ..... لطیفہ پنجم
- ۳۷۲ ..... لطیفہ ششم
- ۳۷۲ ..... لطیفہ ہفتم
- ۳۷۲ ..... میاں صاحب کی خیانت
- ایک راوی مغیرہ بن زیاد کے بارے میں تقریب میں ”صدوق لہ اوہام“ تھا، میاں صاحب نے ”صدوق“ اڑا دیا اور ”لہ اوہام“ سے ”وہمی“ سمجھ لیا حالانکہ ان دونوں میں فرق ہے۔
- ۳۷۲ ..... بہت سے رجال بخاری و مسلم ہیں جن کو تقریب میں ”صدوق لہ اوہام“ کہا ہے
- ۳۷۲ ..... لطیفہ ہشتم
- ۳۷۳ ..... حدیث مرسل احناف و جمہور ائمہ کے نزدیک حجت ہے
- ۳۷۳ ..... وہ احادیث جن میں جمع صلاتین کو میاں صاحب اور شوکانی نے بھی جمع صوری مانا ہے۔
- ۳۷۸ ..... چند اور احادیث جو جمع صوری پر دال ہیں
- ۳۸۲ ..... سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل مبارکہ کی برکت
- میاں صاحب احادیث مذکورہ اور ان کے امثال کو صحیح مانتے ہیں لیکن بعض کو مجمل الکافیہ کہتے ہیں اس کا جواب
- ۳۸۵ ..... وہ روایات جنہیں میاں صاحب اپنے زعم میں صریح نص مفسرنا قابل تاویل سمجھتے ہیں صرف چار ہیں دو جمع تقدیم میں۔ دو جمع تاخیر میں
- ۳۸۶ ..... حدیث اول سے استدلال کا جواب
- ۳۸۷

- حدیث معلول کے لئے ضعف راوی ضرور نہیں بلکہ باوصف وثاقت وعدالت رواۃ
- ۳۸۸ ..... حدیث میں علت قاذحہ ہوتی ہے کہ اس کا رد واجب کرتی ہے
- ۳۸۸ ..... ابن حزم غیر مقلد خبیث اللسان نے سیدنا ابوالطفیل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدوح و مجروح بتایا جسے غیر مقلد شوکانی نے نقل کیا
- ۳۸۹ ..... اسی ابن حزم نے باجے حلال کرنے کے لئے بخاری کی صحیح و متصل حدیث کو بزعم تعلیق رد کیا۔ جس کا بیان امام نووی نے شرح مسلم میں کیا
- ۳۸۹ ..... حدیث دوم سے میاں صاحب کے استدلال کا چند وجوہ سے جواب
- ۳۹۰ ..... ”فا“ کیلئے ترتیب ذکر کافی ہے
- ۳۹۱ ..... عدم مہلت ہر جگہ اسکے لائق ہوتی ہے۔ اسکی مثال
- ۳۹۱ ..... ”لفظ ہاجرہ“ زوال سے عصر تک سارے وقت ظہر کو شامل ہے کما فی القاموس۔
- ..... شاہ ولی اللہ صاحب تصریح فرماتے ہیں کہ حدیث مروی بالمعنی کے ”فا“ اور ”واو“ وغیرہا سے استدلال درست نہیں
- ۳۹۱ ..... میاں صاحب کے استدلال کہ ”فا“ ترتیب بلا مہلت کیلئے ہوتا ہے“ کا ایک حدیث کے ذریعہ جواب
- ۳۹۱ ..... صحابہ کرام کے دل میں غسلہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و اہمیت۔
- ۳۹۳ ..... جمع تقدیم کے بارے میں دوسری چند احادیث کے جوابات
- ۳۹۴ ..... میاں صاحب کی تحریف کہ خود روایت صحیحین میں لفظ ”والعصر“ بڑھا دیا۔
- ۴۰۱ ..... لفظ ”جمیعا“ اجتماع فی الحکم پر دلالت کرتا ہے نہ اجتماع فی الوقت پر۔ اس پر آیت کریمہ سے استدلال
- ۴۰۱ ..... احادیث ابن عمر و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جمع تاخیر پر استدلال کے جوابات۔
- ۴۰۲ ..... جواب اول
- ۴۰۶ ..... قصہ صفیہ زوجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ہی بار ہوا
- ۴۰۶ ..... شک سے یقین کا معارضہ نہیں کیا جاسکتا
- ۴۰۷ ..... جواب دوم
- ۴۰۸ ..... جواب دوم



- عربی فارسی اردو سب کا محاورہ عامہ، شائعہ مشہورہ واضحہ ہے کہ قرب وقت کو اس وقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسکی چند مثالیں
- ۴۰۸ \_\_\_\_\_
- لفظ ”نعمہ عشاء“ کی تحقیق
- ۴۰۹ \_\_\_\_\_
- ”معنہ مدلس“ جمہور محدثین کے مذہب مختار میں مردود ہے
- ۴۱۱ \_\_\_\_\_
- ”مدلس“ کی وہ روایت جو ایسے لفظ سے ہو جس میں سماع کی تصریح نہ ہو مرسل ہے اور جسمیں سماع کی صراحت ہو جیسے سمعت، حدثنا، خبرنا وغیرہ وہ مقبول اور قابل استدلال ہے
- ۴۱۱ \_\_\_\_\_
- جواب سوم
- ۴۱۱ \_\_\_\_\_
- حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مذہب میں وقت مغرب شفق احمر تک ہے اور احناف کے نزدیک شفق ابیض تک ہے
- ۴۱۲ \_\_\_\_\_
- مذہب احناف اجلائے صحابہ، اکابر تابعین اور اعظم تبع تابعین، ائمہ لغت، اور بعض کبرائے شافعیہ سے بھی منقول ہے
- ۴۱۲ \_\_\_\_\_
- آیت کریمہ ”الذین ہم عن صلاتہم ساهون“ سے کون لوگ مراد ہیں۔
- ۴۱۳ \_\_\_\_\_
- نماز فجر وعصر کے بعد ممانعت نقل کی احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر ہیں
- ۴۱۶ \_\_\_\_\_
- سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے
- ۴۱۷ \_\_\_\_\_
- اذان
- خواب میں تلقین اذان کے بعد سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی
- ۴۱۹ \_\_\_\_\_
- اذان سن کر نماز کیلئے حاضر نہ ہونا ظلم ہے
- ۴۲۲ \_\_\_\_\_
- اذان و اقامت میں کتنا فاصلہ ہو
- ۴۲۳ \_\_\_\_\_
- ایک حدیث ضعیف میں آیا کہ بدھ اور ہفتہ کو کچھ نہ لگوانا مورث برص ہے اور اس بارے میں دو واقعات
- ۴۲۳ \_\_\_\_\_
- ایک حدیث ضعیف میں بدھ کے دن ناخن کتروانے کو مورث برص بتایا گیا

- ۴۲۴ ..... ہے اور اس بارے میں ایک واقعہ
- ۴۲۵ ..... ضعف حدیث اس کی غلطی واقعی کو مستلزم نہیں
- ۴۲۵ ..... عہد رسالت و شیخین میں اذان ثانی خطیب کے سامنے دروازہ مسجد پر ہوتی تھی حدیث حضرت سائب بن یزید حسن و صحیح ہے اور اسکے راوی محمد ابن اسحاق قابل
- ۴۲۵ ..... بھروسہ نہایت سچے اور امام ہیں
- ۴۲۵ ..... محمد ابن اسحاق کی تعدیل کے بارے میں تیس ائمہ کرام کے اقوال
- ..... امام بخاری نے محمد بن اسحاق کی جرح میں امام مالک کے قول کی صحت سے انکار کیا ہے اور حضرت علی سے ان کے بارے میں ہشام سے جو مروی ہے اس کا بھی انکار کیا ہے
- ۴۲۷ ..... امام ابن حبان نے محمد بن اسحاق کو ثقات میں شمار کیا اور فرمایا: امام مالک نے اسحاق کی جرح سے رجوع کیا
- ۴۲۸ ..... تقریب کے قول ”رمی بالتشیع“ کی بنیاد پر ابن اسحاق پر رفض کا عیب لگانا
- www.alahazratnetwork.org
- ۴۲۸ ..... بدبودار جہالت ہے
- ۴۲۸ ..... رفض و تشیع میں زمین و آسمان کا فرق ہے
- ۴۲۸ ..... لفظ ”شیعی“ اور رمی بالتشیع،، میں فرق ہے
- ۴۲۸ ..... لفظ ”رمی“ سے شبہ نکلتا ہے اور جرح میں شبہ کی کوئی اہمیت نہیں
- ..... اصول محدثین کی رو سے بدعتی بھی اپنے مذہب نامہ مذہب کا داعی و مبلغ نہ ہو تو اس کی روایت مقبول ہے
- ۴۲۸ ..... راوی جب روایت میں لفظ ”حدثنا“ بولے تو تدلیس وغیرہ کا احتمال نہیں۔
- ..... جب روایت میں ”عن“ کا استعمال ہو تو احتمال تدلیس ہوتا ہے مگر جب راوی ایسے شیخ سے روایت کرے جس سے وہ کثیر الروایت ہو تو روایت متصل ہوگی
- ۴۲۹ ..... احتاف، مالکیہ، حنابلہ اور جمہور علماء کے اصول پر جرح حدیث میں عنعنہ کا لحاظ نہیں
- ۴۲۹ ..... لحاظ نہیں

- ۴۲۹ جمہور کے نزدیک ارسال سند کا عیب نہیں اور حدیث مرسل مقبول ہے۔
- ۴۲۹ کیا ہے۔
- ۴۳۰ صحابہ کرام کی مراسیل باتفاق ائمہ مطلقاً مقبول ہیں۔
- غیر صحابہ کی مراسیل کو امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل مطلقاً مقبول رکھتے ہیں، ہاں ظاہر یہ اور ۲۰۰ھ کے بعد ہونے والے جمہور محدثین قبول نہیں کرتے۔
- ۴۳۰ فصول البدائع میں ہے ”ارسال اسباب طعن سے نہیں“۔
- امام ابوداؤد کے ہاتھ میں علم حدیث اس طرح نرم ہو گیا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے دست کریم میں لوہا۔
- سنن ابی داؤد کے بارے میں علماء کی شہادت ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو اس گھر میں گویا نبی ہے جو کلام کر رہا ہے۔
- ۴۳۰ امام ابوداؤد کا کسی حدیث پر سکوت اس کے حسن ہونے کی دلیل ہے۔
- حدیث سائب بن یزید کے بارے میں یہ کہنا جہالت ہے کہ اس کے الفاظ ”خطیب کے سامنے“ اور ”مسجد کے دروازے پر“ میں تناقض ہے۔
- ۴۳۱ حدیث مذکور کے بارے میں لوگوں کی ایک عجیب و غریب تاویل۔
- ۴۳۲ حدیث ہذا پر ایک اور بے وزن کلام۔
- ۴۳۲ اسی حدیث کے بارے میں ایک اور بے کار تاویل اور اسکا رد۔
- ۴۳۲ یہ کہنا کہ عہد رسالت میں منبر کے سامنے دروازہ تھا ہی نہیں غلط ہے۔
- ۴۳۲ ابواب مسجد نبوی کی تفصیل۔
- ۴۳۳ منبر کے سامنے دروازہ ہونے کا بخاری شریف کی حدیث سے ثبوت۔
- ۴۳۳ ایک قابل لحاظ امر۔
- ۴۳۳ حدیث سائب بن یزید ابوداؤد کے علاوہ جن کتابوں میں ہے ان کے نام۔
- ”بین ید یہ“ کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ اذان ثانی خطیب کے سامنے



- ۴۳۳ منبر کے آگے مواجہ میں ہو۔
- ۴۳۴ ”بین ید یہ“ سمت مقابل میں منتہائے جہت تک صادق ہے۔
- نص سے جدا، تصریحات فقہ کے خلاف کسی بات کا ہندیوں میں رواج پا جانا کوئی حجت نہیں۔
- ۴۳۴ بریلی شریف میں اذان ثانی میں طریقہ مسنون کا احیاء اعلیٰ حضرت کے ذریعہ ہوا
- اگر بانی نے مسجد بناتے وقت تمامیت مسجد سے پہلے اذان کیلئے منارہ یا کوئی محل مرتفع بنایا تو یہ جائز ہے اور یہاں اذان دینے کو تاذین فی المسجد کی کراہت عارض نہ ہوگی۔
- ۴۳۵ یہ عرف شائع ہے کہ متعلقات مسجد میں اذان ہونے کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ
- ۴۳۵ فلاں مسجد میں اذان ہوگئی۔
- حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے کبھی منقول نہیں کہ مسجد کے اندر اذان دلوائی ہو۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیان جواز کیلئے کبھی ایسا ضرور فرماتے۔
- ۴۳۵ اذان میں نام اقدس سکر تقبیل ابہامین پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرمودہ عظیم فائدہ۔
- ۴۳۶ تقبیل ابہامین کے سلسلہ میں خواجہ شمس الدین بخاری کا بیان کردہ فائدہ۔
- ۴۳۷ تقبیل ابہامین سنت صدیقی ہے۔
- ۴۳۷ تقبیل ابہامین پر مژدہ شفاعت۔
- ۴۳۷ تقبیل ابہامین کے بارے میں سیدنا حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روایت
- ۴۳۸ کسی فعل کے منع پر دلیل شرعی نہ ہونا اس کے جواز کی دلیل ہے۔
- ۴۳۸ متمسک باصل محتاج دلیل نہیں۔
- ۴۳۸ کتب فقہ میں تقبیل ابہامین کے استحباب کی صاف تصریح ہے۔
- ۴۳۸ احادیث تقبیل کا درجہ۔
- ۴۳۹ کسی حدیث کی نفی صحت، نفی حسن کو بھی مستلزم نہیں۔

- ۴۳۹ ..... ائمہ فتن صراحت کرتے ہیں کہ کثرت طرق ذریعہ جبر نقصان ہے
- ۴۳۹ ..... عمل علماء و قبول قدماء سے حدیث ضعیف میں قوت پیدا ہو جاتی ہے
- ۴۳۹ ..... فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بالا جماع مقبول ہے
- جس فعل میں کسی حکم شرعی کا ازالہ نہ ہو، نہ کسی سنت ثابتہ کا خلاف اور نفع حاصل ہو تو منع باطل
- ۴۳۹ .....

## فضائل اذان

- ۴۴۱ ..... مقام روحانیہ منورہ سے ۳۶ میل کے فاصلہ پر ہے
- ۴۴۲ ..... حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے تھے
- ۴۴۲ ..... ہندوستان میں سب سے پہلے حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی
- ۴۴۲ ..... اذان کا دافع غم ہونا حضرت مولیٰ علی اور دیگر بزرگوں کا مجرب ہے
- محض بہ نیت ثواب اذان دینے والے کا جسم قبر میں خراب نہیں ہوتا اور وہ
- قیامت میں معزز ہوگا
- ۴۴۵ ..... [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۴۴۵ ..... مغفور کی دعا زیادہ قابل قبول و اقرب باجابت ہے

## فضائل نماز

- ۴۴۷ ..... براق نجر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا
- شب معراج حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس نبی سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی؟
- ۴۴۷ ..... بیت المعمور میں ہر دن ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں
- ۴۴۸ ..... سدرۃ المنتہی کے اوصاف
- ۴۴۸ ..... پانچ نمازوں پر پچاس کا ثواب ملتا ہے
- ۴۴۹ ..... حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات سال کچھ ماہ پوشیدہ نماز پڑھتے رہے
- ۴۵۲ ..... نماز عشاء امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے
- ۴۵۲ ..... پانچوں نمازوں کا مجموعہ اس امت کے ساتھ خاص ہے



- ۴۵۴ ..... بے نمازی کے بارے میں صحابہ کرام کے ارشادات
- ۴۵۷ ..... تارک صلوٰۃ کے بارے میں صحابہ کے قول تکفیر کی تاویلات
- ۴۵۷ ..... بے نمازی کیلئے ائمہ اربعہ کی بیان کردہ سزائیں
- ۴۵۷ ..... یہاں اس کے ساتھ کھانا پینا، میل جول، سلام کلام ترک کریں کہ یوں ہی زجر ہو
- ۴۵۷ ..... بنظر زجر بے نمازی کی عیادت نہ کرنے میں مضائقہ نہیں
- ۴۶۱ ..... نماز فجر باجماعت پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے
- ۴۶۲ ..... بے عذر وقت اقامت تک مسجد میں حاضر نہ ہونا جرم قبیح ہے
- ۴۶۳ ..... ایجاب اجابت تا وقت اقامت موسع ہے
- ..... امام معین اور مسجد سے اتنا قریب رہنے والا کہ آواز اقامت اس سے مخفی نہ رہے
- ..... گی ان کے علاوہ نمازیوں کو اس وقت تک تاخیر واجب تک تفویت جماعت کا
- ۴۶۳ ..... خوف نہ ہو
- ..... جو نماز غیر وقت میں بغیر کامل وضو و خشوع اور کامل رکوع و سجود کے بغیر
- ۴۶۴ ..... پڑھی جائے وہ نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے
- ..... اس قدر یقیناً معلوم ہے کہ معراج مبارک سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
- ۴۶۵ ..... علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نمازیں پڑھتے تھے
- ۴۶۵ ..... حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قبل معراج نماز شب فرض تھی
- ۴۶۵ ..... جس وقت نبوت کریمہ ظاہر ہوئی اسی وقت آپ نے نماز پڑھی
- ..... حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ظہور نبوت ہی کے دن بہ تعلیم اقدس نماز
- ۴۶۵ ..... پڑھی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے دوسرے دن
- ۴۶۵ ..... ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے
- ۴۶۵ ..... قبل معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے؟
- ..... ایک نماز کو یہاں تک مؤخر کرنا کہ دوسری کا وقت آجائے گناہ ہے یہ حدیث
- ۴۶۶ ..... صریح سے ثابت ہے

### شرائط اور ارکان نماز

- حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کے پیچھے قرات نہ کی نہ پہلی دو  
میں اور نہ انکے غیر میں۔ ۴۶۶
- حضرت عبداللہ بن مسعود کے فضائل۔ ۴۶۹
- ممانعت قرات خلف الامام میں حدیث حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ  
درجہ صحاح میں سے ہے۔ ۴۷۰
- حضرت علقمہ بن قیس جو کبار تابعین، اعظم مجتہدین میں سے ہیں امام کے پیچھے  
ایک حرف قرات نہ کرتے۔ ۴۷۱
- سب سے پہلے جس نے خلف امام قرات کی وہ ایک مرد متہم بے اعتبار آدمی تھا۔ ۴۷۲
- ممانعت قرات خلف الامام میں احادیث نافع بن عمر غایت درجہ کی صحیح الاسناد ہیں۔ ۴۷۲
- حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ”مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے۔“۔ ۴۷۳
- حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں  
کا قول ہے کہ ”جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔“۔ ۴۷۴
- قرات خلف الامام کا عدم جواز احادیث صحیحہ معتبرہ سے ثابت ہے۔ ۴۷۴
- قرات خلف الامام کے بارے میں تمسکات شافعیہ کے جوابات۔ ۴۷۵
- حدیث صحیحین ”لا صلوة الا بفاتحة الكتاب“ کا جواب۔ ۴۷۵
- حدیث حضرت عبادہ بن صامت ”لا تفعلوا الا بام الكتاب“ کا جواب۔ ۴۷۶
- بحمد اللہ مذہب حنفی حج کافیہ سے ثابت، اور مخالفین کے پاس کوئی دلیل قاطع نہیں  
کہ انہیں معاذ اللہ باطل یا مضحک کر سکے۔ ۴۷۶
- لقمہ دینے کی بعض صورتیں جن میں لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ۴۷۹
- نماز کے کمال و نقص کی صورت میں اتنی پڑھی جائے کہ کامل و زائد میں شک  
ہو جائے اس کی مثال اور حکمت۔ ۴۸۰
- یہ چیزیں خدائے تعالیٰ کو ناپسند ہیں نماز میں کھیل کرنا، بعد صدقہ احسان جتنا نا،  
روزے میں فحش گوئی، قبرستان میں ہنسنا، بحالت جنابت دخول مسجد، بے اجازت  
کسی کے گھر میں نظر ڈالنا۔ ۴۸۱

۴۸۲ ..... ”سیمام فی وجوہہم من اثر السجود“ کا کیا مطلب ہے۔

### سنن و آداب نماز

۴۸۴ ..... جب دو مختلف احادیث میں کسی کی قبلیت کا علم نہ ہو تو ایک کو ترجیح ہوگی

۴۸۴ ..... ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا تعظیم کا معروف طریقہ ہے۔

۴۸۴ ..... مردوں کی صفت اول افضل ہے اور عورتوں کی آخری

۴۸۴ ..... تعظیم ادب کے بغیر، اور ادب حیاء کے بغیر حاصل نہیں

۴۸۴ ..... بہتر عمل وہ ہے جس میں مشقت ہو۔

۴۸۵ ..... شوافع کے نزدیک عورت شکم پر ہاتھ باندھے گی

۴۸۶ ..... تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا شیطان پر دھاردار ہتھیار سے زیادہ سخت ہے۔

۴۸۶ ..... تشہد میں اشارہ بالسبابہ کے بارے میں احادیث و آثار بکثرت وارد ہیں۔

۴۸۶ ..... ہمارے محققین کا یہی مذہب صحیح و معتمد علیہ ہے۔

۴۸۶ ..... اس مسئلہ میں ہمارے ائمہ ثلاثہ سے روایات وارد ہیں۔

جس نے امام اعظم سے مسئلہ ہذا کے متعلق عدم روایت یا روایت عدم کا زعم کیا

۴۸۶ ..... محض ناواقفی یا خطائے بشری پر مبنی ہے۔

۴۸۸ ..... اصول کا قاعدہ متفق علیہا ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص سبب کا۔

۴۸۸ ..... حاضر مبیح پر مقدم ہوتا ہے۔

۴۸۸ ..... رفع یدین کے معاملہ میں ہمارے ائمہ کا عمل حدیث ترک پر ہے۔

۴۸۹ ..... رفع یدین کسی کے نزدیک واجب نہیں غایت درجہ ایک امر مستحب ٹھہرے گا۔

۴۹۲ ..... صلاة فی النعال میں خلاصہ تحقیق

۴۹۲ ..... کچھ احکام اختلاف زمانہ سے بدل جاتے ہیں۔

تراویح میں جہر بسملہ کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر کہنا افتراء

۴۹۷ ..... ہے۔

۴۹۷ ..... تراویح میں جہر بسملہ احاد سے بھی ثابت نہیں۔

امام دارقطنی کا اعتراف کہ دربارہ جہر بسملہ جو کچھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم



- ۴۹۸ ..... سے روایت کیا گیا اس میں کچھ صحیح نہیں
- ۴۹۸ ..... جہر بسملہ سے متعلق احادیث کے بارے میں ائمہ دین کے اقوال
- ..... امام عینی کا ارشاد، حدیث اخفائے بسملہ صحیح و صریح اور صحاح و مسانید و سنن
- ۴۹۹ ..... مشہورہ میں ثابت ہے اور احادیث جہر میں کوئی صحیح و صریح نہیں
- ۴۹۹ ..... آدمی جو لباس پہن کر گھر سے باہر جانا پسند نہیں کرتا اس میں نماز پڑھنا
- ۵۰۰ ..... حدیث تطبیق کے بارے میں تحقیق

### مساجد

- ۵۰۵ ..... صفائی مسجد کا حکم
- ..... دنہ جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کا فدیہ ہوا اس کے سینک کعبہ معظمہ کی غربی
- ۵۰۵ ..... دیوار میں لگے ہوئے تھے
- ۵۰۵ ..... مساجد میں زینت ظاہری کے احکام
- ۵۰۵ ..... حدیث میں مباہات فی المساجد کو اشرط ساعت سے شمار فرمایا گیا
- ۵۰۸ ..... ملائکہ علیہم السلام بھی اس سے ایذا پاتے ہیں جس سے انسان تکلیف پاتے ہیں
- ..... مسجد میں مٹی کا تیل جلانا، دیا سلائی جلانا حرام ہیں کچا گوشت پہونچانا بھی جائز
- ۵۰۸ ..... نہیں
- ..... جہاں سے مسجد میں بو پہونچے وہاں تک ان چیزوں کے استعمال سے ممانعت
- ۵۰۸ ..... ہوگی
- ۵۰۸ ..... مسجد خالی ہو تب بھی اس میں کسی بو کا داخل کرنا درست نہیں
- ..... حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ مسجد
- ۵۰۹ ..... میں دنیا کی باتیں کریں گے اللہ عز و جل کو ان سے کچھ کام نہیں
- ۵۰۹ ..... مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے کی مذمت میں ائمہ دین کے اقوال
- ۵۱۱ ..... مساجد کی اچھی تعمیر کا کیا مطلب ہے
- ۵۱۵ ..... ترک سنت موکدہ کو شعار بنالینا گمراہی ہے
- ..... زمین کے جس ٹکڑے پر نماز پڑھی گئی یا ذکر الہی کیا گیا اسے دوسرا ٹکڑا جسے یہ

- ۵۱۸ ..... بات حاصل نہیں اپنے سے افضل سمجھتا ہے
- ۵۱۹ ..... حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پانچ خصائص
- ۵۲۰ ..... حضرت عثمان بن مالک بدری نے حصول برکت کیلئے مسجد البیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز پڑھوائی
- ۵۲۳ ..... حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر بیت المقدس سے فارغ ہو کر تین دعائیں کیں
- ۵۲۴ ..... عہد رسالت میں مساجد کیلئے برج و گنگرے نہ تھے
- ۵۲۴ ..... تغیر زمانہ سے قلوب عوام تعظیم باطن پر تنبیہ کیلئے تعظیم ظاہر کے محتاج ہو گئے
- ۵۲۴ ..... مساجد کیلئے مینار بنانے کے منافع
- ۵۲۷ ..... مزار اطہر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احاطہ میں مخفی رکھے جانے کی حکمت
- ۵۳۱ ..... یہود و نصاریٰ کے قبور انبیاء کو محل سجدہ ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟
- ۵۳۲ ..... علماء نے فرمایا: یہودیت سے نصرانیت بدتر ہے کہ نصاریٰ کا خلاف توحید میں ہے اور یہود کا صرف رسالت میں
- ۵۳۴ ..... مستامن کیلئے دخول مسجد کے جواز پر اعلیٰ حضرت کا قرآن حکیم سے استنباط
- ۵۳۴ ..... ذمی کا مسجد میں جانا جائز ہے
- ۵۳۴ ..... مستامن جب تک دارالاسلام میں ہے بمنزلہ ذمی ہے
- ۵۳۵ ..... امام بدرالدین عینی وغیرہ اکابر کی روایت ہے کہ مذہب امام ابوحنیفہ میں ذمیوں میں بھی دخول مسجد کا جواز صرف کتابی کیلئے ہے
- ۵۳۵ ..... حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اصولی بحث
- ۵۳۵ ..... مشرکوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے

### امامت

- ۵۳۹ ..... بہتر شخص کے امام ہونے کی صورت میں قبول نماز کی زیادہ امید ہے
- ۵۳۹ ..... امام مقتدیوں اور رب کے درمیان قبولیت نماز کا وسیلہ ہے



- ۵۴۱ ..... تین لوگوں کی نماز مقبول نہیں
- ۵۴۲ ..... تین لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے
- ۵۴۳ ..... ”صلوا خلف کل برو فاجر“ کی توضیح
- ..... حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رمضان المبارک میں عورتوں کی امامت
- ۵۴۵ ..... فرماتیں

### جماعت

- ..... نماز فجر باجماعت پڑھنا اس سے افضل ہے کہ پوری رات عبادت کی جائے
- ۵۴۶ ..... اور جماعت فجر ترک ہو
- ..... حدیث ”لقد هممت ان امر رجلا یصلی بالناس الخ“ سے بعض
- ۵۴۹ ..... محدثین کا عدم وجوب جماعت ثابت کرنا اور اس کا جواب

### صفوف

- ۵۵۵ ..... ملائکہ اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟
- ۵۵۵ ..... حضور اقدس ﷺ کی بے مثال بینائی
- ۵۵۸ ..... ارشاد اقدس ”مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ“ کا کیا مطلب ہے
- ۵۵۸ ..... صفیں سیدھی نہ کرنا دلوں میں اختلاف پیدا ہونے کا سبب ہے
- ۵۵۹ ..... امام کو صفوں پر توجہ دینا چاہیے
- ۵۵۹ ..... صف میں خلل دیکھ کر بندہ نہ کرنے والا مستحق حرمت نہیں
- ۵۶۰ ..... جو صفوں کو ملاتے ہیں فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں

### سترہ

- ..... نمازی مرد گزرنے والے کو بذریعہ تسبیح اور عورت ہاتھ پر ہاتھ مار کر دفع
- ۵۶۷ ..... کرے

### مساجد سے متعلق

بعض چیزوں میں یہ امر جہالت پر مبنی ہوگا کہ اس چیز کے ساتھ استدلال کیا جائے جو صدر اول میں تھی

۵۶۹

۵۶۹

۵۷۰

۵۷۱

۵۷۱

۵۷۱

۵۷۲

۵۷۲

۵۷۲

۵۷۲

۵۷۳

- بہت سے احکام اختلاف زمانہ سے مختلف ہو جاتے ہیں
- حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک پیارا طریقہ
- مسجد میں عورتوں کی حاضری کے بارے میں تحقیق
- عورت سراپا شرم کی چیز ہے
- عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر نگاہ ڈالتا ہے
- حضرت ابن عمر جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکالتے تھے
- شریعت جلب مصلحت پر سلب مفسدہ کو مقدم رکھتی ہے
- مزارات پر عورتوں کی حاضری سے متعلق امام قاضی خاں کا فتویٰ
- حضرت عائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ
- عورت کیسی ہی صالحہ ہو لیکن فاسق مردوں کی طرف سے اس پر خوف کا کیا علاج؟

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

وہ

جو آیات ذکر و ثنا و دعا ہوں ان کا صرف بہ نیت ذکر و دعا پڑھنا جب، حائضہ

۵۷۶

۵۷۷

۵۷۹

۵۷۹

۵۷۹

۵۷۹

- اور نفساء سب کو جائز ہے
- نماز صبح میں قنوت وقت مصیبت کے ساتھ خاص ہے
- احادیث قنوت فجر صریح نوازل میں وارد اور دیگران پر محمول
- قنوت فجر سے متعلق احناف و شوافع کے اختلاف کی نوعیت
- دفع طاعون و وبا کیلئے نماز فجر میں قنوت پڑھنا بلاشبہ مشروع ہے
- تحقیق یہ ہیکہ قنوت فجر کی دوسری رکعت میں بعد قرأت قبل رکوع پڑھی جائیگی۔

## نوافل

۵۸۰

۵۸۳

- نماز نفل دو دو رکعت ہے
- کسی فعل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احیاناً ترک کرنا منافی سنت و استحباب نہیں بلکہ اس کا مقرر و موکد ہے

- اہل بدعت کا خلاف ان کی بدعت یا شعار خاص میں کیا جائے۔ نہ یہ کہ اپنے  
 ۵۸۴ مذہب کا کوئی امر خیر ان کے اختیار کرنیکی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔
- ۵۸۵ معمول کا خلاف کرنا شہرت و مکروہ ہے۔
- ۵۸۶ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نوافل میں سب سے زیادہ سنت فجر کی حفاظت فرماتے۔
- ۵۸۸ حدیث قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ائمہ کرام کے ارشادات جس میں بعد جماعت فجر قبل طلوع سنت فجر پڑھنے کی اجازت منقول ہے بعد جماعت قبل طلوع سنت فجر پڑھنے کی ممانعت احادیث صحیحہ کثیرہ سے ثابت ہے۔
- ۵۸۹ یہ قاعدہ مسلم ہے کہ ”جب دلائل حلت و حرمت متعارض ہوں حرمت و ممانعت کو ترجیح ہوگی۔“
- ۵۹۱ حضور اقدس بیٹھ کر نفل پڑھیں تب بھی آپ کیلئے کامل و اکمل ثواب ہے۔
- ۵۹۳ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد اقدس ”حضور کا خلق قرآن مجید کے مطابق تھا۔“
- ۵۹۳ ابتدا میں قیام لیل فرض تھا۔ ایک سال تک یہ رہا پھر تخفیف ہو گئی۔
- ۵۹۴ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز وتر کے بارے میں حضرت صدیقہ کا بیان۔
- ۵۹۴ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر مداومت فرماتے۔
- ۵۹۴ حضرت صدیقہ کا ارشاد ”میرے علم میں نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ایک رات میں قرآن عظیم ختم کیا ہو، نہ یہ کہ پوری رات عبادت میں گزاری ہو، نہ یہ کہ پورے ماہ روزے رکھے ہوں رمضان کے علاوہ۔“
- ۵۹۶ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہدایت نشان اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تائید۔



- آخری وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کہ وہ اہل جنت و اہل نار کے تذکرے کے وقت کیا کہیں۔۔۔۔۔ ۵۹۷
- بندہ محض اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر بھروسہ نہ کرے اور اسکی رحمت سے ناامید بھی نہ ہو۔ نصیحت حضرت صدیق اکبر۔۔۔۔۔ ۵۹۷

## قیام لیل

- فرشتہ تلاوت کرنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔۔۔۔۔ ۶۰۳
- قیام لیل کی وجہ سے پائے اقدس پر ورم آ جاتا۔۔۔۔۔ ۶۰۳
- حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ”رات میں طول قیام کی وجہ سے پائے اقدس میں شگاف آ جاتا“۔۔۔۔۔ ۶۰۴
- شب میں نماز پڑھے خواہ مختصر ہی ہو۔۔۔۔۔ ۶۰۴
- صلاۃ لیل میں حضرت شیخین کے مختلف طریقے اور ان کے بارے میں دونوں حضرات کا بیان۔۔۔۔۔ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org) ۶۰۷
- نیند سے وضو نہ ٹوٹنا یہ خصوصیت رسول امت کی بہ نسبت ہے۔۔۔۔۔ ۶۰۸
- قائم اللیل کو اس کا ترک اچھا نہیں ہے۔۔۔۔۔ ۶۰۹
- حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی اور وصال بھی اسی دن۔۔۔۔۔ ۶۱۰
- زمین انبیاء کرام کے جسموں کو نہیں کھاتی۔۔۔۔۔ ۶۱۰
- حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنت میں داخلہ، اور وہاں سے نزول سب جمعہ کے دن ہو۔۔۔۔۔ ۶۱۱
- جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اس میں بندہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جبکہ حرام کا سوال نہ ہو۔۔۔۔۔ ۶۱۲
- جمعہ کے دن درود کی کثرت کرنی چاہئے۔۔۔۔۔ ۶۱۳
- حدیث مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ”جمعہ اور تشریق مصر جامع ہی میں درست ہیں“ صحیح ہے۔۔۔۔۔ ۶۱۳
- مصر کی تعریف۔۔۔۔۔ ۶۱۴

- ۶۱۴ ..... خطبہ جمعہ کے دوران کسی کا دوسرے کو نصیحت کرنا بھی ممنوع ہے۔
- ۶۱۵ ..... خطبہ جمعہ کے دوران بات کرنے والے کی مذمت۔
- ۶۱۶ ..... حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تسامح
- ..... احناف کے نزدیک یہ سنت نہیں کہ امام جب منبر پر جائے تو قبل خطبہ لوگوں کو سلام کرے۔
- ۶۱۷ ..... قاعدہ ہے کہ ”کسی معین و خاص واقعہ سے حکم عام ثابت نہیں۔“

### عیدین

- ..... حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بکری کے بچہ کی قربانی کی اجازت دیدی۔
- ۶۲۰ ..... حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد عید خطبہ میں صدقہ کا حکم فرماتے اور صدقہ وصول کیا جاتا۔
- ۶۲۰ ..... حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ نماز عید کا سلام پھیر کر کچھ دیر کے بعد خطبہ شروع فرماتے۔
- ۶۲۱ ..... خود رب العزت جل و علا بعد نماز عید مسلمانوں سے دعا کا تقاضا فرماتا ہے۔

### نماز کسوف

- ..... سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت سے گہن نہیں ہوتے۔
- ۶۲۱ ..... حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔
- ۶۲۱ ..... آنکڑے کے ذریعہ حاجیوں کی چوری کرنے والے کا عذاب
- ۶۲۷ ..... ایک عورت اس لئے مستحق جہنم ہوئی کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا، نہ اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔

### نماز استسقاء



- ۶۳۰ نماز استسقاء کے بعد دعا میں ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف رہے۔۔۔۔۔
- ۶۳۰ استسقاء میں قلب ردا اور دعا میں پشت دست جانب آسمان رکھنے کی حکمت۔۔۔۔۔
- ۶۳۰ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا مسنون ہے اور اسکی حکمت۔۔۔۔۔

### سہو

- ۶۳۲ امام نے اچھا کام کیا تو اس کا ثواب امام و مقتدی دونوں کو ملے گا۔۔۔۔۔
- حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ”لیس علی من خلف الامام سہو“ کا کیا مطلب ہے؟۔۔۔۔۔
- ۶۳۳ تعداد رکعات میں شک ہونے کی صورت میں یقین پر بنا کرے۔۔۔۔۔
- ۶۳۳ سہو کے دو سجدے شیطان کی ذلت و خواری کا سبب ہوتے ہیں۔۔۔۔۔

### مکروہات

- ۶۳۴ صرف پا جامہ پہن کر نما پڑھنے کی ممانعت ہے۔۔۔۔۔
- ۶۳۵ رکوع و سجدہ میں جاتے ہوئے بال اور کپڑوں کو میلنا منوع ہے۔۔۔۔۔
- ۶۳۶ محراب و در میں قیام کی ممانعت امام سے متعلق ہے۔۔۔۔۔
- ۶۳۶ امام کا محراب و در میں کھڑا ہونا کیوں مکروہ ہے؟۔۔۔۔۔
- نمازی پر واجب ہے کہ معظمین کے سامنے کھڑے ہونے میں جس بات میں ان کی تعظیم جانتا ہے وہی ادب اپنی جانب قبلہ میں ملحوظ رکھے۔۔۔۔۔
- ۶۳۸ نماز و دعا میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے پر وعید۔۔۔۔۔

### عمامہ

- ۶۳۹ عمامے عرب کے تاج ہیں۔۔۔۔۔
- ۶۴۰ عمامے مسلمانوں کے تاج ہیں۔۔۔۔۔
- ۶۴۰ عمامہ باندھنا زیادتِ حلم کا سبب ہے۔۔۔۔۔
- ۶۴۱ ملائکہ بھی عمامے باندھتے ہیں۔۔۔۔۔
- حضور اقدس نے اپنے دست انور سے حضرت علی کے سر پر عمامہ باندھا تو۔۔۔۔۔

شملہ پیچھے کی جانب چھوڑا دوسری روایت میں ہے آ منے سامنے دونوں

۶۴۲

طرف چھوڑا

۶۴۲

یہود و نصاریٰ عمامہ نہیں باندھتے

۶۴۳

جمعہ کے روز عمامہ والوں پر اللہ عز و جل اور اسکے فرشتے درود بھیجتے ہیں

حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ”فاذا حل قله بكل حطه خطیئة“ کا کیا

۶۴۳

مطلب؟ اور حدیث ہذا کی حیثیت

۶۴۵

عمامہ باندھنے والے سے شیطان پٹھ پھیرتا ہے

۶۴۵

عمامہ کے بارے میں حدیث سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق

حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حدیث سالم کو موضوع کہنے پر

۶۴۵

کلام

۶۵۲

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ”ساقی بعد میں پیتا ہے“

KLKCLKLK  
KLKCLKLK  
KLKCLK

# فہرست مسائل ضمنیہ جلد دوم

## کتاب الجنائز

### موت

- جوزع میں ہے وہ مجازا مردہ ہے، اسے کلمہ اسلام سکھانے کی حاجت کہ  
 خاتمہ کلمہ پر ہو اور فریب شیطان میں نہ آئے ..... ۵
- جو دفن ہو چکا حقیقتہ مردہ ہے اسے بھی کلمہ پاک سکھانے کی حاجت کہ جواب  
 یاد ہو جائے ..... ۵
- کلمات اذان جواب نکرین بتاتے ہیں اسکی تفصیل ..... ۵
- حدیث پاک ”لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ“ حدیث صحیح متواتر ہے ..... ۶
- جمعہ کی رات یادن میں انتقال کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ..... ۷
- جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نگاہ پیچھے پیچھے سے دیکھتی جاتی ہے ..... ۷
- جس مسلمان کے تین بچے نابالغی میں مریں گے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں  
 داخل فرمائے گا ..... ۸
- کچا بچہ بھی اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا ..... ۹
- جب مسلمان اپنے بچہ کے مرنے پر صبر و شکر کرتا ہے تو اس کیلئے جنت میں گھر  
 بنایا جاتا ہے اور اس کا نام ”بیت الحمد“ رکھا جاتا ہے ..... ۹

### تجہیز و تکفین و تدفین

- سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے کفن کیلئے اپنا  
 تہبند دیا اور اسکو ان کے بدن سے متصل رکھنے کی تاکید فرمائی ..... ۱۱
- روز جمعہ پیش از جمعہ جنازہ تیار ہو گیا تو جماعت کثیرہ کے انتظار میں دیر نہ  
 کریں ..... ۱۲

- ۱۲ ..... بعد جمعہ دفن کرنے کے بارے میں جہاں کے من گڑبٹ فائدے
- ۱۳ ..... چلا کر رونے، وصیت میں تاخیر اور قطع رحم سے میت کو ایذا پہنچتی ہے
- مردے کو برے ہمسائے سے علاحدہ رکھو یعنی قبور کفار و اہل بدعت و فسق کے
- ۱۳ ..... پاس دفن نہ کرو
- حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازہ کے پیچھے چلتے ہوئے ”لا الہ الا اللہ“
- ۱۴ ..... پڑھتے
- دفن کے وقت یہ دعا کریں ”الہی اسے عذاب قبر و عذاب دوزخ اور شیطان کے
- شر سے پناہ دے
- ۱۵ ..... قبل موت حضرت عمرو ابن عاص کی اپنے بیٹے کو وصیت
- ۱۵ ..... ایک صحابی رسول نے اپنے کفن کیلئے آپ سے تہبند طلب کیا۔ اور اسی میں کفن
- دئے گئے
- ۱۶ ..... ابن ابی منافق کے کفن کیلئے حضور نے اپنی قمیص دی اسکی حکمتیں
- ۱۸ ..... وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد دفن قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے
- ۱۹ ..... بعد دفن دعا سنت ہے
- ۲۰ ..... دعا بعد دفن کی ایک حکمت
- ۲۰ ..... دعا سنت سے ثابت ہے اور اذان بھی دعا ہے لہذا وہ بھی اسی سنت ثابتہ کا ایک
- ۲۰ ..... فرد ہے
- ۲۰ ..... ملا علی قاری فرماتے ہیں: ہر دعا ذکر ہے اور ہر ذکر دعا ہے
- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حمد الہی اور خاص کلمہ ”اللہ اکبر“ کو دعا
- ۲۱ ..... فرمایا
- ۲۲ ..... زندوں کی طرح مردے بھی اپنے بدکار پڑوسی سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔
- ہر انسان کی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا اور اسی میں
- ۲۲ ..... دفن ہوتا ہے
- ۲۲ ..... حضور کا ارشاد ہے کہ ”میں اور ابو بکر و عمر ایک مٹی سے بنے، اسی میں دفن ہونگے۔“



۲۵

۲۷

۲۹

३०

३०

MI

31

۴۴

۴۴

۳۴

54

۳۷

FA

۳۹

۴۰



- شوکانی کا قول ”صلاۃ بمعنی نماز حقیقت شرعیہ ہے اور بلا دلیل حقیقت سے عدول  
 ۴۰ نا جائز ہے“ (لہذا حدیث میں صلی علیہ سے دعا مراد نہیں لے سکتے) اس کا رد۔۔۔
- ۴۰ حقیقت شرعیہ صلاۃ بمعنی ارکان مخصوصہ ہے۔ یہ معنی نماز جنازہ میں نہیں ہیں۔۔۔
- ۴۰ تحقیق یہ ہے کہ نماز جنازہ دعائے مطلق اور صلاۃ مطلقہ میں برزخ ہے۔۔۔
- ۴۰ امام عینی نے تصریح فرمائی نماز جنازہ پر اطلاق صلاۃ مجاز ہے۔۔۔
- صلاۃ کے ساتھ جب ”علی فلاں“ مذکور ہو تو ہرگز اس سے حقیقت شرعیہ مراد نہیں  
 ۴۱ ہوتی اسکی چندا مثلاً۔۔۔
- ۴۲ نماز جنازہ اسلام میں مدینہ طیبہ میں شروع ہوئی۔۔۔
- بعد ہجرت سب سے پہلے صحابی رسول اسعد بن زرارہ کا وصال ہوا اور سب سے  
 ۴۲ پہلے آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔۔۔
- حضرت خدیجہ کا وصال دس نبوی میں ہوا اور حجوں میں دفن ہوئیں۔ اس وقت نماز  
 ۴۳ جنازہ نہیں تھی۔۔۔
- ۴۳ نماز جنازہ میں صرف سات آدمی ہوں تو کتنی عظیم بنائیں اور کس طرح؟۔۔۔
- حضرت مالک ابن ہبیرہ جب جنازے میں لوگوں کی تعداد کم دیکھتے تو ان کو تین  
 ۴۴ صفوں میں تقسیم فرما دیتے۔۔۔
- نماز جنازہ میں چھ مقتدی ہوں تو تین اول میں دو ثانی میں ایک تیسری میں کھڑا ہو  
 ۴۴ اور اسکی حکمت۔۔۔
- ۴۶ نماز جنازہ میں عندالشرع لوگوں کی کثرت مطلوب ہے۔۔۔
- جنتی آدمی کے جنازے کو کاندھا دینے والے، نماز جنازہ پڑھنے والے بخشدائے  
 ۴۶ جاتے ہیں۔۔۔
- ۴۷ عالم برزخ میں مومن کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟۔۔۔
- مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا  
 ۵۰ جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔۔۔
- حضور کی نماز جنازہ اس طرح پڑھی گئی کہ لوگ گروہ درگروہ آتے اور آپ پر صلوٰۃ

## نماز جنازہ کی دعائیں

حضرت ابن عمر جب ایک قبر کی مٹی برابر کرنے لگے تو آپ نے یہ دعا بھی پڑھی  
 الہی اسکو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ

۶۱

## زیارت قبور

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف  
 لجاتے سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی  
 یہی طریقہ تھا

۶۳

قبر اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت ابویوب انصاری کو منہ رکھے  
 ہوئے دیکھ کر مروان کا اعتراض اور ان کا جواب

۶۴

قبر سے جدا ہو کر تعظیم روح کی برکت لینا صحابہ کرام کی سنت ہے  
 ارشاد رسول ”مردے سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے“ کا کیا مطلب ہے؟

۶۵

زندوں نے کلام اموات سنا، اس کے چند واقعات  
 جمعہ کے دن اور اس سے پہلے اور بعد والے دن میں اموات کے علم و ادراک کو  
 وسعت دیجاتی ہے

۶۷

حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت نزع اپنے بیٹے حضرت عبداللہ  
 کو وصیت

۶۸

حدیث صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اہل قبور کے دیکھنے اور سننے پر استدلال۔  
 حدیث پاک میں قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت اس صورت سے متعلق  
 ہے کہ محض عبث بلا فائدہ قبور پر شمعیں روشن کریں ورنہ ممانعت نہیں

۷۰

قبروں کے پاس چراغ جلانے کے فائدے  
 حضرت فاطمہ سے ارشاد اقدس ہوا: اگر تو ان کے ساتھ قبرستان تک جاتی تو  
 جنت نہ دیکھتی جب تک عبدالمطلب نہ دیکھیں“ اس کا مطلب

۷۲

## احترام مقابر

- ۷۶ ..... چند واقعات کہ اموات نے زندوں سے ایذا دینے کی شکایت کی
- ۷۷ ..... قبروں کے درمیان جوتا پہن کر چلنا ممنوع ہے
- ..... حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ارشاد ”مجھے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے سے آگ
- ۷۷ ..... پر پاؤں رکھنا زیادہ پیارا ہے
- ۷۸ ..... مسلمان کو بعد موت ایذا دینا ایسا ہے جیسے زندگی میں اسے تکلیف پہنچانا
- ..... احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ قبر پر بیٹھنے، پاؤں رکھنے اور اس سے تکیہ لگانے
- ۷۸ ..... سے میت کو ایذا ہوتی ہے
- ..... حضرت حسن مثنیٰ ابن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر پر ان کی اہلیہ نے
- ۷۹ ..... ایک قبہ تانا جو ایک سال تک رہا پھر اٹھالیا
- ۷۹ ..... مزارات پر زائرین کی آسانی کیلئے گنبد، عمارت بنانا جائز ہے
- ۸۰ ..... ”لا یرفع علیہ بناء“ کا جواب [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ..... مفتی دارالعلوم دیوبند نے بھی مزارات پر عمارت بنانا نیکو علمائے سلف کے حوالے
- ۸۱ ..... سے جائز بتایا ہے
- ۸۱ ..... مزارات پر عمارت بنانے کے فوائد
- ۸۱ ..... مزارات پر عمارت بنانے کے جواز میں علمائے متاخرین کے اقوال

## مردوں سے حسن سلوک اور ایصال ثواب

- ۸۲ ..... مردوں کو برانہ کہو کہ وہ اپنے کئے کو پہنچ چکے ہیں
- ۸۳ ..... مردوں کو برائی سے یاد کرنے میں خرابی
- ۸۵ ..... رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شہدائے احد پر آٹھ سال بعد اس طرح
- ۸۵ ..... صلوٰۃ و دعا کی جیسے سب کو رخصت فرما رہے ہوں
- ۸۶ ..... جب کوئی صدقہ نافلہ کا ارادہ کرے تو اپنے ماں باپ کی نیت سے دے
- ۸۷ ..... حضور اقدس ﷺ نے حضرت طلحہ ابن برا کی قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔



قبرستان سے گذرتے ہوئے گیارہ بار سورۃ اخلاص پڑھکر ایصال ثواب کرنیکی  
فضیلت

۸۸

فاتحہ مروجہ میں کھانا مسکین کو دینے سے قبل ہی ایصال ثواب ہوتا ہے اس پر

۸۹

اعتراض کا جواب

## عالم برزخ کے احوال

دنیا کو برزخ سے وہی نسبت ہے جو رحم مادر کو دنیا سے، پھر برزخ کو آخرت سے  
ایسی نسبت ہے جو دنیا کو برزخ سے ہے

۹۰

برزخ و دنیا کے علوم میں وہی نسبت ہے جو علم جنین اور علم اہل دنیا میں ہے

۹۱

دنیا کافر کی بہشت اور مسلمان کا قید خانہ ہے

۹۱

موت کے بعد مسلمان کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے

۹۲

مومنوں کی روحیں آزاد ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں

۹۲

نیک مردہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، اور بد کہتا ہے ہائے خرابی اسکی کہاں لیجاتے

۹۵

ہو۔

۹۵

نصوص ہمیشہ ظاہر پر محمول ہونگے جب تک کہ اس میں محذور نہ ہو

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہ بدر میں پڑے ہوئے مردہ کفار سے کلام

۱۰۱

کیا

۱۰۲

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے ہی کفار کی قتل گاہیں دکھائیں

۱۰۳

مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت

۱۰۴

حضرت فاروق اعظم کی بات کا اہل بقیع نے جواب دیا جو آپ نے سنا

۱۰۴

حضرت مولیٰ علی کا اہل قبور سے کلام اور انکا جواب

ایک جوان عابد کی خدا ترسی کا واقعہ اور اس کی موت کے بعد فاروق اعظم کا اس

۱۰۵

سے کلام کرنا اور اس کا جواب دینا

## سوگ اور نوحہ

زندوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہونے کے بارے میں حضرت

۱۰۹ صدیقہ کا ارشاد.....

۱۰۹ ایک جماعت کے نزدیک زندوں کے چلانے کی وجہ سے مردے کو صدمہ ہوتا ہے

۱۱۰ ذکروا قعات شہادت کا کیا حکم ہے؟.....

۱۱۱ نسب پر طعن اور میت پر نوحہ کی مذمت.....

دوا وازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا، اور مصیبت

۱۱۲ کے وقت چلانا.....

چلا کر رونے والی اگر بے توبہ مر جائے تو قیامت کے دن یوں کھڑی کیجا یگی کہ

۱۱۲ اس پر گندھک کا کرتا ہوگا اور کھجلی کا دوپٹہ.....

۱۱۲ نوحہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کتوں کی طرح بھونکیں گی.....

۱۱۳ اہل میت کے یہاں کھانے کیلئے حج ہونے کی ترست پر عواتر حدیثیں ناطق ہیں

## اذان قبر

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت سعد ابن معاذ پر قبر تنگ ہونے

کی وجہ سے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ذکر فرمایا یہاں تک کہ تنگی دور ہوئی اور قبر

۱۱۴ کشادہ ہو گئی.....

تبلیہ کے تعلق سے ہدایہ میں ہے: ان کلمات میں کمی نہ کیجائے کہ یہ حضور اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ تو ان سے گھٹائے نہیں، بڑھائے

۱۱۵ تو جائز ہے.....

۱۱۵ کلمات اذان جواب نکیرین بتاتے ہیں، اسکی تفصیل.....

بعد دفن اذان دینے میں حدیث متواتر ”لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ“ کی

۱۱۶ تعمیل ہے.....

۱۱۶ اذان کی برکت سے مردہ شیطان کی خلل اندازی سے محفوظ ہو جاتا ہے.....



## کفن وغیرہ میں تبرکات

ایک وفد نے حضور سے غسلہ وضو طلب کیا تا کہ وہ اس جگہ چھڑک دیں جہاں

مسجد بنانا ہے۔ ۱۱۷

حضور اقدس کی مبارک چھڑی حضرت انس کے سینہ پر قمیص کے نیچے ان کے ساتھ

دفن کی گئی۔ ۱۱۸

حضرت انس کی وصیت کے مطابق انہیں اس طرح دفن کیا گیا کہ موئے مبارک انکی

زبان کے نیچے تھا۔ ۱۱۸

حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی کہ جب میں مرجاؤں تو رسول کی قمیص اقدس

کو میرے بدن سے متصل رکھ دینا اور موئے مبارک اور ناخنہائے مقدسہ کو میرے

منہ آنکھوں اور پیشانی وغیرہ موضع سجود پر رکھ دینا۔ ۱۱۹

کفن پر کتابت آیات وغیرہ کے بارے میں ایک اعتراض کا جواب۔ ۱۱۹

## شہید کون؟

www.ahleazharanetwork.org

مال، جان، دین، اور اپنے گھر والوں کو بچانے میں مارے جانے والے شہید ہیں

شہید پانچ ہیں، طاعون زدہ، پیٹ کی بیماری میں، ڈوب کر، دیوار کے نیچے دب

کر مرنے والے اور جو جہاد میں شہید ہوا۔ ۱۲۱

جہاد میں قتل ہونا، طاعون سے مرنا، عورت کا زچگی کی حالت میں مرنا، ڈوب کر مرنا

، پسلی کے مرض میں مرنا یہ سب شہادت ہیں۔ ۱۲۲

## شہید کی فضیلت

شہید کی شفاعت اس کے ستر اقربا کے بارے میں قبول ہوگی۔ ۱۲۲

پہلی بار بدن سے جو خون نکلتا ہے اسی کے ساتھ شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے اور

روح نکلتے ہی حواریں خدمت میں آ جاتی ہیں۔ ۱۲۳

شہید کے لئے سات کرامتیں ہیں۔ ۱۲۴

قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ محو کر دیئے جاتے ہیں۔ ۱۲۴

خشکی میں شہید ہونے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق عباد،  
اور دریا میں شہید ہونے والے کے تمام گناہ اور حقوق عباد سب معاف ہو

- جاتے ہیں۔ ۱۲۵
- آدمی کا بروجہ صبر مارا جانا تمام گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ۱۲۵
- شہید صبر اور شہید جہاد میں فرق۔ ۱۲۵
- بد مذہب منکر تقدیر خیر و شر کی مذمت۔ ۱۲۶
- شہدائے احد و دوا یک کپڑے میں کفن دیئے گئے۔ اور قبر میں بھی دود و دوائے  
گئے۔ ۱۲۷
- ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جب دیوار گری تو حضرت فاروق اعظم کا  
قدم ظاہر ہو گیا۔ ۱۲۷

### طاعون

- طاعون پہلے عذاب تھا اس امت کیلئے اسے رحمت کر دیا گیا۔ ۱۲۹
- طاعون امت مسلمہ کیلئے شہادت و رحمت ہے اور کافروں پر عذاب۔ ۱۳۱
- طاعون سے بھاگنے والا ایسا ہے جیسے کفار کو پیٹھ دیکر جہاد سے بھاگنے والا۔ ۱۳۲
- طاعون دشمن جنوں کا چوکا ہے اور وہ اہل ایمان کیلئے شہادت ہے۔ ۱۳۲
- طاعون والی بستی میں نہ جائے اور جو اس بستی میں ہو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ  
کرے۔ ۱۳۳
- جو طاعون میں صبر کئے بیٹھا رہے اس کیلئے شہید کا ثواب ہے۔ ۱۳۳
- طاعون میں ٹھہرنے والا جہاد میں صبر و استقلال کرنے والے کی طرح ہے۔ ۱۳۵
- طاعون کے تعلق سے حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو عبیدہ کی ایک گفتگو۔ ۱۳۷
- جہاں طاعون ہو وہاں سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسکی ایک حکمت۔ ۱۳۸
- بیرون شہر جا پڑنا بلکہ محلہ مریضوں چھوڑ کر محلہ صحیحوں میں جا بسنا یہ بھی حرام ہے۔ ۱۳۸
- جو حکم طاعون کیلئے ہے وہی حکم ہر وبا کا ہے۔ ۱۳۸
- حضرت صدیق اکبر شام کو جانے والوں سے دشمنوں کے نیزوں اور طاعون

- ۱۳۹ سے نہ بھاگنے کا عہد لیتے اسکی وجہ.....
- مسلمانوں کو فرار عن الطاعون کی ترغیب دینے والا ان کا خیر خواہ نہیں، ایسے لوگوں کیلئے ایک عمدہ مثال.....
- ۱۳۹ طاعون کو آگ اور زلزلہ پر قیاس کرنا باطل ہے.....
- ۱۴۰ جہاں طاعون ہو وہاں سے بھاگنا بھی گناہ اور وہاں جانا بھی گناہ ہے.....
- ۱۴۰ طاعون سے فرار یا اس سے مقابلہ کی نیت نہ ہو تو شہر طاعون سے نکلنا یا دوسری جگہ سے اس میں جانا فی نفسہ کیسا ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں۔ ان کا بیان اور حکم.....
- ۱۴۱ احکام کی بنا کثیر وغالب پر ہے.....
- ۱۴۱ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جزامی کو اپنے ساتھ کھلایا.....
- ۱۴۲ چھوت کی بیماری، بدشگونی، الو کا جاہلانہ تصور، صفر کی جاہلانہ کاروائی کوئی چیز نہیں.....
- ۱۴۳ جزامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو.....
- ۱۴۳ جزامی سے گفتگو دور رہ کر کرو.....
- ۱۴۴ مجذوموں کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھو.....
- ۱۴۴ وفد ثقیف کے ایک جزامی مرد کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا.....
- ۱۴۴ جاؤ تم سے ہم نے بیعت کر لی.....
- حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجذوم کو آتے دیکھا تو حضرت انس کو بچھونا.....
- ۱۴۵ اٹنے کا حکم دیا.....
- ۱۴۵ حضرت فاروق اعظم نے ایک جزامی عورت کو طواف کعبہ سے ممانعت فرمائی.....
- حضرت فاروق اعظم نے ایک دعوت میں حضرت معقیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کے ساتھ کھانے میں شریک کیا حالانکہ آپ کو یہ مرض تھا.....
- ۱۴۵ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجذوم کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا.....
- ۱۴۸ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، جسے پہلے ہوئی اسے کس کی اڑ کر لگی.....
- ۱۴۸ حدیث جلیل ”لا عدوی“ بیماری اڑ کر نہیں لگتی صحیح مشہور بلکہ متواتر ہے.....
- ۱۴۹ ارشاد اقدس ”من اعدی الاول“ (اسے کس کی اڑ کر لگی) کا حاصل.....
- ۱۵۰



- ۱۵۰ ..... اپنے کو بلا کیلئے پیش کرنا شرع ہر گز روا نہیں رکھتی
- ۱۵۰ ..... جن احادیث میں مجذوموں سے دور و نفور رہنے کا حکم ہے ان کا مقام
- ۱۵۱ ..... جذامیوں کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھو اس حکم کی حکمتیں
- ..... وفد ثقیف کے ایک شخص کو حضور نے فرمایا: پلٹ جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی، اس
- ۱۵۱ ..... میں متعدد وجوہ ہیں
- ۱۵۲ ..... واقعہ حال محل صد گوشتہ احتمال ہوتا ہے، حجت عام نہیں ہو سکتا
- ۱۵۲ ..... ایک حدیث میں مجذوم کو آتا دیکھ کر بچھونا لٹنے کو فرمایا، اسکی وجہ
- ۱۵۲ ..... حضرت فاروق اعظم کے مجزومہ خاتون کو طواف کعبہ سے روکنے کی وجوہ
- ۱۵۳ ..... مجذوم سے دوری اور فرار کے حکم کی حکمت
- ..... مذہب معتمد صحیح و راجح یہ ہے کہ کوئی بیماری ایک کی دوسرے کو اثر نہیں لگتی یہ
- ۱۵۳ ..... بے اصل اوہام ہیں
- ۱۵۴ ..... دور رہنے کا حکم، حکم احتیاطی استنبابی ہے۔
- ..... مجذوم کے اولاد و اقارب و زوجہ سب احتیاط کے باعث اس سے دور بھاگیں،
- ۱۵۴ ..... اور اسے تنہا اور ضائع چھوڑ دیں یہ ہرگز حلال نہیں
- ۱۵۴ ..... زوجہ جذامی اسے ہم بستری سے منع نہیں کر سکتی
- ..... علما کا اتفاق ہے کہ مجذوم کے پاس بیٹھنا اٹھنا مباح ہے اور اسکی خدمت گزاری
- ۱۵۴ ..... موجب ثواب ہے

## کتاب الزکوٰۃ

### زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت

- ۱۵۷ ..... مال زکوٰۃ جس مال میں ملا ہوگا اسے برباد کر دیگا
- ۱۵۷ ..... جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے
- ۱۵۷ ..... زکوٰۃ کی برکت سے مال کا شر اس سے دور کر دیا جاتا ہے

- ۱۵۸ ..... زکوٰۃ کی ادائیگی اموال کیلئے مضبوط قلعہ ہے
- ۱۵۸ ..... زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ
- ۱۶۰ ..... جنت اور جہنم میں پہلے جانے والے لوگ
- ۱۶۱ ..... ان لوگوں کیلئے نصیحت جو خیرات دیں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں
- قیامت کے دن محتاج رب کے حضور میں زکوٰۃ نہ دینے والے مالداروں کی شکایت کریں گے
- ۱۶۶ ..... آیت کریمہ ”والذین یکنزون الذہب الخ“ کے نزول پر صحابہ کی پریشانی
- ۱۶۹ ..... حضرت فاروق اعظم کا بارگاہ رسالت میں پریشانی کا ذکر اور آپ کا ارشاد گرامی
- ۱۶۹ ..... اللہ تعالیٰ پاک چیز قبول فرماتا ہے
- ۱۷۰ ..... غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں

### بنو ہاشم کیلئے زکوٰۃ حرام ہے

- ۱۷۱ ..... زکوٰۃ لوگوں کا میل کچیل ہے، لہذا رسول و آل رسول کیلئے حلال نہیں
- حضرت امام حسن نے بچپن میں صدقہ کی ایک کھجور منہ میں رکھ لی تو حضور اکرم نے فوراً منہ سے نکال دی
- ۱۷۱ ..... کسی قوم کا غلام اسی قوم سے شمار ہوتا ہے
- ۱۷۲ ..... بنو ہاشم کیلئے تحریم زکوٰۃ کی علت ان حضرات عالیہ کی عزت و کرامت ہے
- ۱۷۷ ..... بنو ہاشم کیلئے تحریم زکوٰۃ کی علت ان حضرات عالیہ کی عزت و کرامت ہے

### مصارف زکوٰۃ و صدقات

- ۱۷۹ ..... مسکین کو دینا اکبر صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینا دوہرا، ایک تصدق ایک صلہ رحم۔
- ۱۷۹ ..... جو شخص اپنے ضرورتمند رشتہ دار کو چھوڑ کر اوروں پر تصدق کرے اسکی مذمت۔

### صدقہ کے فضائل

- ۱۸۱ ..... راہ خدا میں دیئے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے
- صدقہ اور صلہ رحم دونوں سے اللہ تعالیٰ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت دفع فرماتا ہے
- ۱۸۳ ..... ہے



- ۱۸۵ صدقہ ستر قسم کی بلائیں دور فرماتا ہے جن کی آسان تربدن بگڑنا اور سپید داغ ہیں
- ۱۸۹ حرام کما کر اس سے غلام آزاد کرنا اور صلہ رحم کرنا بھی وبال ہے
- ۱۹۰ اللہ تعالیٰ بدی کو بدی کے ذریعہ نہیں بلکہ بدی کو نیکی کے ذریعہ محو فرماتا ہے
- ۱۹۰ حرام مال حرام کی خباثت کو محو نہیں کرتا
- حرام مال سے خیرات قبول نہ ہوگی۔ اور جو بچ رہیگا وہ صاحب مال کیلئے توشہ
- ۱۹۱ جہنم ہوگا

### صدقہ فطر

- ۱۹۴ گندم کا استعمال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عام ہوا۔
- عہد رسالت میں صدقہ فطر کھجور، منقہ اور جو سے دیا جاتا تھا اس وقت گیہوں
- عام نہ تھا
- ۱۹۴ نیم صاع سے متعلق اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ایک تجربہ

### چندہ اور اسراف

- حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند پریشان حال حضرات کیلئے صحابہ کو صدقہ
- ۱۹۶ کی ترغیب دی
- ۱۹۷ نافرمانی میں ایک صاع خرچ کرنا بھی اسراف ہے
- ۱۹۷ حضرات صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مثالی تصدق کا واقعہ
- ۱۹۸ آدمی اپنا پورا مال صدقہ کر دے پھر بھیک مانگے یہ درست نہیں
- ۱۹۸ بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے

### احکام سوال

- ۲۰۰ خدا کا واسطہ دیکر مانگنے اور ایسے شخص کو دینے کے احکام
- ۲۰۱ بے ضرورت سوال کرنے والے کی مذمت
- ۲۰۱ جو زیادتی مال کیلئے سوال کرتا ہے وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا مانگتا ہے
- ۲۰۲ بے حاجت شرعی سوال کرنے والا آتش جہنم کھاتا ہے

- ۲۰۳ ..... دینے والا ہاتھ اونچا اور مانگنے والا نیچا ہے۔
- ۲۰۴ ..... مومن یوں زندگی بسر کرے کہ دست درکار و دل بایار، تدبیر میں ہاتھ اور دل تقدیر کے ساتھ ظاہر میں ادھر باطن میں ادھر، اسباب کا تام اور مسبب سے کام۔
- ۲۰۴ ..... تقدیر کو بھولنا یا حق نہ ماننا یا تدبیر کو اصلاً مہمل جاننا دونوں معاذ اللہ گمراہی یا جنون و سفاہت ہیں۔
- ۲۰۴ ..... اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: اگر محنت کجائے تو باب تدبیر میں دس ہزار سے زائد آیات و حدیث ہو سکتی ہیں۔

### مال جمع کرنا

- ۲۰۵ ..... موروٹی جائیداد کی فروخت سے حاصل شدہ رقم تلف ہو کر رہتی ہے۔

## کتاب الصوم

www.alanarfatnetwork.org

### روزے کی فرضیت

- نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ان میں سے ایک کو بھی چھوڑے گا تو دوسری اس کے کام کی نہیں۔
- ۲۰۹ ..... روزہ مفید صحت ہے۔
- ۲۱۰ ..... کچھ گناہوں کی سزا کا بیان۔
- ۲۱۲ ..... حالت جنابت میں روزے کا آغاز ہو اس سے روزے میں کوئی نقص نہیں آتا۔
- ۲۱۴ ..... نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ان میں سے ایک کو بھی چھوڑے گا تو دوسری اس کے کام کی نہیں۔

### رویت ہلال

- ۲۱۵ ..... چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔
- ۲۱۵ ..... مطلع ابراؤد ہونے کی صورت میں تیس کی گنتی پوری کرو۔
- ۲۱۷ ..... چاند دیکھنے کی ادعیہ ماثورہ۔
- ۲۲۰ ..... ارشاد قرآن ”ومن شرعاسق“ سے مراد چاند ہے۔
- حدیث پاک، دونوں عید کے مہینے ناقص نہیں ہوتے اس کے معنی کے بارے

۲۲۲

میں علما کے اقوال

## نفل روزے

۲۲۳

عرفہ کا روزہ رکھنے والے کے ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

۲۲۴

عاشورہ کے روزے کی برکت سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

۲۲۶

بعثت نبوی ۲۷/رجب کو ہوئی۔

۲۲۶

۲۷/رجب کا روزہ رکھنے والے کو ساٹھ مہینے تک روزوں کا ثواب ملتا ہے۔

حضرت جبریل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے ۲۷/رجب کے دن

۲۲۶

میں وحی لیکر نازل ہوئے۔

۲۲۷

تعیین مقدار اجر کے بارے میں حدیث موقوف مثل مرفوع ہے۔

۲۲۷

رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں تعظیم رمضان کیلئے۔

۲۲۸

عرفہ کا روزہ سال گذشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

۲۲۹

عرفہ کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے۔

جس نے ہر ماہ ۱۳/۱۴/۱۵ تاریخوں کے روزے رکھے اسے ہمیشہ روزہ دار

۲۲۹

رہنے کا ثواب ملے گا۔

جس نے عید الفطر کے بعد چھ روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے

۲۳۰

ہو گئے۔

۲۳۳

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا: میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔

۲۳۴

صوم داؤدی یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے ایک دن نہ رکھا جائے۔

## سحری و افطار

حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

۲۳۶

ساتھ دن میں سحری کھائی مگر سورج نہ نکلا تھا، اس کا عمدہ محل

۲۳۷

ارشاد اقدس ”اذا قبل الليل من ههنا وادبر النهار عن ههنا الخ“ کی تشریح۔

۲۳۹

افطار میں جلدی کرنے والے خدا کے محبوب ہیں۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحالت روزہ کھجور ہاتھ میں لیکر غروب آفتاب

۲۴۰ ..... کا انتظار فرماتے اور غروب ہوتے ہی فوراً منہ میں ڈال لیتے

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تر کھجوروں سے وہ نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے

۲۴۱ ..... ورنہ پانی سے افطار فرماتے

۲۴۲ ..... رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔

افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب ملیگا اور اس کے ثواب میں کمی

۲۴۲ ..... نہ ہوگی

رمضان میں حلال کمائی سے افطار کرانے والے کیلئے شبہائے رمضان میں فرشتے

دعائے مغفرت کرتے ہیں اور جبریل امین شب قدر میں اس سے مصافحہ کرتے

۲۴۳ ..... ہیں

## کتاب الحج

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### حج کی فرضیت و اہمیت

۲۴۹ ..... استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے وعید

۲۴۹ ..... حاجی کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جبکہ فحش گوئی اور فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو

۲۵۰ ..... چار سو عزیزوں قریبوں کے حق میں حاجی کی شفاعت قبول ہوگی

۲۵۰ ..... حج اور عمرہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو دور کرنے والے ہیں

۲۵۰ ..... حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے

فرشتے سواری پر حج کو جانے والوں سے مصافحہ اور پیدل چل کر جانے والوں سے

۲۵۱ ..... معاف کرتے ہیں

جو حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادہ سے نکلا پھر راہ میں موت آگئی اسے مجاہد، حاجی اور عمرہ

۲۵۱ ..... کرنے والے کی طرح تا قیامت ثواب ملتا رہیگا

۲۵۳ ..... ایمان و جہاد کے بعد افضل عمل حج مقبول ہے



- ۲۵۳ ..... ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے
- ۲۵۴ ..... بوڑھے، بچے، کمزور اور عورت کا جہاد حج و عمرہ ہیں
- ..... حاجی اور مجاہد کو زاد راہ دینے والے، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی مدد کرنے
- ۲۵۴ ..... والے، اور روزہ دار کو افطار کرانے والے کو ان کے برابر ثواب ملے گا
- ۲۵۵ ..... میدان عرفات کی وجہ تسمیہ
- ۲۵۵ ..... رمی جمار شروع ہونے کی وجہ
- ۲۵۶ ..... اعلان حج منی شریف کے پہاڑ سے ہوا
- ..... وہابیہ کے قول کہ اعلان مسجد حرام میں ہوا اور اس سے اذان ثانی اندرون مسجد
- ۲۵۶ ..... ہونے پر استدلال کا جواب
- ..... گذشتہ شرائع کے احکام ہمارے لئے دلیل نہیں جب تک قرآن و حدیث میں
- ۲۶۰ ..... اس کا بیان بلا انکار نہ ہو
- ۲۶۲ ..... حج کی برکت سے غنا حاصل ہوتا ہے
- ..... جب آدمی اپنے والدین کی طرف سے حج کرے وہ عینوں کی طرف سے قبول
- ۲۶۳ ..... کیا جائے
- ..... ماں باپ کی طرف سے حج کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک سلوک کرنے
- ۲۶۴ ..... والا جائے گا

### مناسک کی فضیلت

- ۲۶۵ ..... جس نے بیت اللہ شریف کا پچاس مرتبہ طواف کیا وہ گناہوں سے پاک ہو گیا
- ..... مکہ سے پیدل حج کرنے والے کو مکہ واپس آنے تک ہر قدم پر سات سونکیاں
- ۲۶۶ ..... ملتی ہیں
- ۲۶۶ ..... حضرت محدث بریلوی کا حساب کہ آنے جانے میں کل کتنی نیکیاں ہوں گی

### زیارت روضۃ النور

حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ہاتھ منبر کے اس مقام پر رکھتے جہاں حضور تشریف



- ۲۶۸ ..... فرما ہوتے اور اپنے چہرے پر پھیر لیتے
- ۲۶۹ ..... امام ابن ہمام کا قول ہے میرے نزدیک افضل یہ ہے کہ سفر خاص بقصد زیارت کرے
- ۲۶۹ ..... امام زین الدین عراقی اور ایک حنبلی کا واقعہ
- ۲۷۰ ..... جو مومن حرمین شریفین میں انتقال کرے روز قیامت امن والوں میں اٹھایا جائیگا زیارت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعظم قربات وافضل طاعات اور برآرندہ
- ۲۷۲ ..... مقاصد وحاجات ہے قریب بدرجہ موکدہ واجبات ہے
- ۲۷۲ ..... بعض علماء نے زیارت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجوب کی تصریح فرمائی
- ۲۷۲ ..... عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا بالاجماع فرض قطعی ہے
- ۲۷۳ ..... علما نے آیت مقدسہ ”ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الخ“ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حال حیات و حال وفات دونوں حالتوں کا شمول سمجھا بوقت حاضری مزار پر انوار پر آیت ”ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الخ“ کی تلاوت آداب زیارت سے ہے
- ۲۷۵ ..... حدیث حسن اگرچہ لغیرہ ہو کل احتجاج میں کافی ہے
- ۲۷۶ ..... حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رقت انگیز واقعہ
- ۲۷۷ ..... فقہاء میں اس واجب کو بھی سنت بولتے ہیں جو سنت یعنی حدیث سے ثابت ہو باوجود قدرت تارک زیارت روضہ انور قطعاً محروم و ملوم، بد بخت و مشوم، آثم و گنہ گار اور ظالم و جفا کار ہے
- ۲۷۷ ..... زیارت اقدس کا مانع یا منکر فضیلت گمراہ بدین، فارق اجماع مسلمین، مستحق وعید شدید ہے
- ۲۷۸ ..... قبر اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اور اسکی طرف سفر کو ابن تیمہ اور اس کے اتباع نے منع کیا
- ۲۷۹ ..... مزار اقدس کے حضور ستر ہزار فرشتے رات میں حاضر رہتے ہیں اور ستر ہزار دن میں اور درود سلام پیش کرتے ہیں
- ۲۸۰

## فضائل مدینہ منورہ

- ۲۸۱ ایمان مدینے کی طرف سمٹے گا جیسے سانپ اپنی بانی کی طرف
- ۲۸۱ جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے
- ۲۸۲ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا
- ارشاد نبوی کہ میں نے مدینہ کے سنگلاخ علاقہ کے درمیان کانٹے دار درخت
- ۲۸۳ کاٹنے اور شکار کرنے کو حرام کر دیا ہے
- حضرت رافع بن خدیج کا بیان کہ میں نے بلاشبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
- ۲۸۳ وسلم کو فرماتے سنا: مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے
- ۲۸۴ مدینہ کی سختی اور شدت پر صبر کرنے والے کیلئے مزدہ شفاعت ہے
- جن چیزوں میں وعدہ شفاعت فرمایا گیا وہ بجز اللہ حسن خاتمہ کی بشارت جمیلہ
- ۲۸۵ ہیں اور اس کی دلیل
- سختی مدینہ پر صابر، حضور پر نور کا زائر، مدینہ طیبہ میں مرنے والا، اور حضور کیلئے
- ۲۸۵ سوال وسیلہ کرنے والا ایمان پر خاتمہ پائے گا

## فضیلت حرم

- ۲۸۶ روز قیامت کعبہ دلہن کی طرح اٹھایا جائیگا

## کتاب النکاح

### فضیلت نکاح و احکام

- ۲۹۲ حضور کا ارشاد گرامی ہے ”جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں
- ۲۹۲ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا
- نکاح فرض، واجب، سنت، مباح، مکروہ اور حرام سب کچھ ہے۔ صور و احکام
- ۲۹۲ کی تفصیل
- ۲۹۵ اپنے بچہ پر مہربانی اور شوہر کے مال کی حفاظت یہ عورت کی عظیم خوبی ہے

- ۲۹۵ ..... حضور اقدس ﷺ کے ساتھ حضرت ام سلمہ کے نکاح کا واقعہ  
ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا وصال ۶۰ھ یا ۶۱ھ یا ۶۲ھ میں ہوا۔ عمر
- ۲۹۶ ..... شریف چور اسی برس ہوئی  
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے آخر شوال ۶۴ھ
- ۲۹۶ ..... میں نکاح فرمایا۔
- ۲۹۶ ..... جو عورت اپنی اولاد کی وجہ سے نکاح ثانی نہ کرے اسکی فضیلت۔  
میاں بیوی دونوں جنتی ہوں۔ اور عورت وفات شوہر کے بعد نکاح نہ کرے
- ۲۹۸ ..... تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں جمع فرمائے گا۔  
وہ عورت جلد جنت میں پہونچگی جسکا شوہر میدان جنگ میں جو ہر شجاعت
- ۲۹۹ ..... دکھا کر شہید ہوا ہو۔  
حضرت ام رباب زوجہ امام عالی مقام نے آپ کی شہادت کے بعد نکاح نہ
- ۲۹۹ ..... کیا اور پیغام دینے والوں کو جواب دیا میں وہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ  
www.alahazratnetwork.org علیہ وسلم کے بعد کسی کو اپنا بناؤں۔
- ۳۰۰ ..... تورات شریف میں ہے: بارہ برس کی لڑکی کا نکاح نہ کیا پھر لڑکی گناہ میں مبتلا  
ہوئی تو اس کا گناہ باپ پر بھی ہے۔
- ۳۰۱ ..... دو شیرہ کا سکوت بھی اذن ہے، مگر یہ اسی وقت ہے جبکہ ولی اقرب اذن لے
- ۳۰۲ ..... کوئی شخص اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ لگائے۔  
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن متعہ اور گوشت خر سے
- ۳۰۳ ..... منع فرمایا۔  
متعہ ابتدائے اسلام میں جائز تھا آیت کریمہ ”الا علی ازواجہم او ما
- ۳۰۳ ..... ملک ایمانہم“ کے نزول کے بعد سے دو کے سوا تمام شرمگاہیں حرام  
ہو گئیں۔
- ۳۰۴ ..... غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعہ کا حرام
- ۳۰۴ ..... ہونا بیان فرمایا۔



حضرت فاطمہ کا جہیز ایک بنی ہوئی چار پائی، ایک تکیہ جس میں کھجور کی جھال بھری تیار کیا گیا۔

۳۰۵

وصال اقدس رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت حضرت صدیقہ اٹھارہ سال کی تھیں۔

۳۰۶

بچہ کا اچھانا م رکھے، اچھا ادب دے، جب بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دے۔  
لڑکے کے بالغ ہونے پر اس کا نکاح نہ کیا اور اس سے کوئی گناہ صادر ہوا تو اس کا گناہ لڑکے کے ساتھ باپ پر بھی ہے۔

۳۰۶

### مہر

حضرت ام حبیبہ کے علاوہ ازواج مطہرات کا مہر بارہ اوقیہ چاندی یعنی تقریباً پانچ سو درہم تھا۔

۳۰۷

حضرت ام حبیبہ کا مہر ایک روایت میں چار ہزار درہم اور دوسری میں چار ہزار دینار تھا اور یہ شاہ حبشہ حضرت نجاشی کی طرف سے تھا۔

۳۰۷

حضرت بتول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر اقدس چار سو مثقال چاندی تھا۔  
درہم شرعی کا وزن ۳/۱ ماشہ، ۵۱۔ اسرخ چاندی ہے۔

۳۰۸

دینار ایک مثقال یعنی چار ماشہ سونا ہے۔  
سات مثقال، وزن میں دس درہم کے برابر ہوتے ہیں۔

۳۰۸

باعتبار قیمت ایک دینار شرعی دس درہم کا تھا۔  
”نش“ نصف اوقیہ کو کہتے ہیں۔

۳۰۸

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح میں ایک طبق کھجوریں منگائیں اور فرمایا لوٹ لو، صحابہ کرام نے وہ کھجوریں لوٹ لیں سرکار نے حضرت علی کو دعا دی: اللہ تعالیٰ تم دونوں کی چادر کو جمع فرمائے، تمہارے خاندان کو عزت دے، تم میں برکت رکھے، اور تم سے خیر کثیر کو عالم میں پھیلانے حضرت انس کا بیان ہے سرکار کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ دونوں پاک ہستیوں سے اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کو عالم میں خوب خوب عام فرمایا۔

۳۱۱

حضرت سیدہ فاطمہ کے مہر اقدس کے بارے میں بظاہر مختلف روایات اور ان میں تطبیق

۳۱۲

## حسن معاشرت

۳۱۳

مومن کامل وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو

۳۱۴

جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک کرے وہ لوگوں میں بہتر ہے

۳۱۴

عورت کو بے وجہ شرعی ایذا دینا جائز نہیں

عورت کے ساتھ نرمی، خوش خلقی، اس کی بد خوئی پر صبر اس کی دل جوئی شارع

۳۱۴

کو پسند ہے

۳۱۴

کھلانے پہنانے وغیرہ امور اختیار یہ میں چند بیویوں کو برابر رکھنا واجب ہے

۳۱۴

عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے

۳۱۵

عورتوں کو ایذا دینے والے بہتر لوگ نہیں ہیں

## شوہر کے حقوق

اگر کسی بشر کے لئے دوسرے بشر کو سجدہ کرنا لایق ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ

۳۱۷

وہ شوہر کو سجدہ کرے

۳۱۹

اونٹ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا

۳۲۰

بکریوں نے بارگاہ رسالت میں سجدہ کیا

حضور اقدس کی عادت شریفہ تھی کہ رفع حاجت کیلئے دور لوگوں کی نگاہوں سے

۳۲۶

غائب تشریف فرما ہوتے

۳۲۶

حکم اقدس پر درخت نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو سر اقدس اور دونوں مبارک

۳۲۸

پاؤں کو بوسہ دینے کی اجازت عطا فرمائی

کوئی عورت ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں پائے گی جب تک اپنے شوہر

۳۲۹

کا حکم نہ بجالائے



- حضرت معاذ نے شام سے لوٹ کر بارگاہ اقدس میں سجدہ کیا، ممانعت فرمادی گئی  
 ۳۳۰ پھر دوبارہ یمن سے لوٹ کر اجازت سجدہ چاہی، اس پر ایک سوال مقدر کا جواب  
 ۳۳۲ عورت نفلی روزہ بے اجازت شوہر نہ رکھے، اگر رکھیں گی روزہ قبول نہ ہوگا۔  
 ایک خاتون نے حقوق شوہر نہ کر بارگاہ اقدس میں نکاح نہ کرنیکی قسم کھائی اس پر  
 ۳۳۴ حضور نہ ناراض ہوئے، نہ اعتراض کیا۔  
 حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے شوہر حضرت زبیر رضی  
 اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا پاس  
 ۳۳۵ حضرت زبیر صحابہ کرام میں نہایت غیرت مند صحابی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین  
 ۳۳۵ عورتوں کیلئے شوہروں کی اطاعت اور حق شناسی ثواب میں جہاد کے برابر ہے۔  
 ۳۳۷

### نسب و رضاعت

- ۳۳۹ کفو میں بیاہوا اور کفو سے بیاہ کر لاؤ۔  
 ۳۴۰ عورتیں اپنے ہی کفو کے مشابہ جنتی ہیں۔  
 ۳۴۰ سونے چاندی کی مختلف کانیں ہوتی ہیں، یونہی آدمیوں کی  
 حدیث پاک ”من ابطأ بہ عملہ، لم یسرع بہ نسبہ“ میں نفی نفع مطلق  
 ۳۴۱ ہے نہ نفی مطلق۔  
 ۳۴۲ فضیلت تقوے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔  
 ۳۴۴ شرع مطہرہ میں نسب باپ سے لیا جاتا ہے۔  
 امامین کریمین اور ان کے حقیقی بھائی بہنوں کی یہ فضیلت خاص ہے کہ وہ نبی کریم  
 ۳۴۴ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے کہلائے۔  
 ۳۴۶ ولد الزنا کی مذمت میں جو احادیث ہیں ان کا مطلب  
 ۳۴۷ شوہر والی عورت کا حمل شوہر ہی کا قرار پائیگا خواہ وہ حمل زنا سے ہو۔  
 ۳۴۷ جو شخص جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اسکی ولاء اسی کیلئے ہے۔  
 ۳۴۸ جس کی ولاء جس قوم کیلئے ہو وہ اسی میں گنا جاتا ہے۔

## اعلان نکاح

- ۳۵۱ ..... شادی بیاہ کے موقع پر گانے باجے کے احکام
- ۳۵۵ ..... ولیمہ نکاح اور نکاح کے موقع پر دف بجانے اور نبدوق چھوڑنے کے احکام
- ۳۵۵ ..... خالص خیر خواہی کی نیت سے کسی کا عیب دوسروں سے بیان کرنا جائز ہے
- نکاح پر قدرت نہ ہو تو کیا کرے
- ۳۵۹ ..... روزہ خواہشات نفسانی کو توڑتا ہے
- ۳۶۰ ..... نکاح پریشان نظری و بدکاری سے روکنے کا بہترین طریقہ ہے

## کتاب الطلاق

- ۳۶۳ ..... طلاق دینے کی صورت میں مہر سے متعلق احکام
- ۳۶۵ ..... زمانہ جاہلیت میں لوگ جتنی چاہتے طلاق دیتے اور عدت میں رجعت کر لیتے  
 ارشاد قرآنی ”الطلاق مرتان ، فامساک بمعروف او تسریح باحسان“  
[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۳۶۵ ..... کاشان نزول
- تین طلاق کی صورت میں زوج اول سے نکاح کیلئے زوج ثانی کا عورت کے  
 ساتھ جماع ضروری ہے
- ۳۶۷ ..... حلالہ کرنے والے پر لعنت کس صورت میں ہے؟
- ۳۶۷ ..... حضرت ابن عباس نے تین طلاق دینے والے سے فرمایا: تو اللہ تعالیٰ سے نہیں  
 ڈرا، تیرے لئے کوئی راستہ نہیں، تو نے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی جدا  
 ہو گئی
- ۳۶۸ ..... جو تین سے زیادہ طلاق دیتا ہے وہ گویا آیات الہی کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔
- ۳۶۸ ..... تین طلاق سے زیادہ طلاقیں ظلم اور حد سے تجاوز ہے اللہ تعالیٰ چاہیگا تو عذاب  
 فرمائیگا اور چائے گا تو مغفرت فرمادیگا
- ۳۶۹ ..... ایک بار تین طلاق دینے سے نہ صرف نزد حنفیہ بلکہ باجماع مذاہب اربعہ تین

- ۳۷۰ ..... طلاقیں مغلظہ ہو جاتی ہیں
- ۳۷۱ ..... ایک ساتھ تین طلاق دینا گناہ ہے
- ۳۷۶ ..... بیوی کو بہن کہہ دینا ظہار نہیں۔ ہاں اس میں قباحت ہے کہ بے مصلحت و ضرورت
- ۳۷۶ ..... حلال شے کو حرام نام سے تعبیر کرنا ہے
- ۳۷۶ ..... مصلحتاً بیوی کو بہن کہنے میں قباحت نہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت
- ۳۷۶ ..... سارہ کو اپنی بہن فرمایا
- ۳۷۷ ..... زوجہ مفقود کے بارے میں امام مالک و جمہور ائمہ کرام کا مذہب

## کتاب البیوع

- ۳۸۱ ..... طلب حلال ہر مسلمان پر واجب ہے
- ۳۸۱ ..... حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری کی اجرت سے کھاتے تھے
- ۳۸۳ ..... دنیا جسکے مقدر میں جتنی لکھی ہے ضرور اسکے سامان مہیا پائے گا
- ۳۸۳ ..... کوئی جان دنیا سے نہ جائیگی جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے
- ۳۸۳ ..... رزق کی درنگی تم میں سے کسی کو اس پر نہ لائے کہ نافرمانی خدا سے اسے طلب کرے
- ۳۸۴ ..... کچھ گناہوں کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال میں پہنچتی ہیں
- ۳۸۴ ..... جو شخص کمائی کو نکلے کہ سوال وغیرہ کی ذلت سے بچے تو اسکی یہ کوشش اللہ کی راہ میں ہے
- ۳۸۵ ..... تلاش حلال، فکر معاش اور تعاظمی اسباب ہرگز منافی توکل نہیں
- ۳۸۷ ..... نیک تاجروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے
- ۳۸۸ ..... منہ میں خاک بھر لینا حرام نوالہ سے بہتر ہے
- ۳۸۸ ..... کتے کی قیمت لینا ناجائز، زنا کی خرچی حرام اور پچھنہ لگانے والے کی کمائی ناجائز ہے

## خرید و فروخت

- ۳۹۱ ..... مووروٹی جائیداد کو بیچ کر حاصل شدہ رقم تلف ہو کر ہی رہتی ہے۔  
 ۳۹۲ ..... روپے کا نوٹ پندرہ آنے کو بیچنا، خریدنا مطلقاً جائز ہے جبکہ باہم رضامندی سے  
 ۳۹۲ ..... ہو اور کوئی مانع شرعی عارض نہ ہو۔  
 ۳۹۲ ..... بیع عینیہ کا حکم۔

## اجرت و مزارعت

- ۳۹۷ ..... ایک صحابی رسول نے کچھ بکریوں کے بدلہ سورہ فاتحہ دم کر کے مارگزیدہ کا علاج کیا  
 ۴۰۰ ..... اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا۔  
 ..... صاحبین نے بوجہ تعامل بٹائی کی اجازت دی اور اسی پر فتویٰ قرار پایا۔

## قرض و سود

- ۴۰۲ ..... سودی قرض لینے کا حکم۔  
 ۴۰۳ ..... جس کا گوشت حرام سے بڑھے تو نار جہنم اسکی زیادہ مستحق ہے۔  
 ۴۱۱ ..... وہ لوگوں میں بہتر ہے جو قرض کی ادائیگی اچھے طور پر کرتا ہے۔  
 ۴۱۲ ..... قرض پر زیادہ دینا لفظاً موعود، نہ عاودۃ معہود، تو معنی رباً یقیناً مفقود۔  
 ۴۱۲ ..... قرض پر زیادتی کس صورت میں درست ہے اور کس صورت میں نادرست۔  
 ..... اگلی امتوں کے ایک قرض معاف کر دینے والے گنہگار کو اللہ نے بخشید یا اور فرمایا:  
 ۴۱۳ ..... جب وہ معاف کر دیا کرتا تھا تو میں اس سے زیادہ حقدار ہوں۔  
 ۴۱۴ ..... عورت اپنا مہر معاف کر دے تو بیشک یہ نیک کام ہے اور اس پر اجر عظیم کی امید ہے۔

## کتاب الایمان والندور

### قسم و کفارہ

- ۴۱۸ ..... قریش کو باپ دادا کی قسم کھانے سے ممانعت کی گئی۔



۴۱۹

جو کسی گناہ کی منت مانے وہ بازر ہے

۴۲۰

ارشاد نبوی ”نذر مت مانو“ کس نذر کیلئے ہے

## کتاب الحدود والدریات

### شراب

۴۲۵

شراب پیتے وقت شرابی کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا  
شرابی، قریبی رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا، اور جادو کی تصدیق کرنے

۴۲۷

والا جنت میں نہ جائیں گے  
بے توبہ مرنے والے شرابی کو دوزخ میں فاحشہ عورتوں کی بری جگہ سے بہنے والا

۴۲۷

خون اور پیپ پلایا جائے گا  
جو اس حال میں مرے کہ اس کے پیٹ میں شراب کا ایک ذرہ بھی ہو تو جنت اس

۴۲۸

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

پر حرام کر دی جائے گی

۴۲۹

دیوث، مردانی وضع بنانے والی عورت اور شرابی کبھی جنت میں نہ جائیں گے۔

۴۲۹

ہر نشہ آور چیز حرام ہے

### نشہ آور اشیاء

۴۳۰

جس چیز کی کثرت نشہ لائے اسکی قلیل بھی حرام ہے  
انگور کا وہ رس پینا جائز ہے جو پکا کر دو تہائی ختم کر دیا گیا ہو اور ایک تہائی باقی ہو

۴۳۲

اور نشہ آور نہ ہو

۴۳۶

خمر کی حرمت بعینہ ہے باقی دوسری چیزوں میں علت حرمت نشہ ہے

۴۳۹

نبیذ شدید اگر قلیل ہو تو مباح، اور اس کا نشہ حرام ہے

حضرت نوح علیہ السلام اور شیطان مردود کے درمیان درخت انگور کے بارے

۴۴۷

میں ایک نزاع

۴۴۸

خمر مطلقاً حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر، اور ہر پینے والی چیز کا نشہ حرام ہے



۴۵۴ جنبی، مدہوش اور خلوق استعمال کرنے والے کے پاس فرشتے نہیں آتے۔۔۔۔۔

### حد شرعی

۴۵۵ امام کا معافی میں خطا کرنا عقوبت میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔۔۔۔۔

۴۵۶ ایک صاحب کو حد زنا میں سوشاخوں والی ایک کھجور کی ٹہنی ماری گئی۔۔۔۔۔

## کتاب الحجۃ والجهاد

### ہجرت

اگر کسی جگہ عذر خاص کے سبب کوئی شخص اقامت فرائض سے مجبور ہو تو اسے جگہ

۴۶۲ کا بدلنا واجب ہے۔۔۔۔۔

۴۶۳ ہر شخص کو وہی چیز حاصل ہوگی جیسی اسکی نیت ہے۔۔۔۔۔

### جہاد

[www.alanarfatnetwork.org](http://www.alanarfatnetwork.org)

۴۶۴ جہاد کرو غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے اور سیر کرو غنی ہو جاؤ گے۔

۴۶۴ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”اذا تبايعتم بالعينة الخ“ کی تحقیق۔

۴۶۵ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرے تو وہ اس حدیث کی صحت کا حکم ہے۔

حدیث شریف ”اذا تبايعتم بالعينة الخ“ میں بیع عینہ کی ممانعت پر کوئی دلالت

۴۶۵ نہیں۔۔۔۔۔

۴۶۶ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ جو مقام فتح فرماتے وہاں تین شب قیام فرماتے۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کیلئے جمعرات کو تشریف لے

۴۶۸ گئے۔۔۔۔۔



- ۴۹۱ ..... مومن کا خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے
- ۴۹۲ ..... آیت کریمہ ”لھم البشری فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرة“ سے کیا مراد ہے
- ۴۹۴ ..... نبوت کے سلسلے سے صرف بشارتیں باقی ہیں اور وہ اچھے خواب ہیں
- ۴۹۴ ..... اچھا خواب دیکھ کر حمد الہی بجالائے

## کتاب الاطعمہ والاشرہ

### مقدار طعام

- ۱۴۹۹ ..... آدمی نے کوئی برتن پیٹ سے بدتر نہ بھرا
- ۵۰۰ ..... بہت کھانا منحوس ہے
- ۵۰۰ ..... پیٹ بھر کر قیام لیل کا شوق رکھنا بانجھ سے بچہ مانگنا ہے

### آداب طعام

کھانا کھاتے وقت جوتے اتار لے کہ اس میں پاؤں کیلئے زیادہ آرام ہے اور یہ اچھی سنت ہے

- ۵۰۱ ..... حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا زمین پر رکھ کر کھاتے
- ۵۰۱ ..... جو کھانا کھا کر پیالہ چاٹ لے تو وہ پیالہ اس کیلئے استغفار اور دعا کریگا
- ۵۰۳ ..... جس نے پیالہ اور انگلیاں چاٹیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں شکم سیر فرمائیگا
- ۵۰۴ ..... ہرگز اس کھانے کی طرف رغبت نہ کیجائے جس میں نصرانیت سے مشابہت ہو
- ۵۰۴ ..... حتی الامکان غیر مسلموں کے برتنوں سے احتراز برتا جائے
- ۵۰۸ ..... برکت تین چیزوں میں ہے، اجتماع مسلمین، طعام شریدا اور طعام سحری میں
- ۵۰۹ ..... سب کھانوں میں زیادہ پیارا اللہ عز و جل کو وہ کھانا ہے جس پر ہاتھ بہت سے ہوں

### دعوت

- ۵۱۰ ..... جو دعوت قبول نہ کرے اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی
- ۵۱۰ ..... جو بغیر دعوت گیا وہ چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا

- ۵۱۰ وہ صورتیں جن میں آدمی کسی کو اپنے ساتھ دعوت میں لیجائے تو حرج نہیں۔۔۔۔۔
- ۵۱۱ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا واقعہ۔۔۔۔۔

## کھلانے پلانے کی فضیلت

- ۵۱۲ لنگر لٹانا کیسا ہے؟۔۔۔۔۔
- بہت علمائے روپیوں پیسوں کا لٹانا جس طرح دلہن دولہا کی نچھاور میں معمول ہے منع فرمایا۔۔۔۔۔
- ۵۱۲ جو اپنے مسلمان بھائی کو اسکی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے۔۔۔۔۔
- ۵۱۳ غریب مسلمان کو کھانا کھلانا رحمت الہی واجب کرنے والی چیزوں میں ہے کھانا کھلانا، سلام ظاہر کرنا، اور شب کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا گناہ مٹانے والے ہیں۔۔۔۔۔
- ۵۱۴ مہمان کھلانے والوں کے گناہ لیکر جاتا ہے۔۔۔۔۔
- ۵۱۵ مسلمان پر بدگمانی حرام ہے۔۔۔۔۔

## کتاب الاضحیہ

### قربانی

- استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیزاری۔۔۔۔۔
- ۵۲۱ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔۔۔۔۔
- ۵۲۳ قربانی کے جانور سے اجرت کے طور پر قصاب کو کچھ نہ دیا جائے۔۔۔۔۔
- ۵۲۳ حضرت ابن عمر ہدی کے جانوروں کی جھولیں صدقہ کر دیتے۔۔۔۔۔
- ۵۲۸



## کتاب الصيد والذبائح

### ذبیحہ

۵۳۱ ..... دھاردار پتھریا لاٹھی کی ناک سے بھی ذبح کیا جاسکتا ہے

۵۳۲ ..... دانت اور ناخن سے ذبح نہ کیا جائے

## کتاب الطب والرقي

### مرض و دوا

۵۴۱ ..... ہر مرض کی دوا ہے مگر بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں

خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوا استعمال فرمانا اور امت مرحومہ کو صدمہ

۵۴۱ ..... امراض کا علاج بتانا بکثرت احادیث میں مذکور

کاہن کے پاس جانے اور اسکی بات سچی سمجھنے والا، حالت حیض میں قربت کرنے

والا، دوسری طرف دخول کرنے والا، اس چیز سے بیزار ہے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ

۵۴۳ ..... علیہ وسلم پر اتاری گئی





# فہرست مسائل ضمنیہ جلد سوم

## کتاب الادب

### لباس

- ۵ ..... شیطان تہہ کئے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا
- ۵ ..... شیطان جس کپڑے کو پھیلا ہوا پاتا ہے اسے پہنتا ہے
- ۵ ..... جس بستر پر کوئی سوتا نہ ہو اس پر شیطان سوتا ہے
- ۶ ..... نماز پڑھکر مصلی پلٹ دینا بہتر ہے
- ۶ ..... حضور کا پاجامہ خریدنا حدیث صحیح سے ثابت ہے
- ۷ ..... صحابہ کرام زمانہ اقدس میں پاجامہ پہنتے تھے
- ۹ ..... جو دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اسکے بدلے آگ کا لباس ملے گا
- ۱۰ ..... ریشم و سونا مردوں کیلئے حرام ہیں
- ۱۱ ..... لباس شہرت کا بدلہ روز قیامت ذلت کا لباس ہوگا
- ۱۲ ..... ماتم کی وجہ سے سیاہ لباس حرام ہے
- ۱۲ ..... عشرہ محرم میں سیاہ و سرخ لباس ناجائز ہیں
- ۱۳ ..... خطرہ کی حالت میں جنگل کا تنہا سفر ممنوع ہے
- ۱۳ ..... دیوث اور والدین کا نافرمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے
- ۱۴ ..... دیوث، مردانی وضع عورت اور ماں باپ کا نافرمان جنت سے محروم ہے
- ..... زنانی وضع مرد، مردانی وضع عورت، اغلامی اور چوپائے سے جماع کرنے والے
- ۱۴ ..... صبح و شام اللہ کے غضب میں ہیں
- ۱۵ ..... بلا وجہ عورتوں سے علیحدگی اور شادی نہ کرنا سخت ناجائز ہے
- ..... مردانی وضع عورت، زنانی وضع مرد، لوگوں کی مذاق اڑانے والے اور ایام قحط میں

- ۱۵ شکم سیر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔
- ۱۷ زخموں کو گھروں میں نہ آنے دو۔
- ۱۸ عورت ٹخنوں سے نیچا لباس پہنے۔
- ۱۸ مرد کو براہ تکبر ٹخنوں سے نیچا لباس نا جائز ہے۔
- ٹخنوں سے نیچا لباس پہننے والا، احسان جتانے والا جھوٹی قسمیں کھا کر سامان فروخت کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہے۔
- ۱۹ حضور سید عالم ﷺ کے تہبند کا اگلا حصہ کچھ نیچا ہوتا تھا۔
- ۲۰ نصف پنڈلیوں تک تہبند وغیرہ باندھنے کا حکم ہے البتہ ٹخنوں تک بلا کراہت جائز ہے۔
- ۲۲ عورتیں دوپٹہ وغیرہ میں حفاظت کیلئے سر پر صرف ایک پیچ دیں۔
- ۲۳ پیلا اور سرخ خضاب جائز ہے۔
- ۲۳ سیاہ خضاب والے کاروز حشر منہ کالا ہوگا۔
- ۲۴ بال کٹانے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔
- ۲۵ سیاہ خضاب والا مکرو فریب کا لباس پہننے والا ہے۔
- ۲۶ سپیدی نور ہے لہذا اسکو سیاہ خضاب سے زائل نہ کرو۔
- ۲۷ حنا اور کتم کا خضاب حضرت خلیل اللہ کی سنت اور سیاہ خضاب فرعون کا طریقہ ہے۔
- ۳۱ ایک مشیت سے داڑھی مونچھ زیادہ ہو جائے تو اسکو تراش دینا سنت ہے۔
- ۳۱ لمبیں پست اور داڑھیاں دراز رکھو۔
- حضور کا فرمان کہ مجھے میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں پست کرنے کا حکم دیا اور اسکے پس منظر میں سگ ایران خسرو پرویز کا واقعہ۔
- ۳۵ حضرت روبیع کی طویل حیات کی خبر حضور نے دی۔
- ۳۶ داڑھی منڈانا مجوسیوں مچھندروں کی صورت بنانا ہے۔
- ۳۸ مشلہ کرنا، بد عہدی، خیانت اور بچوں کا قتل نا جائز ہے۔
- ۳۹ کسی بھی جاندار کا مشلہ کرنا جائز نہیں۔
- ۴۱ داڑھی منڈانا بالوں کا مشلہ کرنا ہے اور یہ حرام ہے۔

- ۴۲ ..... ختنہ کرانا بھی خصال فطرت سے ہے
- ۴۴ ..... جسم کے بالوں کو صاف کرنے کیلئے نورہ کا استعمال سنت ہے

### ختنہ

- ۴۵ ..... نو مسلم کا ختنہ ضرور کرایا جائے خواہ حجام کے ذریعہ ہی ہو
- ۴۶ ..... لڑکیوں کا ختنہ نہ کرایا جائے

### مصافحہ و معانقہ

- ۴۷ ..... مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں
- ۴۸ ..... مقام ترغیب و ترہیب میں غالباً ادنیٰ کو ذکر کیا جاتا ہے
- ۴۹ ..... مصافحہ کیلئے جھکنا جائز نہیں
- ۴۹ ..... صحیح بخاری کی حدیث سے دونوں ہاتھوں کا مصافحہ ثابت ہے
- ۵۰ ..... مصافحہ کے ذریعہ دل کے کینے نکل جاتے ہیں
- ۵۲ ..... معانقہ کا رواج حضرت خلیل اللہ کے زمانہ سے ہے
- ۵۳ ..... حضور نے حسنین کریمین اور حضرت ابن عباس سے معانقہ فرمایا
- ۵۴ ..... حضرت اسید بن حضیر نے حضور سے معانقہ کیا
- ۵۵ ..... حضرت ابوذر غفاری سے حضور نے معانقہ فرمایا
- ۵۶ ..... حضور نے صدیق اکبر کو گلے لگایا
- ۵۷ ..... حضرت صدیق اکبر کا بارگاہ رسالت میں مقام و مرتبہ
- ۵۸ ..... حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے حضور کی موجودگی میں اعلان حق فرمایا۔
- ۵۹ ..... حضرت صدیق اکبر اور عشق رسول کا عظیم واقعہ
- ۶۰ ..... حضرت عثمان غنی سے حضور نے معانقہ فرمایا اور آپ کی فضیلت
- ۶۱ ..... سفر و حضر ہر جگہ معانقہ سنت ہے
- ۶۱ ..... حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے گلے لگایا
- ۶۲ ..... حضرت جعفر طیار سے حضور نے معانقہ فرمایا

- ۶۲ ..... حضرت بھیسہ اور حضرت ہالہ کو حضور نے گلے لگایا
- ۶۲ ..... پانی اور نمک وغیرہ ضروری چیزوں سے لوگوں کی معاونت کرتے رہو

### سلام

- ۶۴ ..... گھر والوں کو سلام کرو کہ گھر میں برکت ہوتی ہے
- ۶۴ ..... گھر والوں کو سلام کرو کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا
- ۶۵ ..... بوقت ملاقات جھکنا جائز نہیں
- ۶۶ ..... سلام کا جواب دینے کیلئے بہتر ہے کہ آدمی تیمم کر لے
- ۶۷ ..... اللہ تعالیٰ کے یہاں بزرگی تقویٰ کی بنیاد پر ہوتی ہے
- ۷۰ ..... پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی ہے
- ۷۰ ..... نیک برتاؤ کرنے والے جلد جنت میں جائیں گے
- ۷۱ ..... کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی ضرور کرو
- ۷۱ ..... لوگوں کے رسم و رواج میں اگر صریح نہ آئی ہو تو انکے خلاف نہ کرو
- ۷۵ ..... جو کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی پریشانی دور فرماتا ہے
- ۷۶ ..... مسلمانوں کو بے وجہ کافرو مشرک ٹھرانا سخت جرم ہے
- ۸۰ ..... فارسی اور اردو عربی زبان کی خادم ہیں
- ۸۲ ..... عبد بمعنی غلام قرآن و حدیث میں آیا ہے
- ۸۳ ..... رحم دل اور نرم دل مسلمانوں سے اپنی حاجتیں مانگو
- ۸۵ ..... نیک لوگوں سے استعانت کا ثبوت

### صحبت صالح و طالح

- ۸۶ ..... پرہیزگار لوگوں کو ہی کھانا کھلاؤ
- ۸۶ ..... مشک والے سے مشک ورنہ خوشبو تو مل ہی جائے گی
- ۸۷ ..... دھونکنی والے سے سیاہی نہیں تو دھواں ضرور پہونچے گا
- ۸۸ ..... کسی کو دوست سوچ سمجھ کر بناؤ



- ۹۰ ..... بدوں کی سنگت بھی کبھی غضب الہی کا موجب ہوتی ہے
- تَعْظِيم وَ شَفَقَت
- ۹۵ ..... بوڑھے مسلمان کی تعظیم اللہ رب العزت کی عظمت کا اظہار ہے
- ۹۵ ..... خوبصورت اور وجیہ لوگوں سے اپنی حاجت روائی کے طالب رہو
- ۹۸ ..... اس معنی کی احادیث حد تو اتر پر ہیں
- ۹۹ ..... کسی قوم کا معزز اور شریف آدمی آئے تو اسکی رعایت کرو
- ۱۰۰ ..... ام المؤمنین نے اس فرمان پر عمل فرمایا

### لہو و لعب

- ۱۰۳ ..... چوسر کھیلنا ناجائز ہے
- ۱۰۴ ..... بعض علما نے شطرنج کو چار شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے
- ۱۰۴ ..... تحقیق یہ ہے کہ مطلقاً منع ہے
- ۱۰۵ ..... تین کھیل جائز ہیں

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### شعر و شاعری

- ۱۰۷ ..... بعض اشعار حکمت اور بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں
- ۱۰۸ ..... وعظ کے اشعار جو منکرات سے خالی ہوں جائز ہیں
- ۱۰۸ ..... موسیقی کے اوزان مقررہ وغیرہ سب معیوب و ناجائز ہیں
- ۱۰۹ ..... محمود اشعار اور حدی خوانی کے اشعار جائز ہیں
- ۱۰۹ ..... حدی خوانی کے چند واقعات

### گانا مزامیر

- ۱۱۳ ..... قوالی حرام ہے
- ۱۱۳ ..... قوالی سارنگی اور ڈھول وغیرہ کا گناہ تمام حاضرین و سامعین پر ہوتا ہے
- ۱۱۳ ..... قوالی کے جواز میں بعض ضعیف قصوں کا کوئی اعتبار نہیں



- ۱۱۴ ..... مروجہ قوالی کے خلاف خلیفہ محبوب الہی کا فیصلہ
- ۱۱۶ ..... مزامیر کی آواز شیطانی آواز ہے
- ۱۱۶ ..... مزامیر میں اہل سماع اور ناہل کا فرق ہرگز معتبر نہیں
- ۱۱۷ ..... جلسہ سماع کے شرائط
- ۱۱۸ ..... غذائے روح وہ ہے جسکی طرف شریعت بلاتی ہے
- ۱۱۹ ..... زنا اور غنا پر جو مال حاصل کیا جاتا ہے اسکا حکم

### وعدہ، عاریت اور امانت

- وعدہ کرتے وقت نیت پورا کرنے کی ہو اور پھر کسی مجبوری سے نہ کر سکے تو یہ وعدہ
- ۱۲۱ ..... خلائی نہیں
- ۱۲۳ ..... خط مکتوب الیہ کی ملک اس وقت ہوتا ہے جب کاتب اسی پر جواب نہ چاہے
- ۱۲۳ ..... پڑوسی کے حقوق سے یہ بھی ہے کہ اسکی پردہ پوشی کرو
- ۱۲۵ ..... اپنے گھر کے خوشبودار کھانوں سے پڑوسی کو اپنے اندر دو
- ۱۲۶ ..... قیامت میں منڈی بکری بھی سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی
- ۱۲۹ ..... قیامت کے حالات حضور کے پیش نظر ہیں
- ۱۳۰ ..... قیامت میں حقدار ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں گے
- ۱۳۱ ..... اللہ رب العزت پانچ بندوں کے آپسی حقوق معاف فر دیتا ہے
- ۱۳۱ ..... اول۔ حاجی کہ، پاک کمائی اور پاک نیت سے حج کرے
- ۱۳۲ ..... دوم۔ شہید بحر کہ خاص اللہ عزوجل کی رضا چاہے
- ۱۳۳ ..... سوم۔ شہید صبر یعنی وہ سنی مسلمان جسکو ظالم نے بیکیسی و مجبوری کی حالت میں قتل کیا۔
- چپارم۔ مدیون جس نے بحاجت شرعیہ دین لیا اور اسکی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہ
- ۱۳۴ ..... کی اور آخر کار موت آگئی
- ۱۳۶ ..... پنجم۔ اولیائے کرام کہ بھص قطعی قرآن مجید روز قیامت ہر خوف و غم سے محفوظ ہیں
- ۱۳۷ ..... صحابہ کرام کی لغزشیں معاف ہیں
- ۱۳۷ ..... حضرت عثمان غنی کیلئے بشارت کہ ان پر کوئی مواخذہ نہیں

- ۱۳۷ اللہ جل جلالہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو کوئی گناہ اسے نقصان نہیں دیتا۔۔۔۔۔
- ۱۳۸ کلمہ توحید کے معنی عوام، خواص، اہل ہدایت اور اخص الخواص کے نزدیک مختلف ہیں، اور ار باب نہایت کے نزدیک ”لا موجود الا اللہ“، ہیں۔۔۔۔۔

### ہد یہ وصلہ رحمی

- ۱۴۱ ہد یہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔۔۔۔۔
- ۱۴۳ وصلہ رحمی سے عمر دراز ہوتی ہے۔۔۔۔۔

### غیبت و دھوکہ

- ۱۵۳ فاسق کی غیبت اسکے فسق میں جائز ہے۔۔۔۔۔
- ۱۵۳ بد مذہب کی برائیاں ضرور بیان کرو۔۔۔۔۔
- ۱۵۴ ترک موالات ہر کافر سے ضرور ہے۔۔۔۔۔
- ۱۵۴ نان کو آپریشن جو بعض لیڈروں نے نکالا تھا وہ محض بے بنیاد تھا۔۔۔۔۔

www.alphazraanetwork.org

### ظالم و مظلوم

- ۱۵۹ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی دو فرشتوں کے ذریعہ مدد فرماتا ہے۔۔۔۔۔
- ۱۶۰ فاروق اعظم نے ایک عام مصری کو ایک امیر زادے سے انصاف دلوایا۔۔۔۔۔

### اچھے اور برے نام

- ۱۶۲ حضور نیک فال لیتے تھے لیکن بدشگونی نہیں مانتے تھے۔۔۔۔۔
- ۱۶۳ اچھے نام سے حضور خوش ہوتے اور برے نام تبدیل فرما دیتے۔۔۔۔۔
- ۱۶۵ حضور کے نام پر کسی کا نام ہو تو وہ جہنمی عذاب سے محفوظ رہے گا۔۔۔۔۔
- ۱۶۶ مشورہ میں محمد نام کے اشخاص کو ضرور شریک کرو۔۔۔۔۔
- ۱۶۶ بچے کا نام محمد رکھو اور اسکی عزت بھی کرو۔۔۔۔۔
- ۱۶۷ اپنے بچوں میں کسی کا نام محمد ضرور رکھو۔۔۔۔۔
- ۱۶۷ محمد نام کی برکت اسی وقت ہے جب سنی صحیح العقیدہ ہو۔۔۔۔۔

۱۶۹ ..... بندوں میں کسی کا نام ملک الاملاک نہ رکھا جائے

سجدہ تعظیمی

۱۷۲ ..... سجدہ خاص حق خدا ہے

## عورتوں کے احکام

۱۷۶ ..... قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت

۱۷۶ ..... حضرت زبیر نے حسن تدبیر سے اپنی اہلیہ کو مسجد جانے سے روکا

۱۷۶ ..... دور فاروقی تک عورتوں کا مسجد جانا تا کیداً ممنوع نہ تھا

۱۷۹ ..... عورت حج کو جائے تو کسی محرم کے ساتھ ہی جائے

۱۷۹ ..... جس کا محرم نہ ہو وہ حج کی ادائیگی کیلئے نکاح کرے

۱۸۰ ..... عورتوں کو لکھنا سکھانا شرعاً ممنوع ہے

## حقوق والدین

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۱۹۱ ..... والدین کی خدمت کو حضور نے جہاد پر مقدم رکھا

۱۹۲ ..... ماں باپ کی اطاعت کرو خواہ وہ تجھے مال سے جدا کر دیں

۱۹۳ ..... ماں باپ کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا

۱۹۴ ..... مال کیلئے باپ سے مخاصمت بے حیائی و بے باکی ہے

ایک ضعیف باپ کا حضور کی بارگاہ میں شکوہ اور دردناک اشعار سنکر حضور کا گریہ فرمانا

۱۹۵ ..... قضاۃ باپ بیٹے کی ملک جدا ہے

۱۹۶ ..... باپ بیٹے کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے

۱۹۸ ..... تین حق ماں کے اور ایک باپ کا ہوتا ہے

۱۹۹ ..... خدمت کرنے میں ماں کو باپ پر ترجیح دے

۱۹۹ ..... ماں اگر چاہے کہ بیٹا باپ کی نافرمانی یا اسکو ایذا پہونچائے تو بیٹا ہرگز نہ مانے۔

۲۰۲ ..... ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی انکے حقوق باقی رہتے ہیں

- ۲۰۲ ..... باپ کے دوست سے بھی حسن سلوک کرو
- ۲۰۴ ..... والدین کے حقوق سے اولاد عہدہ برآ نہیں سکتی
- ۲۰۷ ..... ماں باپ کے انتقال کے بعد کس طرح انکے ساتھ نیک سلوک کرے
- والدین کی طرف سے حج بدل کرے تو والدین کی روحیں آسمانوں میں خوش ہوتی ہیں
- ۲۰۸ ..... ماں باپ کی طرف سے حج بدل کرنے پر دس حج کا ثواب ملتا ہے
- ۲۰۸ ..... ماں باپ کا قرض ادا نہ کرنے والا نافرمان لکھا جاتا ہے
- ۲۰۹ ..... ماں باپ کی یادوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرنے والا حج مقبول کا ثواب پاتا ہے
- ۲۱۰ ..... ایک واقعہ جس میں باپ کی قبر سے آواز آئی اور اس نے اپنے بیٹے سے زیارت قبر نہ کرنے کی شکایت فرمائی
- ۲۱۰ ..... وہ تین شخص جنکی بھلائیوں کی برکت سے انکو غار سے نجات ملی

www.alahazratnetwork.org

### جانوروں سے سلوک

- ۲۱۸ ..... بلی کو قید رکھنے کے سبب ایک عورت جہنم میں گئی
- ۲۱۸ ..... جانور پر ظلم کا فردی سے سخت تر ہے

### جانور پالنا

- ۲۲۰ ..... کتاب پالنے سے ہر دن ایک قیرا ثواب کم ہوتا رہتا ہے
- ۲۲۱ ..... کالا کتا شیطان ہے
- سفید مرغ پالنے کی برکت سے شیطان، جادوگر اور کاہن کی برائیوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے
- ۲۲۲

### موذی جانور

- ۲۲۳ ..... ذوا لطفیتین اور اترسانپ کی دو خبیث تر قسمیں ہیں
- ۲۲۳ ..... ذوا لطفیتین کی دم چھوٹی اور پشت پر دو سفید دھاریاں ہوتی ہیں



- ۲۲۳ ..... ابتر کی دم چھوٹی اور رنگ نیلا ہوتا ہے۔
- ۲۲۴ ..... جس نے سانپ مارا گویا اس نے ایک کافر مارا۔
- ۲۲۵ ..... کوا، سانپ، بچھو، چوہا اور بورایا ہوا کتا حرم میں بھی مارا جائے۔
- ۲۲۵ ..... کوا، چیل، بچھو، چوہا اور بورایا ہوا کتا حرم میں بھی قتل کیا جائے۔
- ۲۳۱ ..... گھر میں ساکن سانپوں کو تین دن کی مہلت دو پھر بھی ظاہر ہوں تو مارا ڈالو۔
- ۲۳۲ ..... سپید رنگ سانپ جو سیدھا چلتا ہے اسکو انداز و تحذیر سے قبل مارنا ممنوع ہے۔
- ۲۳۳ ..... انداز کے طریقے پانچ ہیں۔

## کتاب التوبہ

### فضائل توبہ

- ۲۳۷ ..... آدمی کی ہر بات کراہتیں لکھتے ہیں۔
- ۲۳۷ ..... توبہ کیلئے بلندی پر جانے کی حکمت [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۲۴۲ ..... علانیہ گناہ میں علانیہ توبہ کی حکمتیں بظاہر پانچ ہیں۔
- ۲۴۶ ..... بد مذہب توبہ کرے تو صلاح حال تک اسکا انتظار کریں۔

## کتاب الزہد

- ۲۵۱ ..... جو اخلاص کے ساتھ پارسا بنے گا اللہ تعالیٰ اسے پارسا بنادے گا۔
- ۲۵۳ ..... اہل انقطاع و اصحاب تجرید نے اپنے رب سے کچھ نہ رکھنے کا عہد باندھا ہے۔
- ۲۵۴ ..... دنیا میں یوں رہ کہ تو مسافر ہے۔
- ۲۵۶ ..... دنیا بے گھروں کا گھر ہے اور اس کیلئے جو جمع کرے وہ بے عقل ہے۔
- ۲۵۹ ..... ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتی مگر خاک۔
- ۲۶۰ ..... تلاش حلال اور فکر معاش و تعاطی اسباب ہرگز منافی توکل نہیں۔



# کتاب الدعوات

## فضائل دعا

- ۲۶۷ ..... اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت سے ساتھ ہونا ہر شی کیلئے ہے
- ۲۶۷ ..... اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں
- ۲۶۹ ..... دعا دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے
- ۲۷۳ ..... دعا کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور اسکی برکت سے خلق کو روزی ملتی ہے۔
- ۲۷۴ ..... ملائکہ اہل زمین کیلئے دعائے استغفار کرتے ہیں
- ۲۷۵ ..... قضائے معلق کی قسمیں
- ۲۷۶ ..... احکام شرعیہ ظاہریہ بھی اسکی نظیر ہیں

## آداب دعا

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

- ..... خدائے تعالیٰ ہاتھ خالی نہیں پھیرتا
- ۲۸۰ ..... دعا طائر ہے اور درود شہہ پر، طائر بے پر کیا اڑ سکتا ہے
- ۲۸۳ ..... رب قدیر سے بڑی چیز مانگے
- ۲۸۶ ..... آیت کریمہ کا ختم تمام مومنین کیلئے بشارت ہے
- ۲۸۷ ..... اسم اعظم پر مشتمل دو آیتیں
- ۲۸۸ ..... اسم اعظم پر مشتمل دعا

## قبولیت دعا کے اوقات

- ۲۹۰ ..... جمعہ کے دن وہ کونسی ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟
- ۲۹۳ ..... اس سلسلہ میں چالیس اقوال ہیں مگر درراج اور قوی ہیں
- ۲۹۵ ..... فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے
- ۳۰۰ ..... اذان، جہاد اور بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے

## کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے

- ۳۰۴ ..... منصف بادشاہ، مومن کیلئے پیٹھ پیچھے، مظلوم اور والدین کیلئے دعا قبول ہوتی ہے
- ۳۰۵ ..... حاجی سے واپسی پر گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کراؤ
- ۳۰۹ ..... عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے
- ۳۱۹ ..... دن میں ایک نیت سے چار رکعت سے زیادہ نہ پڑھے

## کتاب الذکر

- ۳۲۵ ..... فرشتوں کی جماعت مجالس ذکر کو ڈھونڈ کر شریک ہوتی ہے
- ۳۳۴ ..... کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کا ذکر کرتے اٹھو
- ۳۴۰ ..... ہر محبوب خدا کا ذکر محل نزول رحمت ہے

## کتاب الفرائض

- ۳۴۸ ..... اقرار وصیت کے چند طریقے
- ۳۵۰ ..... وارثین کیلئے اتنا چھوڑ جانا بہتر ہے کہ جس کو سب سے کم ملے وہ چار ہزار درہم پائے
- ۳۵۲ ..... درہم و دینار میں انبیاء کرام کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے

## کتاب الساعة

- ۳۶۳ ..... دجال کے حکم پر جس مومن کو دو ٹکڑے کیا جائیگا وہ سب سے بڑا شہید ہے
- ۳۶۴ ..... دجال کی افکار فاسدہ سوتے وقت بھی اسکا پیچھا نہیں چھوڑیں گی
- ۳۶۵ ..... دجال اور ابن صیاد میں مماثلت
- ۳۶۶ ..... ولی کامل کا دل بیدار رہتا ہے
- ۳۶۹ ..... میزان عدل میں کلمہ شریف کا کاغذ ننانوے رجسروں پر بھاری ہوگا
- ۳۷۰ ..... قیامت میں خداوند قدوس کا دیدار پر انوار ہوگا

- ۳۷۱ ..... پل صراط دوزخ کی پیٹھ پر نصب ہوگا
- بعض مسلمان جو دوزخ میں جائینگے انکے سجدوں کے نشانات کو دوزخ کی آگ نہیں  
جلائے گی
- ۳۷۱ ..... ایک دوزخی کا واقعہ جو تہدرتج جنت میں داخل ہوگا
- ۳۷۲ ..... عرش اعظم پر حضور جلوس فرمائیں گے
- ۳۸۹ ..... امام واحدی پر امام احمد رضا کا رد
- ۳۸۹ ..... حدیث ”لا اغنی عنکم الخ“ میں نفی اغنائے ذاتی کی ہے نہ کہ عطائی کی
- ۳۹۱ ..... حوض کوثر ایک ماہ کی مسافت کے برابر لمبا ہے
- ۳۹۶ ..... حوض کوثر مربع ہے اور اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے
- ۳۹۶ ..... جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو نفس کو ناگوار ہیں اور دوزخ کو ایسی چیزوں  
سے جو نفس کو مرغوب ہیں
- ۴۱۲ ..... ابوطالب نے آخر وقت تک کلمہ نہیں پڑھا
- ۴۱۴ ..... ابوطالب کا عذاب حضور کے طفیل ہلکا کر دیا گیا
- ۴۱۵ ..... دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابوطالب پر ہے
- ۴۱۶ ..... حضرت فاطمہ بنت اسد کیلئے حضور نے اپنے دست اقدس سے لحد کھودی
- ۴۱۷ ..... صدیق اکبر کے والد کا مشرف بہ اسلام ہونے کا واقعہ
- ۴۱۹ ..... ابولہب کو حضور کے طفیل عذاب میں تخفیف ملی
- ۴۲۱


## کتاب الفضائل

- ۴۲۵ ..... تلاوت قرآن پر ثواب کی ایک جھلک
- ۴۲۶ ..... قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے
- ۴۲۷ ..... صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے صدیق اکبر تھے
- ۴۲۷ ..... حضرت عمر علم کے نوحے لے گئے
- ۴۲۸ ..... سورہ بقرہ وآل عمران جو تلاوت کریگا اسکی شفاعت یہ دونوں قیامت میں کریں گی

۴۳۴

تلاوت کے وقت پان وغیرہ کھانا بے ادبی ہے

حامل قرآن کو مٹی قبر میں نہیں کھاتی





# فہرست مسائل ضمنیہ جلد چہارم

## کتاب المناقب

### حضور افضل المخلوق

- ہر نبی کے واسطے ایک دعا تھی، جو وہ دنیا میں کر چکے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعا قیامت کے لئے اٹھا رکھی ہے۔ ۵
- سب سے پہلے حضور اقدس ﷺ مرقد انور سے اٹھیں گے۔ ۵
- حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے، سوا سب حضور اقدس ﷺ کے زیر نشان ہونگے۔ ۵
- قیامت کے دن امت مصطفویٰ اثر و ضو سے درخشندہ رخ، تابندہ اعضا ہوگی۔ ۶
- اہل محشر کا شفاعت کے لئے انبیائے کرام کے حضور جانا اور ان کا انکار اور حضور اقدس ﷺ کا باب شفاعت کھولنا۔ ۷
- جنت کے دروازوں کی چوڑائی کتنی ہے؟ ۹
- اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ کو بہتر مخلوق، بہتر جماعت، بہتر قبیلہ اور بہتر خاندان میں رکھا۔ ۱۵
- یہود و نصاریٰ کی دینی باتیں سننے میں کیا خرابی ہے؟ ۱۶
- حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوقت نزول بآنکھ بدستور منصب رسالت پر ہونگے حضور سید المرسلین ﷺ کے امتی بن کر رہیں گے۔ ۱۷
- حضور اقدس ﷺ کا اسم گرامی آفرینش خلق سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا گیا۔ ۱۸
- اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کو اس لئے پیدا فرمایا کہ ان پر اپنے حبیب کی قدر و منزلت ظاہر فرمائے۔ ۱۸
- آدم و عالم سب حضور اکرم ﷺ کے طفیل ہیں۔ ۱۹



- ۲۰ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے حضور اقدس ﷺ کی امت میں ہونے کی دعا فرمائی
- ۲۳ زبور مقدس میں فضائل رسول ﷺ
- ۲۷ امت محمدی علی صاحبہا التحیۃ والثناء مانے میں موخر اور مرتبہ میں مقدم ہے
- پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے
- ۲۹
- ۳۲ براق کے قدم حدنگاہ پر پڑتے تھے
- حضرت ابراہیم و عیسیٰ روز قیامت نبی آخر الزماں کی امت میں ہونگے علیہم الصلوٰۃ والسلام
- ۳۳
- ۳۴ حضور اکرم ﷺ کے اول و آخر، ظاہر و باطن ہونے کی وضاحت
- ۳۴ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کی جان کے سوا کسی جان کی قسم یاد نہ فرمائی
- ۳۶ ”وسیلہ“ کیا ہے؟
- ۳۷ خدا و رسول جس بات کو بکلمہ امید و ترجی بیان فرمائیں وہ یقینی الوقوع ہے
- ۳۷ بعد اذان درود پاک پڑھی جائے، پھر دعائے وسیلہ کی جائے
- ۳۷ ایک بار درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے
- ۳۷ جو حضور اکرم ﷺ کے لئے دعائے وسیلہ کریگا اس پر آپ کی شفاعت اترے گی

### معجزات

- ۴۰ حدیبیہ میں صحابہ کرام کی تعداد پندرہ سو تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
- حضور اکرم ﷺ نے اپنی انگشتان مبارک سے اپنے والے پانی کے لئے فرمایا:
- ۴۰ پاک پانی کی طرف آؤ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک و برکت والا ہے
- ۴۱ بحیرہ راہب کا واقعہ
- ان اکابر ائمہ کے اسمائے گرامی جنہوں نے اپنی تصانیف میں حضور اقدس ﷺ کا سایہ نہ ہونے کی صراحت فرمائی اور ان کی عبارات
- ۴۶ حضور پر نور کا سایہ نہ ہونے پر خصائص کبریٰ کی عبارت
- ۴۷ ”انموذج اللیب“ کی عبارت

- ۴۷ ..... شفا شریف کی عبارت
- ۴۷ ..... نسیم الریاض کی عبارت
- ۴۸ ..... مثنوی شریف کا شعر اور اس پر حضرت بحر العلوم کی تشریح
- ۴۹ ..... مواہب لدنیہ کی عبارت
- ۴۹ ..... ایک یہودی کی خباثت کا واقعہ
- ۴۹ ..... زرقانی کی عبارت
- ۵۰ ..... تفسیر مدارک کی عبارت
- ۵۰ ..... افضل القرئی کی عبارت
- ۵۱ ..... فتوحات احمدیہ کی عبارت
- ۵۱ ..... اسعاف الراغبین کی عبارت
- ۵۲ ..... مجمع البحار کی عبارت
- ۵۲ ..... مدارج النبوة کی عبارت
- ۵۲ ..... مکتوبات شیخ مجدد الف ثانی کی عبارت [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۵۲ ..... تفسیر عزیزی کی عبارت
- ۵۲ ..... دلیل شکل اول سے سایہ نہ ہونے کا اثبات اور اس کے مقدمات کی تثبیت
- ۵۵ ..... حضور رحمت عالم ﷺ نے پیدا ہو کر سجدہ کیا اور ”رب ہب لی امتی“ فرمایا
- ۵۵ ..... جب آنحضرت ﷺ کو قبر شریف میں اتارا تو آپ آہستہ آہستہ ”امتی، امتی“ فرما رہے تھے
- ۵۵ ..... فضائل رسول کے بارے میں امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں کو درود
- ۵۵ ..... مندانہ و پرتا شیر، نصیحت
- ۵۷ ..... معجزات و کمالات رسول ﷺ کے بارے میں ائمہ دین کا وطیرہ
- ۵۷ ..... فائدہ جلیلہ
- ۵۷ ..... جسم اقدس و لباس انفس پر مکھی نہ بیٹھتی تھی
- ۵۸ ..... جوں اور مچھر آپ ﷺ کو ایذا نہ دیتے تھے

- ۵۸ کلمہ ”محمد رسول اللہ“ کے سب حروف بے نقطہ ہیں، اس پر ایک لطیفہ \_\_\_\_\_
- جس جانور پر رسول اللہ ﷺ سوار ہوتے، عمر بھر ویسا ہی رہتا آپ کی برکت سے
- ۶۰ بوڑھا نہ ہوتا \_\_\_\_\_
- ۶۰ حضور انور ﷺ جیسا روشنی میں دیکھتے ویسا ہی تاریکی میں دیکھتے \_\_\_\_\_
- ۶۱ ابوبن کریمین حضور اقدس ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ ایمان لائے \_\_\_\_\_
- ۶۲ حضور افضل المخلوق ﷺ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف و احسن ہیں \_\_\_\_\_
- ۶۲ آپ ﷺ انسان ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ الطف ہیں \_\_\_\_\_
- مقدمہ اولیٰ جس میں وجود اقدس کا سایہ نہ ہونے کے بارے میں اس خدشہ کا
- ۶۳ جواب ہے کہ ”اگر ایسا ہوتا تو مثل حدیث“ ”ستون حنانہ“ مشہور و مستفیض ہوتا“ \_\_\_\_\_
- ۶۳ حضور رسالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب \_\_\_\_\_
- ۶۴ حضرت مسلم ابن یسار تابعی کا نماز میں کمال انہماک کا واقعہ \_\_\_\_\_
- صحابہ کرام پر رسول اللہ ﷺ کے رعب و ہیبت کی جو کیفیت طاری تھی ہماری عقول
- www.alahazratnetwork.org
- ۶۵ ناقصہ اس کی مقدار کے ادراک سے عاجز ہیں \_\_\_\_\_
- مرور زمان و تکرر حضور کی وجہ سے صحابہ کرام کی حالت میں کمی نہ ہوئی بلکہ زیادتی
- ۶۵ ہوتی رہی \_\_\_\_\_
- ۶۵ بارگاہ رسالت کے لئے قرآن عزیز کے سکھائے ہوئے آداب \_\_\_\_\_
- ۶۶ ایمان حضور اقدس ﷺ کی تعظیم و محبت کا نام ہے \_\_\_\_\_
- ۶۶ مقدمہ ثانیہ \_\_\_\_\_
- ۶۷ حضور اقدس ﷺ غالب اوقات صحابہ کرام کو آگے چلنے کا حکم فرماتے \_\_\_\_\_
- ۶۸ مقدمہ ثالثہ \_\_\_\_\_
- اکثر احادیث حلیہ شریفہ حضرت ہند ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشتہر ہوئیں
- ۶۸ نہ اکابر صحابہ سے \_\_\_\_\_
- حضرت ہند ابن ابی ہالہ حضرت فاطمہ کے اخپانی بھائی اور حضرات حسنین کریمین
- ۶۸ کے ماموں تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین \_\_\_\_\_



- ۶۹ ..... مقدمہ رابعہ
- ۶۹ ..... سفر میں صحابہ کرام حضور کے لئے سایہ دار پیڑ چھوڑ دیتے اور جو کہیں سایہ نہ ملتا تو کپڑے وغیرہ کا سایہ کر لیتے
- ۶۹ ..... یہ تسلیم نہیں کہ مجرد خرق عادت باعث تو فرو داعی نقل اکثر حاضرین ہو، اور اسکی چند امثلہ
- ۷۰ ..... غزوہ خیبر میں مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لئے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا
- ۷۰ ..... تورات میں اس امت کا وصف ”رعاة الشمس“ کے ساتھ وارد ہوا، یعنی آفتاب کے نگہبان، کہ بغرض نماز اس کے تبدل احوال کے جو یاں رہتے ہیں
- ۷۰ ..... لشکر خیبر کی تعداد سولہ سو تھی
- ۷۲ ..... شیطان حضور اکرم ﷺ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا
- ۷۳ ..... حالت خواب میں حضور اکرم ﷺ سے سنی ہوئی بات کے بارے میں ضابطہ
- ۸۱ ..... مجاہدین کی فضیلت
- ۸۲ ..... سفر معراج میں حضور اکرم ﷺ کو چند گناہوں کے عذاب دکھائے گئے
- ۸۳ ..... بارگاہ خداوندی میں جنت کی عرض اور خداوند قدوس کا اسکو جواب
- ۸۳ ..... دوزخ کی عرض اور خدائے قہار و جبار کا اسکو جواب
- ..... شب معراج انبیائے کرام کا رب تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کرنا اور سب کے بعد حضور خاتم الانبیاء کا حمد الہی فرمانا
- ۸۵ ..... سفر معراج میں صاحب معراج کی کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟
- ۸۶ ..... حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام خالہ زاد بھائی ہیں
- ۸۶ ..... دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی کھجڑی ہوئی
- ۸۷ ..... سدرۃ المنتہی کے اوصاف
- ۸۸ ..... رسول اکرم ﷺ کے اوصاف
- ۸۹ ..... خصائص رسول ﷺ
- ۸۹ ..... پچاس نمازوں کی فرضیت اور ان میں تخفیف

- ۹۴ شب معراج رویت الہی کے بارے میں ائمہ دین کے ارشادات.....
- ۱۰۲ عالم مثال میں کچھ گنہ گاروں کے عذاب.....
- ۱۰۴ بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور کوئی فرشتہ دوبارہ نہیں آتا  
سدرۃ المنتہی کا بیان.....
- ۱۰۴ جنت کی نعمتوں کا ذکر.....
- ۱۰۵ ارادہ نیکی پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور عمل کرنے پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے.....
- ۱۰۵ صرف ارادہ گناہ پر کوئی مواخذہ نہیں اور عمل کرنے پر صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے  
معراج سے واپسی پر آپ کا عجائب و غرائب بیان کرنا اور بیت المقدس کے  
بارے میں ایک مشرک کے آپ سے سوالات اور آپ کے جوابات.....
- ۱۰۶ حضرت موسیٰ علیہ السلام قد وقامت میں میانہ تن و توش کے گٹھے ہوئے جسم والے  
تھے.....
- ۱۰۷ شب معراج حضور اقدس ﷺ نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم  
علیہم السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا.....
- ۱۰۷ حضور اکرم ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے.....
- ۱۰۸ شب معراج حضور اکرم ﷺ نے امامت فرمائی اور تمام انبیائے کرام نے آپ کی  
اقتدا فرمائی.....
- ۱۰۸ آپ ﷺ نے سفر معراج کے دوران سرزمین طیبہ، مقام طور سینا اور مقام بیت  
الحکم مولد حضرت عیسیٰ میں نمازیں ادا فرمائیں.....
- ۱۱۰ حضور ﷺ نے شب معراج جنت میں حضرت بلال کی آہٹ سنی.....
- ۱۱۲ حضور ﷺ نے شب معراج آسمانوں پر ملائکہ کی امامت فرمائی.....
- ۱۱۲ حضرات انصار کے فضائل.....
- ۱۱۸ کثرت سوالات امر خوب نہیں ہے۔
- ۱۱۸ حضور ﷺ نے غنا کی نسبت اپنی طرف بھی فرمائی کہ فرمایا: اے اللہ و رسول نے  
غنی کر دیا.....
- ۱۱۹



- ۱۲۰ ..... حضور اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ کو حرم فرمادیا۔
- ۱۲۱ ..... حضور ﷺ کو اپنے اہل میں زیادہ محبوب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں
- ..... حضور ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید ہی کو خدا اور رسول کا منعم علیہ کیوں فرمایا حالانکہ
- ۱۲۲ ..... تمام صحابہ کرام ایسے ہیں؟
- ۱۲۳ ..... اونٹوں نے بارگاہ رسالت میں سجدہ کیا۔
- ۱۲۵ ..... صحابہ کرام نے حضور ﷺ کو پناہ دینے والا اور نجات دہندہ کہا۔
- ..... حضور والہ ﷺ کا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلقاً ”سل“ فرمانا صاف
- ۱۲۵ ..... بتاتا ہے کہ آپ ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں۔
- ۱۳۰ ..... توریت و زبور سے اوصاف رسول ﷺ کا ذکر
- ..... جو ہر حال میں حضور ﷺ کو اپنا والی اور خود کو آپ کی ملک نہ جانے وہ حلاوت سنت
- ۱۳۱ ..... نہ پائے گا۔
- ..... توریت شریف کے بیان کردہ اوصاف، حضور اکرم ﷺ نہ درشت خو ہیں نہ سخت
- گو، نہ بازاروں میں چلانے والے، انہیں کنجیاں دی گئیں، ہر مظلوم کی مدد فرمائیں
- ۱۳۲ ..... گے۔
- ۱۳۵ ..... حضور ﷺ کو غیوب خمسہ کا علم بھی عطا ہوا۔
- ۱۳۸ ..... صحابہ کو برا کہنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔
- ۱۴۳ ..... حضرت حارث نے حضور ﷺ کی پناہ مانگی۔
- ..... حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے پٹتے ہوئے حضور کی دہائی
- ۱۴۳ ..... دی۔
- ..... حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی دہائی سکر غلام کو مارنے سے نہ رکے۔
- ۱۴۳ ..... اور نبی ﷺ کی دہائی سکر فوراً ہاتھ روک لیا۔ اس پر ایک سوال مقدر کا جواب۔
- ۱۴۴ ..... حدیث ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں شہید لیلیٰ نجد کی ہفوات کا رد۔
- ۱۴۶ ..... مسیح دجال کی نشانیاں۔
- ۱۴۷ ..... دجال حرمین شریفین میں داخل نہ ہو سکے گا۔

- حضرت ابو بکر صدیق نے حضور اقدس ﷺ کے حکم تصدیق پر اپنا سارا مال حاضر بارگاہ اقدس کر دیا۔ ۱۴۸
- جو بات غیر خدا کے لئے شرک ٹھہر چکی اس میں حیات و موت، قرب و بعد وغیرہ کا تفرقہ کیسا؟ ۱۵۱
- حضور اکرم ﷺ جب دودھ پیتے تھے گہوارے میں چاندان کی غلامی بجالاتا۔ ۱۵۲
- امت مرحومہ کبھی مستقل قحط میں مبتلا نہ ہوگی۔ ۱۵۷
- دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد (ﷺ)۔ ۱۵۸
- آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کرے۔ ۱۵۸
- ہر نیا سال، نیا ہفتہ اور نیا دن بارگاہ غوثیت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آئندہ ہونے والے حالات کی خبر دیتے ہیں۔ ۱۵۹
- تمام شقی و سعید حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ ۱۶۹
- لوح محفوظ آپ کے پیش نظر ہے۔ ۱۵۹
- قضائے حاجات کی ایک مجرب دعا۔ ۱۶۱
- ایک اعرابی نے خدمت اقدس میں عرض کیا: ہمارا حضور کے سوا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں۔ ۱۶۷
- حضور اکرم ﷺ نے خود اپنے نعتیہ اشعار سننے کی خواہش فرمائی۔ ۱۶۷
- حضور ﷺ کا نام قرآن میں محمد، انجیل میں احمد اور تورات میں احید ہے۔ ۱۷۰
- حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اہل عرب سے دل سے محبت کھو۔ ۱۷۰
- ایک لطیفہ۔ ۱۷۱
- جو شفاعت پر یقین نہ لائے وہ شفاعت کے لائق نہیں۔ ۱۷۱
- زمانہ اقدس حضور سید عالم ﷺ میں صرف ایک اذان ہوتی تھی بوقت خطبہ۔ ۱۷۵
- زمانہ اقدس میں مسجد نبوی کے تین دروازے تھے۔ ایک مشرق میں، دوسرا مغرب

- ۱۷۵ میں، تیسرا شمال میں جو منبر اطہر کے ٹھیک سامنے تھا، اسی پر اذان جمعہ ہوتی تھی۔۔۔
- ۱۷۵ آج اذان خطبہ سے پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوانی شروع کی۔۔۔
- ۱۷۵ اندرون مسجد اذان کا ہونا ائمہ نے منع فرمایا اور مکروہ لکھا ہے اور خلاف سنت ہے
- ۱۷۵ اندرون مسجد اذان نہ عہد اقدس میں تھی نہ دور خلفائے راشدین میں نہ کسی صحابی کی خلافت میں۔۔۔
- ۱۷۵ اسکی تحقیق نہیں کہ اندرون مسجد اذان کی بدعت کب سے ایجاد ہوئی، بعض کا قول ہے کہ ہشام بن عبد الملک مروانی بادشاہ ظالم کی ایجاد ہے۔۔۔
- ۱۷۷ پیدائش عرش کے بعد اس پر قلم نور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لکھا گیا امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والثناء میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔۔۔
- ۱۷۸ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا تمام لینا دینا سب محمد رسول اللہ ﷺ کے وسیلہ سے ہے۔۔۔
- ۱۷۸ عالم جس طرح ابتداءے آفرینش میں حضور ﷺ کا محتاج تھا یوں ہی بقا میں بھی آپ کا محتاج ہے۔۔۔
- ۱۷۹ توریت شریف میں اوصاف رسول ﷺ۔۔۔
- ۱۸۱ فتح خیبر کے دن حضور اقدس ﷺ نے حمار اہلی کے گوشت کی ممانعت فرمادی۔۔۔
- ۱۸۲ حضور ﷺ جب بھی کسی شخص خاص کے لئے دعائے مغفرت فرماتے تو وہ شہادت سے سرفراز ہوتے۔۔۔
- ۱۸۲ حضور اکرم ﷺ نے مولیٰ علی کی دکھتی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا تو وہ شفایاب ہو گئے۔۔۔
- ۱۸۵ تصاویر بنانے والے روز قیامت گرفتار عذاب ہونگے۔۔۔
- ۱۸۶ تصویر والے گھر میں ملائکہ رحمت نہیں آتے۔۔۔
- ۱۸۶ جبر و قدر میں بحث کرنے کے سبب صدیق و فاروق جیسے اعظم صحابہ پر بھی حضور ﷺ نے اظہار ناراضگی فرمایا۔۔۔



- ۱۹۲ حضرت کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ جو عبرت و موعظت کا ایک دفتر ہے۔۔۔۔۔
- ۱۹۳ حضور ﷺ جب بھی سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوتے اور دور رکعت پڑھ کر کچھ دیر مسجد میں تشریف رکھتے۔۔۔۔۔
- ۱۹۷ حضرت کعب اور ان کے دو ساتھیوں کی توبہ کی قبولیت اور معافی کے بارے میں آیات۔۔۔۔۔
- ۲۰۰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکارِ دو عالم ﷺ کا بندہ کہا۔۔۔۔۔
- ۲۰۱ حضرت عمر منبر پر وہاں بیٹھے جہاں صدیق اکبر قدم مبارک رکھتے تھے اور فرمایا: مجھے کافی ہے کہ صدیق کے قدموں کی جگہ بیٹھوں۔۔۔۔۔
- ۲۰۲ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔۔۔۔۔
- ۲۰۲ حضرت عمر جیسے اشد الناس فی امر اللہ نے برسر منبر اپنے آپ کو حضور ﷺ کا بندہ بتایا۔۔۔۔۔
- ۲۰۲ حضرت فاروق اعظم اور خدمتِ خلق۔۔۔۔۔
- ۲۰۶ حضور ﷺ نے حضرت حسن کو ہیبت و علم و سرداری بخشی اور حضرت حسین کو جرأت و کرم اور محبت و رضا عطا فرمائی۔۔۔۔۔
- ۲۰۸ حضور ﷺ اللہ عز و جل کے خلیفہ اعظم ہیں۔ اس نے اپنے کرم کے خزانے، نعمتوں کے خوان سب ان کے ارادے کے زیر فرمان کر دئے۔۔۔۔۔
- ۲۰۸ اجتماعی طور پر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔۔۔۔۔
- ۲۰۸ مدینہ منورہ کی سختی پر صابر قیامت میں مستحق شفاعت ہوگا۔۔۔۔۔
- ۲۰۹ سولہ احادیث کا ذکر جن کی پہلی آٹھ میں خود حضور نے مدینہ طیبہ کو حرم کرنے کی نسبت اپنی جانب فرمائی اور پچھلی آٹھ میں یہی نسبت صحابہ نے آپ کی طرف کی۔۔۔۔۔
- ۲۱۵ مذکورہ سولہ احادیث کے علاوہ اور احادیث جن سے مدینہ کا حرم ہونا ثابت ہے۔۔۔۔۔
- ۲۱۷ مدینہ منورہ کے حرم ہونے پر احادیث حد تو اتر پر ہیں۔۔۔۔۔
- ۲۱۸ حضور ﷺ نے دشت طیبہ کا بتا کید تام وہی ادب مقرر فرمایا جو مکہ معظمہ کے جنگل کا ہے۔۔۔۔۔

- ۲۱۸ امام الوہابیہ کے خبیث اقوال.....  
 احکام الہیہ کی دو قسمیں ہیں اول تکوینہ، جیسے احیاء امانت قضاے حاجت دفع  
 مصیبت وغیرہ عالم کے بند و بست۔ دوم تشریعیہ، کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب  
 یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا۔
- ۲۱۹.....  
 اسماعیل دہلوی کے اقوال اور ان کا رد۔
- ۲۲۰.....  
 ان آیات کا ذکر جن میں احکام تکوینیہ کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہے۔
- ۲۲۲ حضور اقدس ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض پر حرم کی اذخر  
 گھاس کا کاٹنا جائز فرمادیا۔
- ۲۲۵ یمن کے باشندے ابو شاہ نے فتح مکہ کے موقع پر حضور ﷺ کا ارشاد فرمودہ  
 خطبہ لکھوایا۔
- ۲۲۶ مکہ مکرمہ آسمان وزمین کی پیدائش ہی کے دن سے حرم محترم ہے۔
- ۲۲۶ ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں کہ: احکام شریعت حضور ﷺ کے سپرد ہیں۔
- ۲۲۷ احکام شرع حضور ﷺ کے سپرد ہونے کا قرآن مجید سے ثبوت۔
- ۲۲۷ حضرت زید ابن حارثہ کا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کا واقعہ۔
- ۲۲۷ آیت کریمہ ”ماکان لمومن ولا مومنة“ سے معلوم ہوا کہ حکم رسول دینے سے  
 کام فرض ہو جاتا ہے اگرچہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا۔
- ۲۲۸ امام شعرانی کا قول اللہ تعالیٰ کے ساتھ امام اعظم کا ادب بہ نسبت اور ائمہ کے  
 زائد ہے۔
- ۲۲۸ میزان الشریعۃ الکبریٰ میں ہے کہ حضور کو یہ منصب ملا ہے کہ شریعت میں جو حکم  
 چاہیں اپنی طرف سے مقرر فرمادیں۔ جس طرح حرم مکہ کی اذخر گھاس کا کاٹنا جائز  
 فرمادیا۔
- ۲۲۸ اوٹگھنے سے وضو نہیں جاتا۔
- ۲۲۹ نماز کا انتظار کرنے والا نماز ہی میں ہے۔
- ۲۳۱ کثرت سوالات نا پسندیدہ امر ہے۔
- ۲۳۲



- ۲۳۳ ..... حضور اکرم ﷺ نے جس بات کا حکم دیا نہ منع کیا وہ مباح و بلا حرج ہے۔
- ۲۳۳ ..... جو بات شرع میں ممنوع نہیں، اس کا منع کرنا خدا و رسول پر افترا ہے۔
- ۲۳۴ ..... یہ بات سید عالم ﷺ کے خصائص میں سے ہے کہ شریعت کے عام حکم سے جسے چاہتے مستثنیٰ فرما دیتے۔
- ۲۳۴ ..... شریعت کی دوسری قسم کی وضاحت اور چند امثال۔
- ..... احکام شرع میں حضور ﷺ کے صاحب اختیار ہونے کے ثبوت میں ۲۲ /
- ۲۳۴ ..... واقعات کا ذکر۔
- ۲۳۹ ..... ششماہی بکری کی قربانی سے متعلق احادیث کے بارے میں ایک اشکال کا دفع۔
- ۲۴۰ ..... عورت کو شوہر پر چار مہینے دس دن سوگ واجب ہے۔
- ..... حضور ﷺ نے قرآن عظیم کے حکم عام ”واشهدوا ذوی عدل منکم“ سے
- ۲۴۲ ..... حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ فرما دیا۔
- ..... حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام کو خارش کی وجہ سے ریشم
- ۲۴۶ ..... پہننے کی اجازت تھی۔ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۲۴۷ ..... حضرت مولا علی کی تین باتوں پر حضرت فاروق اعظم کا رشک، رضی اللہ تعالیٰ عنہما
- ..... دور فاروقی میں جب ایران فتح ہوا تو امیر المومنین نے حضرت سراقہ کو کسری کے
- ۲۴۹ ..... کنگن پہنائے۔
- ..... حضرت فاروق اعظم نے حضرت سراقہ کو کنگن پہنائے پھر اتار کر مال غنیمت میں
- ۲۵۰ ..... شامل فرما دیئے۔
- ..... حضرت سراقہ کے کنگن پہننے کے بارے میں حضرت امام زرقانی کا ارشاد اور اس
- ۲۵۰ ..... پر کلام۔
- ..... حضور اکرم ﷺ نے حضرت علی کو حضرت محمد بن حنفیہ کی ولادت کی خوشخبری دی
- ۲۵۱ ..... اور فرمایا: میں نے اسے اپنا نام اور کنیت دونوں بخشے۔
- ۲۵۱ ..... قول صحیح یہ ہے کہ حضور کے نام پر نام رکھنا مستحب ہے لیکن کنت درست نہیں۔
- ۲۵۱ ..... نام و کنیت جمع کرنا بطریق اولیٰ ممنوع ہے۔

- ۲۵۱ نام اقدس و کنیت مبارکہ کو جمع کرنے کے بارے میں حکم جواز کی توجیہ اور اسکا رد۔  
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مصری کے کچھ شبہات اور
- ۲۵۳ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب سے ان کا ازالہ۔  
غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ بیمار تھیں، ان کی تیمارداری کی وجہ سے آپ اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے۔
- ۲۵۴ عاملوں کو رعایا سے ہدیہ لینا حرام ہے۔
- ۲۵۶ غبن باعث خیار نہیں۔
- ۲۵۸ بعد نماز عصر غروب آفتاب تک اور بعد نماز فجر طلوع تک نفل نماز ممنوع ہے۔  
حضور اقدس ﷺ کی چچا زاد بہن حضرت ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب حضرت
- ۲۶۰ مقداد بن اسود کے نکاح میں تھیں۔  
مسح خفین کی مدت کے بارے میں حدیث حضرت خزیمہ بن ثابت کی صحت کے متعلق ارشادات ائمہ حدیث۔
- ۲۶۲ مذہب جمہور یہی ہے کہ فقط معاشرت ہی اتصال سند کے لئے کافی ہے۔
- ۲۶۴ ابن حزم جرح و تنقید میں دو اندھوں یعنی سیلاب و آتش زدگی کی طرح ہے۔  
امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین امام جدلی کو ثقہ مانتے ہیں، علامہ ابن حجر نے بھی ان کو ثقہ فرمایا۔
- ۲۶۵ حدیث خزیمہ ابن ثابت حضور ﷺ کی تفویض و اختیار میں نص صریح ہے۔  
حضرت خزیمہ کے نزدیک احکام سپرد و اختیار سید الانام علیہ السلام ہیں۔  
یہ حدیث کہ ”امت پر دشواری کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز کے وقت وضو اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کو فرض کر دیتا“ متواتر ہے۔
- ۲۶۶ امر کی دو قسمیں ہیں، حتمی اور ندبی، اور ان کا حاصل
- ۲۶۶ امر حتمی کی بھی دو قسمیں ہیں، ظنی اور قطعی اور ان کے مقتضیات
- ۲۶۶ حضور سید عالم ﷺ کے علوم سب قطعی یقینی ہیں۔

- ۲۶۶ ..... واجب اصطلاحی حضور ﷺ کے حق میں متحقق نہیں
- ۲۶۷ ..... مسواک منہ کو پاکیزہ اور رب عزوجل کو راضی کرتی ہے
- ۲۷۰ ..... شراب مردار، سوراہتوں کی بیع حرام ہے
- ..... عندا محققین کسی حدیث کی موضوعیت محض کسی کذاب کے سند میں ہونے سے نہیں
- ۲۷۱ ..... ہو جاتی جب تک دوسرے قرائن اسکی وضع کا فیصلہ نہ کریں
- ۲۷۱ ..... بعض قرائن وضع کا ذکر
- ۲۷۱ ..... حدیث ضعیف غیر موضوع پر فضائل میں عمل کرنا جائز ہے
- ..... پالتو گدھا، کیلے والا درندہ اور ذمی کافر کا گرا پڑا مال اٹھانا حرام ہے جب تک وہ اس
- ۲۷۲ ..... سے مستغنی نہ ہو
- ۲۷۲ ..... حرام کی دو قسمیں ہیں: خدا کا حرام کیا ہوا۔ رسول کا حرام کیا ہوا
- ۲۷۳ ..... حضور ﷺ کو ”شارع“ کہنا قدیم سے علمائے کرام کا عرف ہے
- ۲۷۴ ..... وہ احادیث جن میں حضور کی طرف ”امرو نہی وقضا“ کی اسناد ہے
- ۲۷۴ ..... ریشم و دیبا کا لباس پہننا اور اس پر بیٹھنا ممنوع ہے
- ۲۷۶ ..... ایک مسلمان کی بیع پر دوسرے مسلمان کو بیع کرنا ممنوع ہے
- ۲۷۶ ..... مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام نکاح دینا ممنوع ہے
- ۲۷۶ ..... ایک عورت کا دوسری کو طلاق دلوانا کہ خود اس کے شوہر سے نکاح کرے گناہ ہے۔
- ۲۷۶ ..... دارالحرب میں قرآن کریم لیجانے کی ممانعت ہے
- ۲۷۷ ..... مشک کے منہ سے پانی پینا ممنوع ہے
- ۲۷۷ ..... نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا منع ہے
- ۲۷۷ ..... کسی کو اسکی جگہ سے ہٹا کر خود بیٹھنا ممنوع ہے
- ۲۷۸ ..... پوری طرح کپڑے میں لپٹنے سے ممانعت فرمائی گئی
- ۲۷۸ ..... شہر کے باہر ہی چیز خرید لینا اور بازار میں نہ پہنچنے دینا منع ہے
- ۲۷۸ ..... اپنی مسلمان بہن کی طلاق کی شرط پر نکاح کرنا ممنوع ہے
- ۲۷۸ ..... مسلمان بھائی کے بھاؤ پر، بھاؤ کرنا ممنوع ہے



- ۲۷۸ ..... جانوروں کی فروخت کیلئے ان کے تھنوں میں دودھ چھوڑے رکھنا منع ہے۔
- ۲۷۹ ..... نکاح شغار کسے کہتے ہیں؟
- ۲۷۹ ..... حضور اکرم ﷺ نے فتح خیبر کے سال متعہ اور پالتو گدھے کا گوشت حرام فرمادیا۔
- ۲۷۹ ..... بیع محافلہ، مخاضرہ، مزابنہ، ملاسہ اور منابذہ کی تعریفات واحکام۔
- ۲۸۰ ..... قابل نفع ہونے سے پہلے پھلوں کی خرید و فروخت منع ہے۔
- ۲۸۰ ..... سونے کو چاندی کے بدلے یا چاندی کو سونے کے عوض ادھار بیع کرنا ممنوع ہے۔
- ۲۸۱ ..... ”ولا“ کی بیع وہبہ ممنوع ہے۔
- ۲۸۱ ..... ”بیع جبل الحبلہ“ کی تعریف اور حکم۔
- ۲۸۲ ..... خون اور کتے کی قیمت، بدن گودنا گدوانا اور کاہن کی اجرت کے احکام۔
- ۲۸۲ ..... سونے کی انگٹھی مردوں کے لئے ممنوع ہے۔
- ۲۸۳ ..... عید الفطر اور ایام نحر کے روزوں کی ممانعت ہے۔
- ۲۸۳ ..... حضور اقدس ﷺ نے قتل نسا و صبیان سے ممانعت فرمائی۔
- ۲۸۳ ..... عورت کو شوہر کے علاوہ کسی اور پر تین دن سے زیادہ سوگ ممنوع ہے۔
- ۲۸۴ ..... قسم مدعی علیہ پر ہوتی ہے۔
- ۲۸۴ ..... حق شفعہ کہاں اور کب تک رہتا ہے۔
- ..... حضور اقدس ﷺ نے غیر شادی شدہ زانی کے لئے ایک سال تک شہر بدر کرنے اور حد جاری کرنے کا فیصلہ فرمایا۔
- ۲۸۵ ..... گرگٹ اور چھکلی کو ماڈالنے کا حکم ہے۔
- ۲۸۷ ..... گرگٹ آتش نمرود بھڑکانے کے لئے پھونک مارتا تھا۔
- ۲۸۸ ..... زہریلے جانور کے کاٹے پر دم کرنا۔
- ..... حضور اقدس ﷺ نے بدگمانی، عیب چینی، تجسس، بغض و عناد اور قطع تعلق سے ممانعت فرمائی۔
- ۲۸۹ ..... عورت کے لئے بغیر محرم کے سفر شرعی کرنا گناہ ہے۔
- ۲۹۰ ..... عورت کو باذن شوہر صوم نفل کی اجازت نہیں۔

- ۲۹۲ نکاح کے لئے باکرہ کا سکوت بھی اذن ہے لیکن بیوہ کی صریح اجازت ضروری ہے
- ۲۹۲ مسائل مبہمہ بیان کرنا کیسا ہے؟
- ۲۹۲ خصی ہونا گناہ ہے
- ۲۹۲ مشترکہ کھجوریں ساتھی کی اجازت کے بغیر کھانا منع ہے
- ۲۹۳ نماز میں اقواء و تورک منع ہیں
- ۲۹۴ رات کو کھجور توڑنے اور کھیتی کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے
- ۲۹۴ جمعہ کے دن بوقت خطبہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا ممنوع ہے
- ۲۹۵ احتکار، زہر کا استعمال اور چیتے کی کھال پر بیٹھنا ممنوع ہے
- ۲۹۶ نماز میں سدل ثوب اور ڈھانٹا لگانا منع ہے
- قبل طلوع آفتاب خرید و فروخت اور دودھ دیتے جانوروں کو ذبح کرنے سے منع فرمایا گیا
- ۲۹۶ کھڑے ہو کر کھانا پینا منع ہے
- ۲۹۶ مسجد میں خرید و فروخت، گم شدہ چیز کی تلاش، شعر گوئی اور قبل جمعہ حلقہ بندی سے ممانعت کی گئی
- ۲۹۷ قبروں پر نماز پڑھنا گناہ ہے
- ۲۹۷ حمام میں نماز پڑھنا اور ننگے شخص کو سلام کرنا منع ہے
- ۲۹۷ خروج ریح پر ہنسنا منع ہے
- ۲۹۷ گرم گرم کھانا نہیں کھانا چاہیئے
- ۲۹۸ کھانے اور پینے کی چیز میں پھونک مارنے کی ممانعت ہے
- ۲۹۸ سجدے میں جاتے وقت زمین پر اور پانی میں پھونک مارنا منع ہے
- ۲۹۸ بھسمہ لگانے اور چہرے پر مارنے کی ممانعت ہے
- ۲۹۸ گودنا منع ہے
- ۲۹۸ بدکاروں کی دعوت کا حکم
- ۲۹۹ بلی کے گوشت اور اسکی قیمت کا حکم



- ۳۰۰ ..... پیٹ کے بچہ کی بیع ممنوع ہے
- ۳۰۱ ..... مساجد میں حد جاری کرنے کی ممانعت ہے
- ۳۰۱ ..... مجوسی کا ذبیحہ اور اس کے کتے اور پرند کا شکار ناجائز ہے
- ۳۰۱ ..... ”شریطۃ الشیطان“ کی تشریح اور حکم
- ۳۰۳ ..... باندی کی کمائی کا حکم
- ۳۰۳ ..... سفید بال اکھیڑنا منع ہے
- ..... نماز میں کوئے کی طرح ٹھونگ مارنا، درندے کی طرح چہارزانو بیٹھنا اور مسجد میں اپنے لئے ایک جگہ خاص کر لینا منع ہے
- ۳۰۴ ..... مساجد میں فخر و ریا؟
- ۳۰۴ ..... آدھا سایہ میں اور آدھا دھوپ میں بیٹھنا منع ہے
- ۳۰۴ ..... کسی کو نگلی تلوار دینا منع ہے
- ۳۰۵ ..... اسکی ممانعت ہے کہ امام اونچی جگہ پر ہو اور مقتدی اس کے پیچھے نیچی جگہ پر
- ۳۰۵ ..... پھل دار درخت کے نیچے اور نہر جاری کے کنارے رفع حاجت منع ہے
- ۳۰۵ ..... سوراخ میں پیشاب کرنا منع ہے
- ۳۰۵ ..... حرب، ولید، مرہ، حکم، ابوالحکم، ارح، نجیح، یسار، نافع اور رباح ناموں کی ممانعت ہے
- ۳۰۶ ..... رات میں قربانی کرنا؟
- ۳۰۶ ..... مشرکین سے مصافحہ، تعظیم کے لئے ان کو کنیت سے پکارنا اور مرجبا کہنا منع ہے
- ۳۰۷ ..... موزے پر مسح اس کے اوپری حصہ پر کیا جائے گا
- ۳۰۷ ..... ہر نماز کے لئے تازہ وضو بہتر ہے
- ۳۰۸ ..... کھانے کے آخر میں انگلیاں اور پلیٹ چاٹنا سنت ہے
- ۳۰۸ ..... افطار میں تعجیل کا حکم
- ۳۰۸ ..... خطبہ مختصر ہونا چاہیئے
- ۳۰۹ ..... گوبر اور میٹگنی سے استنجاء ممنوع ہے
- ۳۰۹ ..... ان عورتوں کے پاس جانا ممنوع ہے جن کے شوہر گھروں پر نہ ہوں

- پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بیٹی سے اور خالہ کے ہوتے ہوئے  
 ۳۰۹ اس کی بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
- ۳۰۹ سفر سے واپسی کے وقت گھر میں رات کو نہیں آنا چاہیے۔
- اس بات کی ممانعت ہے کہ تین آدمیوں میں سے دو چپکے چپکے باتیں کریں اور تیسرا  
 ۳۱۰ علیحدہ رہے۔
- حضور اقدس ﷺ کی طرف امر، نہیں اور قضا کی نسبت اتنی احادیث میں وارد ہے  
 ۳۱۰ کہ ان کے جمع کو مجلد کبیر بھی نا کافی ہے۔
- حضور اقدس ﷺ کو احکام شرعیہ سے فقط آگاہی کی نسبت نہیں بلکہ آپ حاکم ہیں،  
 ۳۱۱ صاحب فرمان مالک افتراض ہیں اور والی تحریم ہیں۔
- ۳۱۱ تفویہ الایمان کا رد۔
- ۳۱۱ قصیدہ بردہ شریف کے شعر ”نبینا الامراخ“ کی تشریح۔
- اللہ و رسول کو ایک ضمیر تشبیہ میں جمع کرنے کے بارے میں حضور کی ناپسندیدگی کی  
 ۳۱۲ حکمت و توجیہ۔ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۳۱۳ حضرت نووی کی بیان کردہ توجیہ پر کلام۔
- ۳۱۳ اضرار کو اظہار مقصود میں وہاں مغل سمجھا جاتا ہے جہاں خوف التباس ہو۔
- ۳۱۷ صاحب تفویہ کے خانہ ساز شریکیات۔
- ۳۱۷ امام الطائفہ کی سخت عیاری و مکاری۔
- ۳۱۸ اللہ و رسول چاہیں تو یہ کام ہو جائے، امام الطائفہ کے اس کلمہ کو شرک کہنے کا رد۔
- حقیقت امر یہ ہے کہ مشیت حقیقہ ذاتیہ مستقلہ اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے  
 ۳۲۰ اور مشیت عطائیہ تابعہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کی ہے۔
- ۳۲۱ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی نسبت امت مرحومہ کا اعتقاد۔
- ۳۲۱ ”واو“ مطلق جمع کے لئے ہے نہ مساوات و معیت کے واسطے اور اسکے شواہد۔
- ۳۲۳ اسماعیل دہلوی کی ذکر کردہ روایت منقطعہ کا جواب۔
- ۳۲۴ اس روایت سے متعلق شیخ محقق کا بیان کردہ نکتہ۔

- ۳۲۴ ..... علامہ طیبی کا ایک توجیہ لطیف و دقیق کی طرف اشارہ اور اسکی تقریر
- ۳۲۵ ..... علامہ طیبی کی توجیہ پر علامہ علی قاری کا نقض اور اس کا جواب
- ۳۲۶ ..... ابو الطالب کو کفر کے باوجود حضور کی حمایت کرنے کا فائدہ پہونچا
- اس اعتراض کا جواب کہ کفار اعمال نیک کا آخرت میں کوئی ثواب نہ پائیں گے
- ۳۲۷ ..... تو ابو طالب کو نفع کیسے پہونچا؟
- ۳۲۸ ..... حضور اقدس ﷺ محمد، احمد، حاشر، ماجی، خاتم اور عاقب ہیں
- ۳۲۸ ..... کفر بدترین بلا ہے
- ۳۲۹ ..... وہابیہ ادعائے علم و ایمان کے باوجود شان خدا کے معنی نہ سمجھے
- ۳۲۹ ..... وہ شان جس سے خدائی لازم آئے نبی کے لئے نہیں ہو سکتی
- بھٹائے رحمانی دفع بلا، سماع ندا، فریاد رسی وغیرہ امور نزاعیہ کا لزوم الوہیت سے
- ۳۲۹ ..... کوئی تعلق نہیں

### حضور تمام کائنات کے نبی ہیں

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

- ۳۳۱ ..... پہلے نبی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے
- ۳۳۲ ..... حضور سید عالم ﷺ کی رسالت کا تمام جن وانس کو شامل ہونا اجماعی ہے
- ۳۳۲ ..... محققین کے نزدیک خاتم رسل کی رسالت ملائکہ کو بھی شامل ہے
- آیت کریمہ ”و ما رسلناک الا کافۃ للناس“ کی روشنی میں متعدد وجوہ سے
- ۳۳۲ ..... حضور ﷺ کی افضلیت مطلقہ کا بیان
- انبیائے سابقین ایک شہر کے ناظم ہوتے تھے اور حضور پر نور سلطان ہفت کشور ہیں
- ۳۳۲ ..... علیہم الصلوٰۃ والسلام
- ۳۳۳ ..... اجر اور قدر بقدر مشقت و خدمت ہوتے ہیں
- ۳۳۳ ..... حضور ﷺ کے علوم و معارف جمیع انبیاء سے اکثر و اولیٰ ہونے کی ایک دلیل
- انبیاء کو ادائے امانت و ابلاغ رسالت میں جن باتوں کی حاجت ہوتی ہے ان کا
- ۳۳۳ ..... بیان اور آیات قرآنیہ سے استدلال
- ۳۳۴ ..... یہ آدمی کی جبلت ہے کہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے



- ۳۳۴ ..... نادانوں اور جاہلوں کو فیض پہنچانے کے لئے عفو و مغفرت ضروری ہے۔
- ۳۳۴ ..... کمال عقل اصل فضائل و منبع فوائد ہے۔
- ۳۳۴ ..... اہل بادیہ و سرکان دہ کی طینت میں جفا و غلظت ہوتی ہے۔
- ۳۳۴ ..... عورت اور اہل بادیہ و سرکان دہ کو نبوت نہ ملی۔
- ۳۳۵ ..... مؤنت بقدر مؤنت اور صبر بقدر بلا دیا جاتا ہے۔
- ۳۳۶ ..... حضور اکرم ﷺ اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوئے۔
- ۳۳۶ ..... تمام اہل جہان کی عقل حضور ﷺ کی عقل کے آگے ایسی ہے جیسے تمام ریگستان دنیا کے آگے ریت کا ایک دانہ۔
- ۳۳۶ ..... حضور ﷺ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔
- ۳۳۶ ..... جس کا خدا خالق ہے محمد ﷺ اس کے رسول ہیں۔
- ۳۳۸ ..... رسول کا اپنی امت سے افضل ہونا بدیہی ہے۔
- ۳۳۸ ..... حضور ﷺ کے خصائص شریفہ پر مشتمل ایک حدیث، جس کے بارے میں امام احمد رضا کا ارشاد ہے کہ ”مسلمان پر لازم ہے کہ اس نفیس حدیث شریف کو یاد کر لے“۔

### فضائل رسول ﷺ

- ۳۳۴ ..... خصائص نبوی کے بارے میں مختلف روایات باہم متعارض نہیں ہیں۔
- ۳۳۶ ..... ابتداء ایک ہی طریقہ سے حکم قراءت تھا، پھر دعائے نبوی سے دو قراتوں پھر سات قراتوں کی اجازت ملی۔
- ۳۳۶ ..... ع۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔
- ۳۳۷ ..... ارشاد اقدس ”میرے گرد و پیش ہزار خادم دوڑتے ہو گئے“ کی توجیہ رضوی اور امام زرقانی علیہ الرحمہ کی توجیہ پر کلام اور اس بات کا ذکر کہ انہیں اس توجیہ کی کیوں ضرورت پڑی۔
- ۳۵۱ ..... ارشاد نبوی ”اختصر لی اختصارا“ کے بارہ معانی۔

- ۳۵۴ ..... روز قیامت امت محمدی تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوگی
- ۳۵۵ ..... لیکن تشریف فرما دوسرے حلقہ میں ہوئے
- ۳۵۶ ..... اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کا ذکر کیسے بلند کیا؟
- ۳۵۷ ..... ہر ایک کے ساتھ ایک ہمزاد فرشتہ اور ایک شیطان جن رہتا ہے
- ۳۵۸ ..... مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ دعائے خلیل و نوید عیسیٰ علیہا السلام ہیں
- ..... اللہ رب العزت خاک پائے رسول کی قسم یاد فرماتا ہے، اس جملہ کے بارے میں
- ۳۵۹ ..... حضرت شیخ محقق کا ارشاد
- ..... حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صاحب لولاک ﷺ کے صدقہ میں مغفرت
- ۳۶۰ ..... کی دعا فرمائی

### تعظیم رسول ﷺ

- ۳۶۳ ..... صحابہ کرام مجلس حضور میں سر بھکائے گردنیں خم کئے جس و حرکت رہتے
- ..... حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھت پر رہنا گوارہ نہ کیا
- ۳۶۴ ..... جس کے نیچے سر کا ردو عالم ﷺ قیام فرماتے
- ..... حضرت ابوالیوب انصاری بچا ہوا کھانا وہیں سے اٹھاتے جہاں سے سرکار نے
- ۳۶۴ ..... کھایا ہوتا

### نور مصطفیٰ ﷺ

- ۳۶۷ ..... حدیث نور عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقی امت بالقبول حاصل ہے۔
- ۳۶۷ ..... تلقی علماء بالقبول وہ عظیم شئی ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں
- ۳۶۸ ..... عرف عام میں نور کسے کہتے ہیں؟
- ۳۶۹ ..... عندا محققین نور وہ ہے کہ خود ظاہر ہو اور دوسروں کا مظہر ہو
- ۳۶۹ ..... حضور پر نور ﷺ اللہ تعالیٰ کے نور ذاتی سے پیدا ہیں



اللہ عز وجل حصے اور ٹکڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی شے میں حلول

فرمانے سے پاک ہے۔ ۳۷۰

حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے اور ساری مخلوق نور نبی سے، اسکی تفہیم کے لئے

مبسوط و مشرح کلام۔ ۳۷۰

۳۸۰

اس شبہ کا دفع کہ کفار و مشرکین کہ محض ظلمت اور نا پاک ہیں نور پاک سے کیونکر بنے

مرتبہ وجود میں صرف ایک ذات خدا ہے یونہی مرتبہ ایجاد میں صرف ایک ذات

مصطفیٰ ہے۔ ۳۷۵

عالم جس طرح ابتدائے وجود میں حضور کا محتاج تھا یونہی بقا میں آپ کا دست نگر

ہے۔ ۳۷۵

بلا واسطہ خدا سے حضور ہی مدد لیتے ہیں، اور تمام عالم مدد الہی حضور کی وساطت

سے لیتا ہے۔ ۳۷۷

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

حدیث نور کے لفظ ”نور نَبِیک“ میں اضافت بیانہ ہے۔ ۳۷۸

”نور نَبِیک“ میں اضافت بیانہ مراد نہ لینے میں کیا خرابی ہے۔ ۳۷۸

علامہ زرقانی کا ایک قول اور اس کا رد۔ ۳۷۸

اس اعتراض کا جواب کہ ”آخرت میں وزن اعمال ہوگا اور یہ اعراض و صفات

ہیں تو ان کا قیام ہفسہ کیسے ہو گیا کہ ان کو وزن کیا جائے گا۔ ۳۷۸

حدیث نور کا حاصل۔ ۳۸۰

”حضور اکرم ﷺ کا نور اقدس چراغ و خورشید پر غالب آتا“ اس سے کیا مراد

ہے؟ ۳۸۱

نور رخ اقدس سے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوزن گم شدہ ملنے کا واقعہ

کان بجنے کا کیا سبب ہے؟ ۳۸۳

ایمان و توحید آبا ئے کرام حضور سید الانام علیہ السلام کی ایک دلیل۔ ۳۸۵

## علم غیب

- ۳۸۸ ..... رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ دنیوی اور اس وقت کی حالت میں کچھ فرق نہیں
- ۳۸۹ ..... علم الہی اور علم رسول میں عظیم تفرقوں کا ذکر
- ..... جن آیات و احادیث میں علم غیب خاصہ خدا تعالیٰ بتایا گیا ہے منکرین کے ان
- ۳۹۱ ..... سے استدلال کا رد
- ۳۹۲ ..... کفارات و درجات کیا ہیں؟
- ۳۹۵ ..... نماز کے بعد پڑھنے کی ایک دعا
- ۳۹۶ ..... ”ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض الخ“ کا شان نزول
- ..... نبی کی شان میں بے ادبی کا لفظ کلمہ کفر ہے اور اس کا قائل کافر ہے اگرچہ مدعی
- ۳۹۶ ..... اسلام ہو
- ..... ایک منافق نے حضور کی شان میں کہا ”وہ غیب کیا جانیں“ اللہ تعالیٰ نے اسے کافر
- ۳۹۶ ..... قرار دیا
- ..... [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- ۳۹۶ ..... علم غیب شان نبوت ہے
- ۳۹۶ ..... بے خدا کے بتائے کسی کو ذرہ بھر علم ماننا ضرور کفر ہے
- ۳۹۹ ..... راستہ سے اذیت ناک چیز ہٹانا نیکی ہے
- ..... امام الوہابیہ کے نزدیک نبی ﷺ کی طرف آئندہ باتیں جاننے کی اسناد کرنا مطلقاً
- ۴۰۳ ..... شرک ہے اگرچہ بچائے الہی ہو
- ۴۰۴ ..... انبیائے کرام کے لئے اطلاع علی الغیب کا مرتبہ قرآن مجید سے ثابت ہے
- ..... آیت مقدسہ میں ”لا یظہر غیبہ علی احد“ نہ فرمایا بلکہ ”لا یظہر علی غیبہ
- ۴۰۴ ..... احداً“ فرمایا ان دونوں میں فرق
- ۴۰۵ ..... امام الوہابیہ کے دو فتراءات
- ..... ”حدیث ربیع بنت معوذ بن عفرا“ جس سے امام الوہابیہ نبی کی طرف اطلاع علی
- ..... الغیب کی نسبت کو شرک ثابت کرنا چاہتا ہے، خود اس سے ظاہر ہے کہ یہ نسبت ہرگز
- ۴۰۶ ..... شرک نہیں

- ۴۰۶ ..... وقت حاجت بیان حکم فرض ہے اور تاخیر اصلاً روا نہیں
- ۴۰۶ ..... منع لفظ بطلان معنی ہی میں منحصر نہیں بلکہ اس کے لئے اور وجوہ بھی ہو سکتی ہیں
- ۴۰۶ ..... عقل و نقل کا قاعدہ مسلمہ ہے ”اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال“
- ۴۰۶ ..... سرکار اقدس ﷺ نے بچیوں کو ”وفینا نبی يعلم ما فی غد“ کہنے سے کیوں روکا؟
- ۴۰۷ ..... نبی اکرم ﷺ نے حضرت ام الفضل سے فرمایا: تو حاملہ ہے تیرے پیٹ میں لڑکا ہے۔ جب لڑکے کی ولادت ہوئی تو آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور انہیں خلفا کا باپ فرمایا۔ اور فرمایا: انہیں میں سفاح ہے، انہیں میں مہدی ہے۔
- ۴۰۷ ..... حضور اکرم ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھے
- ۴۰۸ ..... حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال اپنی بیٹی ام کلثوم کی ولادت کی پیشین گوئی فرمائی
- ۴۰۹ ..... نبی اکرم ﷺ نے جنگ بدر سے پہلے ہی اطلاع دی کہ فلاں کافر یہاں مرے گا اور فلاں کافر یہاں، اور جس کے لئے جو جگہ بتائی وہ بالکل اسی جگہ مرا

## خصائص رسول

- ۴۱۸ ..... حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: میں تمہاری طرح نہیں ہوں
- ۴۱۸ ..... انبیائے کرام کے افعال بشری اقامت سنت اور تعلیم امت کے لئے تھے
- ۴۱۹ ..... حضور اکرم ﷺ کا ظاہر صورت بشری اور باطن ملکی ہے
- ۴۲۰ ..... احتلام شیطانی وساوس کی بنیاد ہی پر ہوتا ہے
- ۴۲۰ ..... اس روایت کی تحقیق کہ ”یا جوج ماجوج نطفۃ احتلام سیدنا آدم علیہ السلام سے بنے ہیں“
- ۴۲۲ ..... صف بندی کے ساتھ نماز، سلام، اور آمین خصائص رسول سے ہیں۔ ہاں صرف حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہما السلام کی دعا پر آمین کہی
- ۴۲۳ ..... حضور ﷺ کی امت خیر الامم ہے



۴۲۳

حضور اکرم ﷺ کو ”جوامع الکلم“ عطا ہوئے۔  
آیات قرآنیہ کی روشنی میں حضور اکرم ﷺ کی شان کا جملہ انبیائے کرام سے بلند

۴۳۰

ہونے کا ثبوت۔

۴۳۸

بنی اسرائیل پر دو ہی وقت کی نماز فرض تھی، دو رکعت صبح اور دو رکعت شام۔

۴۳۹

امت مسلمہ کے علاوہ کسی اور امت کے لئے پانچ نمازیں جمع نہ کی گئیں۔

۴۳۹

نماز عشا امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسری امت نے یہ نماز نہ پڑھی

اس بات کی تحقیق کہ کیا ہمارے نبی ﷺ کے سوا کسی اور نبی کو بھی یہ پانچوں

۴۳۹

نمازیں نہ ملیں۔

### حضور خاتم الانبیاء ہیں

حضور ﷺ کا بعثت میں آخر جمیع انبیاء بلا تاویل و تخصیص ہونا ضروریات دین سے

۴۴۸

ہے، جو اس میں ادنیٰ شک و شبہ بھی کرے کافر و مرتد ہے۔

۴۵۰

امت دعوت میں ستائیس دجال کذاب ہو گئے ان میں سے چار عورتیں ہیں۔

۴۵۱

حضرت آدم علیہ السلام نے حضور ﷺ کے توسل سے دعائے مغفرت کی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیا علیہ السلام پر وحی بھیجی اور اس میں حضور خاتم الانبیاء ﷺ

۴۵۳

کے فضائل کا ذکر فرمایا۔

۴۵۳

حضور ﷺ کا ایک اسم گرامی ”نبی ملاحم“ بھی ہے۔ (یعنی جہادوں کے نبی)

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اس لئے بنایا کہ حضور ﷺ کی عزت و مرتبہ اس پر ظاہر

۴۵۴

فرمائے۔

۴۵۵

حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے۔

حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آکر گھبرائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اتر

۴۵۵

کر اذان دی۔

۴۵۵

حضور اکرم ﷺ کے اسم مبارک ”نبی التوبہ“ کی سترہ توجہیں ہیں۔

۴۵۷

حضور اکرم ﷺ کے دست اقدس پر سب سے زیادہ بندگان خدا نے توبہ کی۔

۴۵۷

اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی، جن میں اسی (۸۰) امت محمدی کی ہوں گی۔

- امت مرحومہ کی توبہ میں مجرد ندامت، ترک فی الحال، اور عزم امتناع پر کفایت کی گئی، اگلوں کی توبہ سخت سخت شرائط سے مشروط کی جاتی تھی۔ ۴۵۸
- حضور سید المعصومین علیہ السلام ہر روز سو بار استغفار فرماتے۔ ۴۵۸
- ہر ایک کی توبہ اس کے لائق ہوتی ہے، حضور ﷺ کی توبہ کس چیز سے تھی؟ ۴۵۸
- حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ قصیدے ”بانت سعا“ کے دو شعر۔ ۴۵۸
- بندوں کو حکم خداوندی ہے کہ بارگاہ حبیب خدا میں حاضر ہو کر توبہ کریں۔ ۴۵۹
- جہاں حاضری روضہ اقدس میسر نہ ہو وہاں آیت کریمہ ”ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك“ پر عمل کی کیا صورت ہے؟ ۴۶۰
- روح نبی ﷺ ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ گر ہے۔ ۴۶۰
- ”میں لوگوں کو اپنے قدموں پر حشر دوں گا“ اس کا کیا مطلب ہے؟ ۴۶۳
- حضور ﷺ کے دس اسمائے طیبہ۔ ۴۶۴
- حضور ﷺ کی پکار پر سوسمار نے زندہ ہو کر آپ کے رسول اور خاتم ہونے کی گواہی دی۔ ۴۷۰
- حدیث پاک ”لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً“ پر امام نووی علیہ الرحمہ کا ایک اشتباہ اور اس کا جواب۔ ۴۷۴
- حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”ہم اہل بیت نبوت پر دوسرے کو قیاس نہ کیا جائے۔ ۴۷۵
- تیس دجال مدعیان نبوت میں سے مسلمانہ کذاب، اسود غسی اور مختار ثقفی ہے۔ ۴۷۷
- یہ تینوں خبیث کتے، شیران اسلام کے ہاتھوں مارے گئے۔ ۴۷۷
- شاہ روم ہر قل نے صحابہ کرام کو انبیائے کرام کی تصویریں دکھائیں۔ ان کے ذریعہ انبیائے کرام کے حلیوں کا بیان۔ ۴۸۶
- یہ تصاویر ہر قل کے پاس کہاں سے آئیں؟ ۴۸۸
- ان احادیث کی تحقیق جن میں اعرابی کی گوہ اور دراز گوش کے ساتھ حضور ﷺ کا کلام کرنا مذکور ہے۔ ۴۹۲



- ۴۹۷ محمد ابن عدی ابن ربیعہ کے باپ نے دور جاہلیت میں ان کا نام محمد کیوں رکھا؟
- ۴۹۸ زید بن عمرو بن نفیل موحدان و مومنان عہد جاہلیت سے تھے۔
- ۴۹۹ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے زید کو جنت میں دامن کشاں دیکھا۔
- ۵۰۱ اسکندریہ کے ایک بڑے پادری کا بیان کہ ”کہ احمطیہ ﷺ سب انبیاء سے پچھلے ہیں وہ نبی امی عربی ہیں، ان کو وہ خصائص ملیں گے جو کسی نبی کو نہ ملے۔
- مدینہ کے ایک یہودی کا اعلان کہ ”یہ احمد کے ستارے نے طلاع کیا اور اب سوائے احمد کے کوئی نبی نہیں ﷺ
- ۵۰۲ یہود اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے جس کا نام احمد ہے اور وہ آخری نبی ہیں۔
- ۵۰۳ حضرت کعب احبار کے باپ نے جو علم توراۃ تھے مرتے وقت انکو دو اوراق کی نشاندہی کی، جن میں لکھا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، لا نبی بعدہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ طیبہ۔
- ۵۰۵ حضور ﷺ کے اول و آخر، ظاہر و باطن ہونے کی تشریح۔
- ۵۰۶ سورہ ”اذا جاء نصر اللہ“ حضور ﷺ کے مرض وصال میں پنجشنبہ کو نازل ہوئی حبیب خدا ﷺ کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کا روح پرور ذکر اور مجلس وصیت آخری کا پروردگار پر اثر بیان۔
- ۵۰۷ حضرت نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو برس کی سخت محنت و مشقت سے صرف پچاس اشخاص ہدایت یافتہ ہوئے۔
- ۵۰۸ سید المعصومین ﷺ بعد نماز فجر پاؤں بدلنے سے پہلے ۷۰ بار فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ و استغفر اللہ، ان اللہ تو ابا۔
- ۵۰۸ حضرت ابن زل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خواب اور حضور ﷺ کی بیان فرمودہ تعبیر۔
- ۵۰۹

### ولادت، بعثت، وصال

- صحیح یہ ہے کہ نور محمدی کی امانت حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ماہ حج کی بارہویں تاریخ کو منتقل ہوئی اور اسکی تائید میں حدیث پاک
- ۵۱۱

- ۵۱۲ ..... حضور اکرم ﷺ پر نزول قرآن کی ابتدا پیر کے دن ہوئی
- ۵۱۳ ..... وصال نبی ﷺ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کلمات اور اس بات کا بیان کہ ان کلمات سے نوحہ کا جواز ثابت نہیں ہوتا
- ۵۱۴ ..... حضور اقدس ﷺ کا ارشاد میری حیات اور وصال دونوں تمہارے لئے خیر ہیں اور اس کی وجہ

### اخلاق، شمائل، تبرکات

- ۵۱۶ ..... حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے“
- ۵۱۶ ..... سرکار اقدس ﷺ خوشبو کی چیز رد نہ فرماتے
- ۵۱۷ ..... خوشبو کی چیز کو رد نہیں کرنا چاہئے
- ۵۱۷ ..... اہل بیت نبی ﷺ دو دو ماہ تک چھوڑے اور پانی پر گزارہ فرماتے
- ۵۱۹ ..... حضور سید المنصورین ﷺ نے جنگ حنین کے دن ایک مٹھی خاک کفار کی طرف پھینکی وہ خاک ان ہزاروں کافروں پر ایک ایک کی آنکھیں پہونچی
- ۵۲۰ ..... حضور ﷺ کی ۹/۱۲ یا ۱۴ جدات کا نام عاتکہ تھا
- ۵۲۳ ..... مشورے کا فائدہ یہ ہے کہ تلاحق انظار و افکار سے بارہا وہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صاحب رائے کی نظر میں نہ تھی
- ۵۲۳ ..... حضور سرور عالم ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا پھر قیمت بھی عطا فرمائی اور اونٹ بھی نہ لیا
- ۵۲۴ ..... یہ بات جائز ہے کہ بائع کوئی چیز بیچے اور اس مجلس خواہ دوسری مجلس میں کل ثمن یا بعض، مشتری کو معاف کر دے
- ۵۲۶ ..... حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رسول اللہ ﷺ کا ایک جبہ تھا۔ جس کے دھوون سے مریض شفا حاصل کرتے
- ۵۲۶ ..... ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سرکار اقدس ﷺ کا موئے مبارک تھا

حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور انور ﷺ کی ایک رضائی یا کمبل اور ایک تہہ بند کی زیارت کرائی۔ جو بوقت وصال آپ کے استعمال میں تھے۔

۵۲۶

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور ﷺ کے نعلین مبارک تھے۔

۵۲۷

حضور اکرم ﷺ نے سر مبارک کی داہنی جانب کے منڈے ہوئے سب بال حضرت ابوطحہ کو عطا فرمائے اور بائیں جانب کے بال انہیں دیکر فرمایا انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔

۵۲۸

حضور ﷺ کی تعظیم کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حضور سے کچھ علاقہ ہو اسکی تعظیم کی جائے۔

۵۲۸

حضرت خالد بن ولید اور موئے مبارک حضور ﷺ کی عظمت و محبت منبر اطہر میں جو جگہ جلوس اقدس کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر اسے ہاتھ سے مس کرتے اور ہاتھ منہ پر پھیر لیتے۔

۵۲۸

اہل مدینہ حصول برکت کے لئے اپنے برتنوں میں پانی لیکر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور آقا ﷺ ہر برتن میں اپنا دست اقدس ڈبوتے۔

۵۲۸

آثار صالحین سے تحصیل برکت کے جواز پر چند عبارات ائمہ و علما حضور سید المبارکین ﷺ مسلمانوں کے وضو کرنے کی جگہوں مثل حوض وغیرہ سے پانی منگا کر نوش فرماتے اور اس سے مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت لینا چاہتے۔

۵۲۹

۵۳۰

حضور ﷺ کا وضو گاہوں سے پانی منگا کر نوش فرمانا تعلیم امت کیلئے تھا۔

۵۳۰

## فضائل انبیائے کرام

۵۳۱

انبیائے کرام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔

۵۳۲

زمین انبیائے کرام کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔

چار نبی ایسے ہیں جنہیں اب تک لحوق موت اصلاً نہ ہوا، عیسیٰ و ادریس علیہما السلام



- ۵۳۳ ..... آسمان پر اور الیاس و خضر علیہما السلام زمین میں
- ۵۳۳ ..... مقام سیدنا مسیح علیہ السلام آسمان دوم ہے اور مشہور چہارم
- ..... حضور رحمت عالم ﷺ نے اپنی خاص طور پر ملی ہوئی دعائے مقبول کو برائے
- ۵۳۴ ..... شفاعت امت قیامت کے دن کے لئے اٹھا رکھا ہے
- ۵۳۵ ..... بروز قیامت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی حضور ﷺ کی ضرورت ہوگی
- ۵۳۶ ..... حضور ﷺ سوال کے جواب میں ”نہ“ نہیں فرماتے
- ۵۳۶ ..... حضور ﷺ نے اعرابی سے فرمایا: جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ لے
- ..... ایک بوڑھی کا واقعہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کی مرافقت
- ۵۳۷ ..... مانگی
- ..... حدیث مولیٰ علی کی روشنی میں (جس میں بارگاہ رسالت میں ایک اعرابی کے سوال
- کا ذکر ہے) انبیائے کرام کے خداداد اختیارات کا اثبات اور امام الوہابیہ کے
- ۵۳۷ ..... تقویۃ الایمانی اقوال کا ردِ بلیغ
- ..... روافض کے بارے میں ایک لطیفہ
- ۵۴۰ ..... حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہزار برس ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سو برس
- ۵۴۲ ..... حضور ﷺ جو چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے
- ۵۴۶ ..... حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تین لاکھ کرسیاں تھیں
- ۵۴۷ .....

## فضائل شیخین

- ..... حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنے کو صدیق و فاروق رضی اللہ
- ۵۵۱ ..... تعالیٰ عنہما پر فضیلت دینے والوں کو مفتری قرار دیا
- ..... حضرت مولیٰ علی نے حضور ﷺ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر کو بتایا پھر
- ۵۵۱ ..... حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر اپنے آپ کو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
- ۵۵۲ ..... حضرت مولیٰ علی فرماتے ہیں ابو بکر چار وجہ سے مجھ سے سبقت لے گئے
- ..... حضور ﷺ کے بعد سب سے پہلے جنت میں صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما

- جائیں گے۔ ۵۵۳
- کسی مومن کے دل میں حضرت علی کی محبت اور ابوبکر و عمر کی عداوت جمع نہیں ہو سکتی اور نہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ ۵۵۴
- حضرت امام محمد بن عبد اللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد، ابوبکر و عمر دونوں میرے نزدیک بلاشبہ مولیٰ علی سے افضل ہیں۔ ۵۵۸
- حضرت امام محمد بن عبد اللہ محض کا تعارف۔ ۵۵۸
- حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی تصنیف ”سبع سناہل شریف“ کا بارگاہ رسالت میں مقام اور مسئلہ تفصیل میں آپ کا ارشاد۔ ۵۵۹
- مخدوم قاضی شہاب الدین فرماتے ہیں اے عزیز اگرچہ ”شیخین“ کی ”ختمین“ پر فضیلت کا کامل اعتقاد رکھنا چاہیے لیکن اس طرح نہیں کہ حضرت عثمان و علی کے فضائل کے بارے میں تیرے دل میں کوئی کمی واقع ہو۔ ۵۶۲
- فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں ☆ اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ ۵۶۶
- حضور ﷺ نے حضرت علی سے یہ کیوں فرمایا: کہ یہ بات ابوبکر و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہ بتانا۔ ۵۶۶
- حضرت ابوبکر جس دن ایمان لائے ان کے پاس چالیس ہزار دینار یاد رہم تھے سب حضور ﷺ پر خرچ کر دیئے۔ ۵۶۹
- تفصیل شیخین کے بارے میں شیعہ عالم عبدالرزاق محدث، صاحب ”مصنف“ کا قول۔ ۵۷۲
- حضرت علی کی طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیعت میں تاخیر کی وجہ۔ ۵۷۳
- حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ کعبہ معظمہ میں نماز ادا کی۔ ۵۷۴
- حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا ایک واقعہ۔ ۵۷۶

### فضائل عثمان و علی

غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس ہزار اشرفیاں



- ۵۸۰ ..... بارگاہ رسالت میں حاضر کیں
- ۵۸۱ ..... حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پیر رومہ ۳۵ / ہزار روپے میں خرید کر مسلمانوں پر وقف فرمایا
- ۵۸۸ ..... حضرت علی فرماتے ہیں: میرے معاملہ میں دو شخص ہلاک ہو گئے ایک میری تعریف میں حد سے بڑھنے والا، اور ایک دشمن مفتری
- ۵۸۸ ..... حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد
- ۵۹۵ ..... سید کی بے توقیری و تحقیر کے احکام
- ۵۹۶ ..... سب کی اولادیں اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہیں لیکن اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ حضور اکرم ﷺ کی طرف منسوب ہوتی ہیں جب حضرت فاطمہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتیں تو حضور اکرم ﷺ قیام فرماتے اور ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے
- ۵۹۷ ..... حضرت سیدہ کے اسم مبارک فاطمہ کی وجہ تسمیہ
- ۵۹۸ ..... حسنین کریمین جو انان جنت کے سردار ہیں
- ۶۰۰ ..... حضور ﷺ کے ابوین کریمین کے اسلام کی ایک دلیل
- ۶۰۰ ..... حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال دس نبوی میں ہوا، جو ن میں دفن ہوئیں اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی
- ۶۰۲ ..... روافض کے احکام
- ۶۰۹ ..... حضور ﷺ نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کو جنت میں بشکل فرشتہ اپنے پروں سے اڑتے ہوئے دیکھا
- ۶۱۰ ..... حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے والوں کا رد
- ۶۱۱ ..... حضور ﷺ نے دعا فرمائی الہی عبد اللہ (ابن عباس) کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اپنی کتاب کی تفسیر
- ۶۱۲ ..... عہد فاروقی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے بارش کی دعا کی جاتی اور سیرابی حاصل ہوتی

حضور ﷺ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا کی: الہی!

۶۱۳ ..... معاویہ کو راہ نما، راہ یاب کر اور اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔

حضور ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کے

۶۱۳ ..... بارے میں فرشتوں سے مباہات فرماتا ہے۔

۶۱۳ ..... حضور ﷺ نے فرمایا: ابو درداء امت کے حکیم ہیں۔

۶۱۴ ..... حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔

۶۱۵ ..... والدہ علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لئے حضور انور کی دعا۔

۶۲۴ ..... نیکوں کی ہمسائیگی کی برکت۔

۶۲۴ ..... مسلمین و مسلمات کے لئے ہر روز ۲۷ بار استغفار کر نیوالے کی فضیلت۔

۶۲۶ ..... ابدال شام میں رہتے ہیں۔ اور ان کی تعداد تیس یا چالیس ہے۔

۶۲۷ ..... ابدال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پرتو ہوتے ہیں۔

۶۲۹ ..... مقامات اولیا کا بیان۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۶۲۰ ..... قاریان قرآن کی تین اقسام کا بیان۔

۶۳۱ ..... اہل بیت کرام امت کیلئے امان ہیں۔

۶۳۲ ..... مدد کی ضرورت ہو اور کوئی ہمد نہ ہو یا جنگل میں جانور بھاگ جائے تو کیا کرے؟

۶۳۳ ..... عداوت ولی سخت باعث ایذائے رب ہے۔

۶۳۳ ..... مسلمان کے لئے نار، نار تطہیر ہے نہ نار لعنت و ابعاد و تذلیل و تحقیر۔

۶۴۲ ..... ملائکہ کی پیدائش روزانہ جاری ہے۔

۶۴۲ ..... ملائکہ تذکیر و تانیث اور سلسلہ توالد سے منزہ و پاک ہیں۔

۶۴۳ ..... صحیح و معتمد یہی ہے کہ ملائکہ کرام کے لئے بھی موت ہے۔

۶۴۳ ..... فرشتوں میں سب سے پیچھے ملک الموت مریں گے۔

سب کے فنا ہونے کے بعد جبریل و میکائیل و ملک الموت باقی رہیں گے۔ پھر

۶۴۳ ..... ان کو بھی موت آئیگی۔ ان کی موت کی کیفیت۔

۶۴۵ ..... ظاہر یہی ہے کہ ملائکہ کے لئے قیامت سے پہلے موت نہیں۔

- چار فرشتے جبریل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہم السلام دنیا میں کاموں کی تدبیر کرتے ہیں اور ان کے کاموں کی تفصیل
- ۶۴۶ \_\_\_\_\_
- نطفہ پر چالیس راتیں گزر جاتی ہیں تب اس کے اعضا بنائے جاتے ہیں
- ۶۴۹ \_\_\_\_\_
- اس شخص کی فضیلت جو اپنے اس مسلمان بھائی کی حمایت کرے جس کو پیچھے برا کہا
- ۶۵۲ \_\_\_\_\_
- آیت کریمہ ”یا ایہا الذین امنوا! لاتسلوا عن اشیاء الخ“ سے معلوم ہوا کہ جن باتوں
- ۶۵۶ \_\_\_\_\_
- کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ نکلے وہ ہرگز منع نہیں
- ۶۵۷ \_\_\_\_\_
- جو مشتبہ امور کو اختیار کرتا ہے وہ کھلے گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے
- ۶۵۸ \_\_\_\_\_
- حلال و حرام و مشتبہ کی دل نشیں تمثیل اور دردمندانہ نصیحت
- ۶۵۸ \_\_\_\_\_
- ”حمی“ کسے کہتے ہیں؟
- ۶۵۹ \_\_\_\_\_
- صدق موجب اطمینان اور کذب موجب قلق ہے

# حالات راویان حدیث

[www.alhazratnetwork.org](http://www.alhazratnetwork.org)





## حالات راویان حدیث

### ابواسحاق

آپ ابواسحاق سہمی، ہمدانی، کوفی ہیں اور تابعی، بہت صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے، شہادت عثمان سے دو سال پہلے پیدا ہوئے، اور ۱۲۹ھ میں وفات پائی، بڑے متقی عالم بڑے محدث ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول: ۴۵۲۔

### ابوامامہ باہلی

آپ ابوامامہ عدی بن عجلان باہلی ہیں، اولاً مصر میں پھر حمص میں رہے وہاں ہی وفات پائی، آپ شام کے آخری صحابی ہیں کہ آپ کی وفات سے زمین شام صحابہ سے خالی ہوگئی۔ ۹۱ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۷۳-۲۱۶-۴۳۸-۴۳۹-۴۵۶-۲۳۲-۲۵۵-۶۲۳-۸۰۳

۸۳۸-۹۰۰-۱۰۱۳۔

جلد دوم: ۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۲۳۹-۱۳۳۸-۱۳۹۲-۱۴۳۱-۱۵۷۹-۱۶۰۱

۱۶۵۴-۱۷۰۹-۱۷۲۹-۱۷۳۰-۱۷۹۹۔

جلد سوم: ۱۹۷۳-۱۹۷۴-۲۰۱۵-۲۰۶۳-۲۱۰۶-۲۱۵۳-۲۲۱۶-۲۲۲۱

۲۷۴۰-۲۷۷۶-۲۷۷۹-۲۷۸۰۔

جلد چہارم: ۳۰۳۱-۳۲۹۶-۳۳۱۲۔

### ابوامامہ بن سہل بن حنیف

ابوامامہ کا نام سعد ہے، علماء تابعین سے ہیں، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات شریف سے دو سال پہلے ولادت ہوئی، خود حضور نے انکا نام اور کنیت تجویز فرمائی

بہت لڑکپن کی وجہ سے زیارت نہ کر سکے، اپنے والد سہل اور ابوسعید خدری سے روایت لی ۱۰۰ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول: ۲۸۲۔

### ابوایوب انصاری

آپ کا نام خالد بن زید ہے، آپ انصاری خزرجی ہیں۔ تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، آپ کی وفات قسطنطنیہ میں ہوئی جسے اب استنبول کہتے ہیں، ۵۱ھ میں آپ کی وفات ہے۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں جب یزید ابن معاویہ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو آپ اس لشکر میں تھے، بیمار ہو گئے۔ جب مرض زیادہ ہوا تو وصیت کی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میری میت اپنے ساتھ رکھنا، جب تم دشمن کے مقابل صف آرا ہو تو مجھے اپنے قدموں کے نیچے دفن کرنا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ کی قبر قسطنطنیہ کے شہر پناہ کے پاس اب تک مشہور ہے، اس قبر کا اب تک بہت بڑا احترام ہے، لوگ آپ کی قبر کی برکت سے شفا حاصل کرتے ہیں انہیں شفا ملتی ہے، آپ سے بہت حضرات نے احادیث روایت کیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۵۶-۳۲۲-۳۷۰-۳۳۴-۴۴۳-۹۱۲۔

جلد سوم: ۲۱۰۹-۲۲۰۴۔

جلد چہارم: ۳۲۳۶۔

### ابو بردہ

آپ کا نام عامر بن عبداللہ بن قیس ہے یعنی ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں، کہ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، آپ حضرت علی کے ساتھ رہے، قاضی شریح کے بعد کوفہ کے قاضی رہے، حجاج بن یوسف نے آپ کو معذول کیا، اپنے والد اور حضرت علی سے احادیث نقل کیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۲۵۳۔

جلد سوم: ۲۵۱۴۔

جلد چہارم: ۳۲۹۱۔ ۳۴۲۰۔

### ابو برزہ

آپ کا نام فضلہ بن عبید ہے، اسلمی ہیں، پرانے مسلمان ہیں، عبداللہ بن حنظل کو حضور کے حکم سے آپ نے قتل کیا تھا۔ حضور انور کی وفات تک ہر غزوہ میں حضور کے ساتھ رہے پھر بصرہ چلے گئے۔ خراسان کے غزوہ میں شریک ہوئے، مقام مرو میں آپ کی وفات ۶۰ھ ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۸۵۷۔

### ابوبکر صدیق

www.alahadithnetwork.org

آپ کا نام شریف عبداللہ بن عثمان (ابوقحافہ) ابن عامر ابن عمرو بن کعب ابن سعد بن تیم بن مرہ ہے، یعنی ساتویں والد مرہ میں حضور سے ملتے ہیں، آپ کا لقب صدیق بھی ہے عتیق بھی، حضور نے فرمایا کہ جسے آتش دوزخ سے عتیق دیکھنا ہو وہ ابوبکر کو دیکھے، حضور انور کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، زمانہ جاہلیت اور اسلام میں بھی کبھی حضور انور سے الگ نہ ہوئے۔ آپ سب سے پہلے مومن ہیں، قدرت خدا ہے کہ آپ کی کنیت ابوبکر ہے، یعنی اولیت والے، آپ ایمان، ہجرت، بعد رسول وفات وغیرہ سب میں اول ہی رہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۱۰۱۶۔ ۶۱۵۔ ۳۶۸۔

جلد دوم: ۱۸۲۲۔ ۱۳۴۲۔

جلد سوم: ۲۵۵۷۔ ۲۴۲۲۔ ۲۳۷۴۔ ۲۳۷۳۔ ۲۲۶۹۔

جلد چہارم: ۳۴۸۶۔

## ابوبکر بن سلمان بن ابی حشمہ

آپ کا نام عبداللہ بن حذیفہ ہے، عدوی مدنی ہیں، ثقہ اور انساب کے عارف تھے۔ اوساط تابعین میں شمار ہوتے ہیں، صحاح ستہ میں آپ کی روایات مذکور ہیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۶۵۵-۸۲۰

## ابوبکرہ

آپ کا نام نقیج بن حارث بن کلدہ ثقفی ہے، طائف کے رہنے والے تھے، جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تو آپ نے اپنے کو طائف کے قلعہ سے ایک بیرونی کنویں کی چرخی پر ڈال دیا اور اس طرح وہاں سے نکل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اسلام لے آئے، آپ کا نام ابوبکرہ یعنی چرخی والے، بکرہ چرخی کو کہتے ہیں، بعد میں بصرہ مقیم ہو گئے، ۹۴ھ میں وہاں ہی وفات پائی اور وہاں ہی دفن ہوئے۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۱۴۱

جلد دوم: ۱۴۱۳-۱۵۹۰

جلد سوم: ۲۲۳۷-۲۲۳۸-۲۲۴۱-۲۶۲۹-۲۶۳۰

جلد چہارم: ۳۵۳۲-۳۶۵۳

## ابو تمیمہ

آپ کا نام طریف بن خالد جمحی ہے یمن کے باشندے تھے۔ پھر بصرہ میں رہے آپ نے بہت صحابہ سے ملاقات کی ہے، ۹۵ھ میں وفات پائی۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۶۴۴

## ابو ثعلبہ

آپ اپنی کنیت میں مشہور ہیں، قبیلہ حشن سے ہیں، بیعة الرضوان میں شریک ہوئے،



حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی قوم کا مبلغ بنا کر بھیجا، آپ کی تبلیغ سے وہ سب مسلمان ہو گئے، آپ کا قیام شام میں رہا، ۵۷ھ میں وفات پائی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۸۷۳-۱۸۷۴-۱۸۷۹-۱۸۸۰

جلد چہارم: ۳۶۲۳

### ابو جحیفہ

آپ کا نام وہب بن عبد اللہ عامری ہے، آپ بہت نوعمر صحابی ہیں، حضور کی وفات کے وقت آپ نابالغ تھے، ۷۴ھ کوفہ میں وصال ہوا۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۶۹-۵۶۵-۵۶۷-۵۶۹

جلد دوم: ۱۸۳۰

جلد چہارم: ۳۰۶۷-۳۲۵۶-۳۲۸۵

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### ابو جعفر بن مہلب

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۱۱۲

### ابو جھیم

آپ کا نام ابو جھیم ہے بعض نے فرمایا کہ عبد اللہ بن حارث بن صمہ ہے صحابی ہیں انصاری ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۸۵۹

### ابو حازم

ابو حازم غفاری مدنی ہیں، ابو رہم دینار غفاری کے آزاد کردہ ہیں، اوساط تابعین سے



ہیں، اور محمد بن عمرو بن علقمہ، عباد بن ابی علی، محمد بن عبد الرحمن، بن دؤیب سے روایت کرتے ہیں، ابن عبد البر اور حبان نے انکو ثقات میں شمار کیا ہے۔

ان سے صرف یہ ایک حدیث اس مجموعہ میں ذکر کی گئی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۴۶۳

### ابو حاضر

ابو حاضر عثمان بن حاضر حمیری ازدی ہیں، تابعین میں شمار ہوتے ہیں، ابن عباس، ابن زبیر، اور بن عمر سے روایت کرتے ہیں، امام بغوی اور ابن حبان نے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اور حدیث مندرجہ ذیل اپنے موقف کی تائید میں پیش کی ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۱۲۹

### ابو جحیرہ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
www.alahazratnetwork.org  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۳۶۳

### ابو حذیفہ

ابو حذیفہ ثقفی ہیں، بیعت رضوان میں شریک تھے۔ غیاث بن مالک کی اولاد سے ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۲۹۳۷

### ابو حمیر ساعدی

آپ کا نام عبد الرحمن یا کچھ اور ہے، قبیلہ بنی ساعدہ سے ہیں، اپنے گاؤں میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آتے رہتے تھے۔ اسی لئے اس موقع پر صحابہ نے بطور تعجب پوچھا کہ اے ابو حمیر تم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت زیادہ میسر نہ ہوئی تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ واقف کیسے ہو گئے، جیسا کہ ابوداؤد

کی روایت میں ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۶۵۳۔

جلد سوم: ۲۱۲۷۔

جلد چہارم: ۳۰۱۳۔

### ابو خصیفہ

یہ عبداللہ بن یزید ہیں، امام طبرانی نے انکو صحابہ میں شمار کیا۔ بعض نے عبداللہ بن سعید بن شامہ کندی کہا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۳۰۱۔

جلد سوم: ۲۱۶۲۔

### ابوداؤد

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

حالات محدثین کے تذکرہ میں ملاحظہ ہوں۔

ان سے اس مجموعہ میں ایک حدیث براہ راست بغیر اسناد مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۲۹۴۔

### ابودرداء

آپ کا نام عویر بن عامر ہے، انصاری خزرجی ہیں، اپنی کنیت میں مشہور ہیں، درداء آپ کی بیٹی کا نام ہے اپنے گھر والوں کے بعد ایمان لائے۔ آپ بڑے فقیہ عالم ہیں، شام میں قیام رہا۔ دمشق میں آپ کی قبر انور ہے، ۳۲ھ میں وفات پائی،

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں

جلد اول: ۱۱۶-۱۶۶-۱۶۷-۲۲۰-۲۳۱-۲۳۸-۶۴۵-۶۴۶-۹۲۳-۹۳۴۔

۹۹۵۔

جلد دوم: ۱۲۳۵-۱۳۵۲-۱۴۴۶-۱۵۱۵-۱۸۹۳-۱۹۰۱۔

جلد سوم: ۱۹۹۵-۲۱۷۸-۲۲۴۹-۲۲۷۷-۲۴۱۷-۲۴۴۶-۲۴۸۰-۲۵۵۱-  
۲۷۶۲-۲۷۶۶-

جلد چہارم: ۳۱۲۷-۳۲۵۴-۳۳۰۲-۳۵۶۳-۳۵۷۳-

### ابوذر غفاری

آپ کا نام جناب بن جنادہ ہے، عظیم الشان صحابی ہیں، حضور کی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ آکر ایمان لائے، آپ پانچویں مومن ہیں، پھر اپنی قوم میں واپس گئے، پھر غزوہ خندق کے بعد حضور انور کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ پھر خلافت عثمانیہ میں مقام ربذہ میں رہے۔ وہاں ہی وفات پائی۔ ۳۲ھ میں آپ کی وفات ہے، آپ اسلام سے پہلے بھی موحد تھے۔ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۹-۷۹-۱۱۹-۱۴۴-۵۰۳-۵۰۶-۳۹۲-۹۱۱-

جلد دوم: ۱۲۶۹-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۳۱۲-۱۴۳۸-۱۵۸۹-

جلد سوم: ۱۹۸۶-۲۰۷۳-۲۰۸۶-۲۰۹۹-۲۱۰۳-۲۱۱۷-۲۳۲۴-۲۶۸۷-

۲۷۷۳-۲۷۷۹-

جلد چہارم: ۳۲۶۱-۳۲۸۲-۳۳۳۵-۳۳۳۸-۳۵۹۶-

### ابورافع

آپ کا نام مصعب یا ابراہیم ہے، کنیت ابورافع ہے، آپ پہلے حضرت عباس کے غلام تھے۔ کسی قبیلے نے آپ کو عطیہ دیا تھا حضرت عباس نے بطور نذر حضور کو انکا مالک بنا دیا۔ بدر سے کچھ پہلے ایمان لائے مگر بدر میں حاضر نہ ہو سکے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عباس کے ایمان لانے کی خبر دی تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیا۔ اکمال میں ہے کہ آپ کا انتقال شہادت حضرت عثمان سے کچھ پہلے ہوا ہے مگر بعض مورخین فرماتے ہیں، کہ آپ کا انتقال خلافت مرتضوی میں ہوا۔ آپ آزاد

ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول:- ۵۱-۲۴۸-۶۳۱

جلد دوم:- ۱۳۲۳-۱۷۶۴

جلد سوم:- ۲۱۵۰-۲۲۸۶

جلد چہارم:- ۲۹۴۲

### ابو الریح

آپ عبد اللہ بن ثابت انصاری ہیں، ابو الریح کنیت اور بنو ظفر بن خزرج کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ظفری بھی کہلاتے ہیں، عہد نبوی میں وصال ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی عیادت فرمائی، اور بعد انتقال اپنی قمیص مبارک میں کفن دیا، صحیحین میں آپ کی روایات مذکور ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول:- ۳۰۲

جلد دوم:- ۱۲۱۸

### ابورزین عقیلی

آپ کا نام لقیط ابن عامر بن صبرہ ہے، اور کنیت ابورزین ہے، عقیلی سے مشہور ہیں اور صحابی ہیں، اہل طائف سے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۸۴۳

### ابورمہ

آپ ابن رفاعہ بن یثربی ہیں، اور تمیمی ہیں، القیس بن زید بن مناة بن تمیم کی اولاد سے ہیں، آپ کے نام میں بہت اختلاف ہے، عمارہ نام ہے یا کچھ اور، اور آپ اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کا شمار اہل کوفہ میں ہوتا ہے،



اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول:- ۹۰۴

### ابوریحانہ

آپ شعون بن یزید کے بیٹے ہیں قرظی ہیں، یعنی بنی قریظہ کے حلیف ہیں، اور انصاری ہیں، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ کی بیٹی کا نام ریحانہ ہے۔ بڑے عالم زاہد تارک الدنیا تھے، آخر میں شام میں قیام رہا۔ آپ سے اس مجموعہ میں فقط ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۳۱۳۹

### ابوالزناد

آپ کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے، قرشی مدنی ہیں، ثقہ اور فقیہ ہیں طبقہ خامسہ سے ہیں اور مؤطا امام مالک کے رجال سے۔ حضرت انس، سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر وغیرہم سے روایت کرتے۔ ۶۶ سال کی عمر ہوئی اور ۱۱۲ھ میں وفات پائی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۳۴۵۳

### ابوسعید خدری

آپ کا نام مبارک سعد بن مالک انصاری ہے، خدرہ انصار کا ایک قبیلہ ہے جس کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ بڑے عالم احادیث کے ماہر صحابی ہیں، غزوہ خندق اور بارہ غزووں میں آپ حضور کے ساتھ شریک رہے، آپ نے ۸۴ سال کی عمر شریف پا کر ۶۴ھ میں وفات پائی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول:- ۱۶-۲۰-۱۳-۱۲۲-۱۶۱-۲۸۲-۲۹۳-۲۹۵-۳۱۳-۳۱۸-۴۷۱۔

۴۷۳-۴۳۹-۵۶۱-۵۶۲-۵۹۶-۶۶۴-۷۱۶-۷۴۹-۷۶۱-۷۹۷-۸۲۷۔

۸۲۸-۸۶۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۶۸۔



جلد دوم:- ۷۰۱۷-۱۱۸۴-۱۱۸۷-۱۳۷۶-۱۳۶۹-۱۴۱۵-۱۴۳۸-۱۵۷۴-

۱۵۸۵-۱۶۷۹-۱۷۰۴-۱۸۴۱-۱۸۵۵-۱۹۰۵-۱۹۲۲-

جلد سوم:- ۱۹۹۰-۲۰۲۱-۲۰۳۶-۲۱۲۰-۲۱۳۱-۲۱۳۳-۲۱۳۵-۲۳۲۰-

۲۳۳۷-۲۴۰۹-۲۴۱۰-۲۴۱۱-۲۴۲۵-۲۴۳۱-۲۴۳۹-۲۴۴۹-۲۵۸۵-

۲۵۹۶-۲۶۰۲-۲۶۲۷-۲۶۷۶-۲۶۹۳-۲۷۰۵-۲۷۱۱-

جلد چہارم:- ۲۷۰۴-۲۸۴۴-۲۸۵۹-۲۸۶۸-۲۸۷۲-۲۹۵۰-۲۹۵۹-۲۹۷۹-

۳۰۰۳-۳۰۱۹-۳۰۴۸-۳۰۵۶-۳۰۷۰-۳۰۷۲-۳۲۸۰-۳۲۹۰-۳۳۱۶-

۳۳۳۰-۳۳۸۷-۳۵۲۱-۳۵۹۵-۳۶۰۱-۳۶۲۸-

### ابو سلامہ

بعض نے انکو ابو سلمہ سلمی کہا ہے۔ نام خداش یا خرامش ہے صحابی ہیں، اور صحیحین میں آپ سے روایت آئی۔ صرف ایک حدیث ہی آپ سے مروی ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم:- ۲۳۴۹

### ابو سلمہ

عبداللہ بن الاسد بن ہلال مخزومی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی اور پھوپھی زادے بھی، سابقین اولین سے ہیں اور بدری صحابی ہیں، عہد نبوی میں وصال ہوا۔ آپ کی بیوہ ام سلمہ سے حضور نے نکاح فرمایا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم:- ۲۷۴۳

### ابو شریح

آپ کا نام خویلد بن عمرو کعبی عدوی خزاعی ہے، کنیت ابو شریح، صحابی ہیں، فتح مکہ سے قبل ایمان لائے۔ ۶۸ھ میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اپنی کنیت میں مشہور ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۱۹

جلد دوم:- ۲۷۲۲

جلد سوم:- ۲۹۶۲

### ابوالشعثاء

جابر بن زید ازدی بصری ہیں، کنیت سے مشہور ہیں، طبقہ ثالثہ میں شمار ہوتے ہیں۔  
۹۳ھ میں وصال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول:- ۷۵۹

### ابوضمرہ

آپ کا نام انس بن عیاض بن ضمرہ ہے۔ بعض نے عبدالرحمن کہا ہے، لیشی مدنی ہیں۔  
ثقة ہیں۔ دوسو ہجری میں وصال ہے۔ ہشام بن عروہ، سہل بن ابی صالح اور صالح بن کیسان  
وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، جیسے ائمہ  
ہیں، طبقہ ثامنہ میں شمار ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول:- ۷۶۹

### ابوصفوان

آپ کا نام سوید بن قیس ہے۔ آپ کو ابو مرحب بھی کہا جاتا ہے، کوفہ میں رہے  
اور صحابی ہیں، آپ کا واقعہ مشہور ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:- ۱۹۵۵

### ابوالطفیل عامر

آپ کا نام عامر بن وائلہ ہے، لیشی کنعانی ہیں، حضور انور کی صحبت پاک میں آٹھ  
سال رہے۔ ۱۰۲ھ میں وفات ہوئی، آپ آخری صحابی ہیں۔ کہ آپ کی وفات سے زمین صحابہ

سے خالی ہو گئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم:- ۱۳۵۷

### ابو طلحہ

آپ کا نام زید بن سہل ہے، انصاری نجاری ہیں، اپنی کنیت میں مشہور ہیں۔  
حضرت انس کے سوتیلے والد اور اعلیٰ درجہ کے تیر انداز تھے۔ حضور انور نے فرمایا کہ  
لشکر میں ابو طلحہ کی صرف آواز بڑی جماعت سے بہتر ہے۔ ۷۷ سال عمر پائی۔ ۳۱ھ میں وفات  
ہوئی۔ بیعت عقبہ میں ۷۰ انصاریوں کے ساتھ آپ آئے تھے۔ پھر غزوہ بدر وغیرہ میں تمام  
غزوات میں شامل ہوئے۔ آپ سے ایک جماعت نے روایات کیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۱۵۸

جلد دوم:- ۱۸۰

www.alahazratnetwork.org

### ابو عبد الرحمن سلمیٰ

آپ کا نام عبد اللہ بن حبیب بن ربیعہ ہے۔ تابعی کو فی مقرر ہیں، اور کنیت سے مشہور  
ہیں۔ آپ کے والد صحابی۔ ثقہ ثبت ہیں اور طبقہ ثانیہ میں شمار ہے۔ ۷۰ھ میں وصال ہوا۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:- ۲۷۳۸

### ابو عثمان

آپ نہدی بصری ہیں، زمانہ جاہلیت پایا ہے، حضور انور کا زمانہ پایا مگر زیارت نہ کر  
سکے۔ ساٹھ سال جاہلیت میں اور ساٹھ سال اسلام میں گزارے۔ قریباً ایک سو تیس سال عمر  
ہوئی۔ ۹۵ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول:- ۵۳۳

### ابوعسیب

آپ حضور انور کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کا نام احمد ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد دوم: ۱۲۵۲-۱۲۶۷

### ابوعمیرہ

ابوعمیرہ ازدی مصری ہیں۔ اور صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۵۵۳

### ابوعوام بصری

نام عبدالعزیز بن الربیع باہلی ہیں ثقہ اور طبقہ سابعہ سے ہیں، امام بخاری نے آپ  
سے روایت لی ہے۔  
[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۴۱

### ابوالغادیہ

ان کا نام یسار بن سبع ہے۔ بعض نے جھنی کہا اور بعض مزنی کہتے ہیں۔ امام بخاری  
نے انکو صحابی مانا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں۔ یہ ہی عمار بن یاسر کے قاتل ہیں کہ جنگ صفین  
میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض حضرات نے ابوالغادیہ کو جھنی اور مزنی کے علاوہ تیسرا شخص قرار  
دیا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۱۱۵

### ابوغطفیہ ہذلی

انکو بعض نے غطفیہ اور غطفیہ بھی کہا ہے۔ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ امام



ابوزرعہ کہتے ہیں، ان کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ ابن یونس نے کہا:۔ یہ حاطب بن ابی بلتعہ سے روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول: ۳۶۱۔

### ابوقتاہ

آپ کا نام حارث بن ربیعہ ہے۔ حضور انور کے پیادہ سپاہیوں میں سے ہیں۔ ۵۴ھ میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ بعض نے فرمایا کہ خلافت حیدری میں کوفہ میں فوت ہوئے۔ ستر سال عمر ہوئی۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلداول: ۳۲۴-۳۲۵-۵۱۷-۶۶۱-۶۶۵-۸۲۹-۹۲۵-۱۰۰۲-۱۰۰۸-۱۴۲۵۔

جلد سوم: ۲۳۹۰-۲۳۹۱۔  
جلد چہارم: ۲۸۴۳-۲۹۵۱-۳۰۵۰-۳۳۹۰-۳۶۳۲۔  
[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### ابوقرصافہ

نام جند رہ بن خیشہ ہے۔ کنعانی ہیں۔ صحابی ہیں اور شام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ پھر عسقلان کو وطن بنایا اور یہاں ہی وصال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلداول: ۷۴۳۔  
جلد سوم: ۲۱۴۲۔

### ابوقلابہ

آپ کا نام عبداللہ بن زید ہے جرمی ہیں مشہور تابعی ہیں، حضرت انس وغیرہ سے ملاقات ہے، شام کے علماء میں سے ہیں۔ ایک سو چھ میں شام میں وفات پائی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۳۳۴۲۔



### ابولبابہ

آپ کا نام رفاعہ بن عبدالمند ر ہے، اوسی انصاری ہیں، بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ بعض نے کہا کہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ میں انتظام کیلئے رہے، مگر آپ کو غنیمت سے حصہ دیا گیا۔ حضرت علی کی خلافت میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۹۳۲

جلد چہارم: ۲۹۳۲

### ابولیلی انصاری

آپ کا نام بلال ہے، اور بعض نے بلبل کہا ہے۔ اسکے علاوہ بھی کافی اختلاف ہے۔ احد میں شریک رہے۔ پھر کوفہ کو مسکن بنا لیا تھا۔ حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے۔ کہتے ہیں کہ صفین میں شہید ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۳۲۵

جلد سوم: ۲۴۱۵-۲۴۱۶

### ابوما لک اشعری

آپ کا نام کعب بن عاصم ہے اشعری ہیں، خلافت فاروقی میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۲۲۲-۱۲۲۳

جلد سوم: ۲۱۹۱-۲۱۹۶

### ابومحذورہ

آپ کا نام سمرہ بن مغیرہ ہے یا اوس بن مغیرہ۔ حضور انور کی طرف سے مکہ معظمہ میں موزن تھے۔ ۵۹ھ میں وفات پائی۔ آپ نے مکہ معظمہ سے ہجرت نہیں کی وہاں ہی رہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول:- ۶۰۵

### ابو مرثد غنوی

آپ کا نام کناز بن حصین ہے غنوی ہیں اپنی کنیت میں مشہور ہیں۔ آپ اور آپ کے بیٹے مرثد غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ ۱۲ھ میں وفات پائی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلداول:- ۷۸۴-۸۰۵

### ابو مسعود انصاری

آپ کا نام عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ ہے، دوسری بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ کوفہ میں قیام رہا، اکتالیس ہجری یا بیالیس ہجری میں وفات ہوئی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلداول:- ۷۰۶-۸۱۵

جلد دوم:- ۱۷۵۵

جلد سوم:- ۲۲۴۶

جلد چہارم:- ۲۸۹۹

### ابو مصعب انصاری

تابعی ہیں اور مرسل احادیث ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ابو نعیم نے انکو صحابہ میں شمار کیا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:- ۳۱۶۴

### ابو منظور

ان کے حالات نہیں ملے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۳۷۳

## ابوموسیٰ اشعری

آپ کا نام عبداللہ بن قیس ہے مکہ معظمہ میں ایمان لائے۔ پھر حبشہ ہجرت کر گئے۔ پھر کشتی والوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہونچے، راہ میں خیبر میں حضور سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کو بیس ہجری میں بصرہ کا حاکم بنایا۔ آپ نے اہواز کا علاقہ فتح کیا۔ شروع خلافت عثمانیہ تک آپ بصرہ کے حاکم رہے۔ پھر حضرت عثمان نے آپ کو معذول کر کے کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ آپ حضرت عثمان کی شہادت تک کوفہ کے حاکم رہے۔ حضرت علی نے آپ کو امیر معاویہ کے مقابلہ میں اپنا بیچ مقرر کیا تھا۔ اسکے بعد آپ مکہ معظمہ چلے گئے۔ وہاں ہی ۵۲ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۲۳-۲۵-۲۳۹-۲۸۷-۶۸۱-۹۳۳۔

جلد دوم: ۱۰۲۵-۱۰۴۷-۱۲۲۵-۱۲۵۴-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۳۷۳-۱۴۶۳۔

۱۵۱۸-۱۵۹۶-۱۶۱۹-۱۷۱۶-۱۷۲۷-۱۷۵۷-۱۷۷۳-۱۸۱۹-۱۸۲۱۔

جلد سوم: ۲۱۳۶-۲۱۵۲-۲۱۵۴-۲۱۵۷-۲۱۷۷-۲۲۵۹-۲۲۵۷-۲۲۸۵۔

۲۲۹۲-۲۵۵۲-۲۶۶۸-۲۷۳۵-۲۷۸۶-۲۸۰۰۔

جلد چہارم: ۲۸۳۸-۳۰۴۰-۳۲۹۷-۳۴۳۶-۳۵۸۷۔

## ابونضرہ عبدی

ابن مالک آپ عبدی ہیں۔ بہت صحابہ سے ملاقات ہے بصری ہیں حسن بصری سے کچھ پہلے وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۵۸۸۔

## ابونعامہ

ان کا نام عبد ربہ ہے، بعض نے عمرو کہا ہے۔ تابعین سے ہیں۔ عبداللہ بن صامت

اور ابو عثمان نہدی وغیرہما سے روایت کرتے ہیں۔ ایک جماعت نے انکو ثقہ کہا ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول:- ۳۸۸

### ابو نعمان ازدی

امام طبرانی کے جد اعلیٰ ہیں۔ اور آپ نے صحابہ میں شمار کیا ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۲۹۹۴

### ابو واقد لیشی

آپ کا نام حارث بن عوف ہے، ابو واقد کنیت ہے، قبلہ بنی لیث سے ہیں۔ قدیم  
الاسلام ہیں بدر میں حاضر ہوئے۔ بعد میں مکہ معظمہ میں رہے۔ وہاں ہی ۶۸ھ میں وفات ہوئی  
۷۵ سال عمر پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد دوم:- ۱۴۸۱-۱۹۳۷  
جلد چہارم:- ۲۸۹۸

### ابو وائل

آپ کا نام شفیق بن سلمہ ہے، کنیت ابو وائل کوئی ہیں، مخضرمی ہیں، جلیل القدر صحابی  
ہیں خلفائے راشدین سے احادیث لی ہیں، ۹۹ھ میں وفات ہوئی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۶۷  
جلد دوم:- ۱۲۳۱  
جلد چہارم:- ۳۶۵۴

### ابو وفرہ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔



اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۲۷۶

### ابو وہب جثنی

صحابی ہیں، شام میں مقیم رہے۔ دو حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۲۸۹

### ابو ہریرہ

آپ کے نام اور نسب میں بہت ہی اختلاف ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد  
الشمس یا عبد عمرو تھا۔ اسلام میں آپ کا نام عبد اللہ یا عبد الرحمن ہوا۔ قوی یہ ہے کہ آپ درسی ہیں،  
حاکم اور ابو احمد کہتے ہیں: کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے مگر نام گم ہو کر رہ گیا۔ خیبر کی فتح  
کے سال ایمان لائے اور غزوہ خیبر میں شریک ہوئے۔ پھر حضور کیساتھ سایہ کی طرح رہے۔ علم  
کا بہت شوق تھا۔ ہر دم حضور کیساتھ رہتے تھے۔ اللہ نے آپ کو غضب کا حافظہ دیا تھا آپ  
نے ایک بار حضور انور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں حضور کے فرمان بھول جاتا ہوں، فرمایا: اپنی  
چادر پھیلاؤ۔ آپ نے پھیلائی حضور انور نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا آپ نے چادر سینے سے لگائی  
پھر حافظہ بہت قوی ہو گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ سے آٹھ سو حضرات سے زیادہ نے  
روایات لیں۔ حتیٰ کے حضرت ابن عباس، ابن عمر، جابر، اور انس نے بھی۔ آپ کی عمر ۷۸  
سال ہوئی ۵۷ھ یا ۵۸ھ میں مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۳-۱۵-۱۷-۲۱-۲۶-۳۲-۳۳-۳۸-۴۵-۶۷-۷۸-۱۱۸-۱۲۹-

۱۴۶-۱۴۷-۱۵۳-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۸-۱۷۲-۱۷۵-۱۸۲-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۵-

۲۰۷-۲۰۹-۲۱۴-۲۱۵-۲۲۶-۲۲۹-۲۳۵-۲۳۶-۲۴۵-۲۴۸-۲۵۰-۲۵۸-

۳۶۴-۳۶۶-۳۷۱-۳۷۵-۳۹۲-۳۹۴-۳۹۹-۴۰۹-۴۱۹-۴۳۶-۴۴۷-۴۴۸-

۲۲۱-۲۲۸-۲۳۵-۲۳۶-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۷-۲۶۱-۲۹۱-۵۰۴-۵۵۶-۵۹۷-



200-482-482-442-440-432-434-425-420-419-412-404  
 -225-220-248-242-240-252-238-232-219-212-213  
 844-843-859-853-830-824-822-822-812-294-290-222  
 -1002-980-949-931-924-912-892-829-822

جلد دوم: ۱۱۲۲-۱۱۱۷-۱۱۰۲-۱۱۰۲-۱۰۹۰-۱۰۷۵-۱۰۷۰-۱۰۶۳-۱۰۶۱-۱۰۵۶

۱۲۲۲\_۱۲۲۰\_۱۲۰۳\_۱۲۰۱\_۱۱۹۷\_۱۱۸۸\_۱۱۶۹\_۱۱۵۳\_۱۱۴۹\_۱۱۳۶\_۱۱۳۴\_۱۱۲۴  
\_۱۲۲۱\_۱۳۵۹\_۱۳۵۵\_۱۳۳۷\_۱۲۸۷\_۱۲۷۱\_۱۲۷۰\_۱۲۴۸\_۱۲۴۱\_۱۲۳۶\_۱۲۳۴  
۱۲۷۵\_۱۲۷۴\_۱۲۷۳\_۱۲۷۰\_۱۲۶۸\_۱۲۶۲\_۱۲۵۰\_۱۲۴۴\_۱۲۴۰\_۱۲۳۱\_۱۲۲۴  
\_۱۵۵۱\_۱۵۵۰\_۱۵۴۷\_۱۵۴۵\_۱۵۲۷\_۱۵۱۰\_۱۵۰۵\_۱۵۰۳\_۱۵۹۲\_۱۴۸۴\_۱۴۷۸  
۱۶۶۳\_۱۶۵۵\_۱۶۱۲\_۱۵۹۵\_۱۵۹۳\_۱۵۸۷\_۱۵۷۳\_۱۵۷۱\_۱۵۵۵\_۱۵۵۴\_۱۵۵۳  
\_۱۷۱۵\_۱۷۱۳\_۱۷۱۲\_۱۷۱۱\_۱۷۰۶\_۱۷۰۵\_۱۶۹۴\_۱۶۹۳\_۱۶۸۱\_۱۶۷۷\_۱۶۶۶  
۱۸۳۹\_۱۸۲۵\_۱۸۲۴\_۱۸۰۹\_۱۸۰۸\_۱۸۰۵\_۱۷۸۸\_۱۷۴۶\_۱۷۴۴\_۱۷۴۲\_۱۷۴۱  
www.alahazratnetwork.org  
۱۹۱۹\_۱۹۱۱\_۱۹۱۰\_۱۹۰۹\_۱۹۰۷\_۱۸۹۷\_۱۸۹۴\_۱۸۸۷\_۱۸۶۲\_۱۸۵۶\_۱۸۵۳  
\_۱۹۴۷\_۱۹۴۶

جلد سوم: ۱۹۵۳-۱۹۵۷-۱۹۶۸-۱۹۷۲-۱۹۷۸-۱۹۸۲-۱۹۸۵-۲۰۰۰-۲۰۱۴

[illegible]

۲۷۱۴-۲۷۱۸-۲۷۶۷-۲۷۷۰-۲۷۷۷-

جلد چہارم: ۲۸۰۲-۲۸۰۳-۲۸۱۸-۲۸۱۹-۲۸۲۲-۲۸۲۳-۲۸۳۱-۲۸۴۵

۲۸۴۶-۲۸۶۰-۲۸۷۳-۲۸۷۴-۲۸۸۴-۲۸۹۳-۲۸۹۶-۲۹۱۹-۲۹۲۴-۲۹۴۷-۲۹۵۳

۲۹۶۴-۲۹۷۳-۲۹۸۱-۲۹۹۷-۳۰۰۴-۳۰۲۹-۳۰۳۰-۳۰۳۸-۳۰۴۳-۳۰۴۹

۳۰۵۲-۳۰۵۳-۳۰۵۷-۳۰۶۹-۳۰۷۷-۳۰۹۱-۳۰۹۵-۳۰۹۹-۳۱۱۱-۳۱۱۳

۳۱۲۴-۳۱۳۷-۳۱۸۹-۳۱۹۰-۳۱۹۶-۳۱۹۹-۳۲۰۱-۳۲۰۴-۳۲۰۸-۳۲۰۹

۳۲۱۲-۳۲۱۳-۳۲۲۱-۳۲۲۳-۳۲۲۹-۳۲۴۴-۳۲۴۷-۳۲۸۹-۳۳۰۳-۳۳۰۷

۳۳۲۲-۳۳۲۳-۳۳۲۸-۳۳۳۷-۳۳۴۰-۳۳۴۸-۳۳۵۰-۳۳۵۹-۳۳۹۲

۳۴۰۰-۳۴۰۲-۳۴۱۴-۳۴۲۹-۳۴۳۰-۳۴۳۱-۳۴۳۴-۳۴۳۹-۳۴۴۰-۳۴۴۱

۳۴۴۵-۳۴۶۷-۳۴۷۷-۳۴۸۹-۳۴۹۷-۳۵۲۴-۳۵۵۹-۳۵۶۰

۳۵۶۵-۳۵۸۲-۳۵۹۳-۳۶۰۲-۳۶۱۰-۳۶۱۳-۳۶۳۳-۳۶۳۶-۳۶۳۸

۳۶۴۳-۳۶۴۹-۳۶۶۲-

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### ابوہیان اسدی

آپ کا نام حبان بن حصین ہے، کوئی ہیں ثقہ ہیں اوساط تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول: ۱۸۸۔

### ام ابی قرصافہ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۲۴۶۔

### ام ایمن

آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آزاد کردہ ہیں، آپ کا نام برکت ہے،

حبشیہ ہیں، قدیم الاسلام ہیں، حبشہ اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ

یہ میری ماں ہیں میری حقیقی ماں کے بعد۔ بچپن سے حضور کی پرورش آپ ہی کہ ہاتھوں سے ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد آپ ہی مکہ لیکر آئیں۔ اور پرورش میں مصروف رہیں۔

حضور نے آپ کا نکاح اپنے محبوب خادم زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ انہیں سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ حضور کے وصال کے پانچ ماہ بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۲۹۴۳

### ام المؤمنین ام حبیبہ

آپ کا نام رملہ بنت ابوسفیان ہے۔ کنیت ابو حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت عاص یعنی حضرت عثمان غنی کی پھوپھی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح نجاشی شاہ حبشہ نے کیا۔ ۴۴ھ میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۵۳۸

### ام درداء

آپ کا نام خیرہ بنت ابی الحدرد اسلمی ہے۔ اور ام درداء کبریٰ سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو درداء کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ سے طلحہ بن عبید اللہ اور معاذ بن انس اور میمون بن مہران نے روایات لیں۔ نہایت فاضلہ عاقلہ تھیں اور عابدہ زاہدہ۔ خلافت عثمانی میں شام میں انتقال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۱۸۹-۱۷۷۹

جلد چہارم: ۲۸۸۲

### ام سعد بنت زید بن ثابت انصاری

آپ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ ہیں۔ اور زید بن ثابت کی بیٹی۔ بیرام سعد کا واقعہ

انہیں سے متعلق ہے، عہد نبوی میں انتقال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول: ۴۶۹۔

## ام المؤمنین ام سلمہ

آپ کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے، پہلے حضرت ابوسلمہ کے نکاح میں تھیں۔ ۴ھ میں جب ابوسلمی کا انتقال ہو گیا تو حضور انور کے نکاح میں آئیں۔ اسی سال شوال کے مہینہ میں نکاح ہوا۔ آپ کی عمر ۸۴ سال ہوئی۔ ۵۹ھ میں وفات ہوئی۔ آپ سے آپ کی بیٹی زینب اور عائشہ صدیقہ وغیرہم نے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۴۴۸-۷۷۹۔

جلد دوم: ۱۰۲۱-۱۰۳۱-۱۳۱۵-۱۵۲۳-۱۵۵۲-۱۷۳۲-۱۸۳۷-۱۹۴۵۔

جلد سوم: ۱۹۸۱-۱۹۹۲-۲۰۵۱-۲۱۰۱-۲۱۳۶-۲۳۱۶-۲۶۲۲-۲۶۹۵۔

جلد چہارم: ۲۸۶۱-۳۰۰۵-۳۱۸۲-۳۱۹۲۔

## ام سلیم

آپ ملحان کی بیٹی ہیں آپ کا نام سہیلہ یا رمانہ یا ملیکہ یا غمیصہ یا رمیصا ہے۔ آپ کا نکاح مالک بن نضر سے ہوا جو حضرت انس کے والد ہیں۔ حضرت انس مالک بن نضر کے بیٹے ہیں آپ کے شکم سے۔ پھر مالک مشرک ہو کر ہی قتل ہوئے۔ آپ ایمان لائیں ابوطلحہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ بولیں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم سے نکاح کر لوں گی۔ اور سواء اسلام کے کوئی مہر نہ لوں گی۔ چنانچہ ابوطلحہ ایمان لائے اور آپ سے نکاح کیا۔ ایک مخلوق نے آپ سے احادیث روایت کیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد سوم: ۲۰۰۳-۲۶۰۶۔



## ام شریک

آپ انصاریہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ام شریک عتبہ انصاری کی زوجہ ہیں۔ خیال رہے کہ ایک ام شریک قرشیہ بھی ہیں، جو لوی ابن غالب کی اولاد ہیں یہ انصاریہ ہیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۰۸۵

## ام عطیہ

آپ کا نام نسیہ بنت کعب ہے، کنیت ام عطیہ، اکثر غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیساتھ رہیں۔ بیماروں کی دوا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ بصرہ ہی میں رہیں اور وہاں ہی انتقال فرمایا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۷۶۸-۸۷۰-۹۵۸

جلد دوم:- ۱۰۲۷ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد چہارم:- ۲۹۸۹

## ام عمارہ

آپ کا نام نسیہ بنت کعب ہے انصاریہ ہیں بیعت عقبہ میں شریک ہوئیں، پھر اپنے خاوند زید بن عاصم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئیں۔ پھر بیعت الرضوان میں غزوہ یمامہ میں خود جہاد کیا حتیٰ کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور جسم پر بارہ زخم نیزوں تلواروں کے کھائے بہت لوگوں نے آپ سے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۴۵۷-۴۵۸

## ام الفضل

آپ کا نام لبابہ بنت حارث ہے۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب کی زوجہ ہیں عامریہ ہیں۔ ام المومنین میمونہ کی بہن ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد



عورتوں میں آپ ہی ایمان لائیں، آپ سے بہت احادیث مروی ہیں حضور انور کی چچی ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۳۲۶۹

### ام کرز کعبیہ

آپ ام کرز خزاعیہ مکہ ہیں، چند احادیث آپ سے مروی ہیں۔ خصوصاً عقیقہ کی حدیث۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم:- ۱۸۵۱

جلد چہارم:- ۳۳۵۲

### ام ہانی

آپ کا نام فاختہ یا عائکہ ہے۔ ابوطالب کی بیٹی جناب علی مرتضیٰ کی بہن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ انہیں گھر سے حضور کو معراج ہوئی۔ فتح مکہ کے دن ایمان لائیں۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں ۵۱ھ میں وفات پائی۔ آپ سے حضرت علی اور عباس اور بہت تابعین نے روایت کیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم:- ۱۵۲۰

جلد سوم:- ۲۲۱۴

جلد چہارم:- ۲۸۶۷

### ابن ابی ملیکہ

آپ کا نام عبداللہ ابن ابی عبداللہ ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۲۸۰

## ابن ابی نجیح

آپ کا نام عبداللہ ہے۔ مکی ثقفی ہیں۔ تدلیس کرتے ہیں۔ طبقہ سادسہ میں شمار ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۰۵۴-۱۱۹۴

## ابن امرأۃ عبادہ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۹۱۵

## ابن شہاب زہری

آپ کا نام محمد بن مسلم ہے اور زہرہ بن کلاب پر جا کر آپ کا نسب حضور سے مل جاتا ہے لہذا قریشی ہیں۔ کنیت ابو زہرہ اور ابن شہاب زہری سے مشہور ہیں۔  
۵۸ھ میں ولادت ہوئی۔ ۸۸۰ دن میں قرآن حفظ کیا، سعید بن مسیب کی خدمت میں آٹھ سال رہے۔ محدثین و فقہاء کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قلم و قرطاس ساتھ ہوتا اور جو کچھ سنتے لکھتے جاتے۔ اس محنت و لگن کی بدولت تمام ہم عصروں پر فائق ہوئے۔  
خلیفہ عبدالملک بن مروان کے عہد میں دمشق پہونچے اور دربار خلافت میں نہایت معظم و مکرم رہے۔ تدوین حدیث میں نمایاں کردار ادا کیا۔ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز آپ کو نہایت عزت دیتے اور تدوین حدیث کیلئے آپ ہی نے ان کو معمور فرمایا تھا۔ حفظ و ضبط میں انفرادی شان رکھتے تھے۔

ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک نے آپ سے اپنے بیٹے کیلئے چار سو احادیث کا مجموعہ لکھوایا، پھر اس نوشتہ کو محدثین پر پیش کیا جو بالکل صحیح تھا۔ ایک سال کے بعد ہشام نے یوں ہی کہہ دیا کہ وہ نوشتہ تو ضائع ہو گیا ہے اب کیا ہو، فرمایا: کوئی حرج نہیں لاؤ انہیں احادیث پر مشتمل دوسرا لکھے دیتے ہیں: آپ نے جب تیار کر کے دیا تو ہشام نے پہلا نسخہ منگا کر جو دراصل ضائع

نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کے حفظ کا امتحان لینا تھا، جب مقابلہ کرایا گیا تو بالکل درست تھا، ایک حرف بھی نہیں چھوٹا تھا۔

عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے:-

میں نے امام زہری سے بہتر کوئی عالم بالسنہ نہ دیکھا۔

امام احمد اور امام نسائی نے کہا:-

سب بہتر سند حدیث امام زہری کی ہیں۔

امام لیث بن سعد کہتے ہیں:-

میں نے آپ سے زیادہ جامع علم کسی کو نہ دیکھا۔

امام مکحول سے کسی نے پوچھا: آپ نے سب سے بڑا عالم کسے پایا، فرمایا: امام زہری کو،

عرض کیا: پھر، فرمایا: زہری کو، عرض کیا: پھر، فرمایا: زہری کو۔

آپ کا وصال ماہ رمضان ۱۲۴ھ میں ہوا۔ شارع عام کے کنارے آپ کو دفن کیا گیا

تاکہ گزرنے والے آپ کے لئے دعائے خیر کرتے رہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۳۸۷۔

جلد دوم:- ۱۱۱۲۔

جلد سوم:- ۲۱۶۵۔

آمنہ والدہ ماجدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

آپ حضرت وہب بن مناف کی بیٹی ہیں۔ اور ہمارے حضور سرور کونین صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، حضور کی عمر مبارک چھ سال تھی کہ مدینہ منورہ سے واپسی میں

انتقال فرمایا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۲۴۷۔

## ابراہیم اشہلی

یہ ابراہیم بن اسمعیل بن حبیبہ انصاری اشہلی ہیں۔ ابواسمعیل کنیت ہے۔ مدنی ہیں اور طبقہ سابعہ میں شمار ہوتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم:- ۱۱۲۸

## ابراہیم بن عبدالرحمن

آپ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ بعض نے آپ کو صحابی کہا ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے سماعت حدیث کی ہے۔ ۹۵ھ میں وصال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۲۹۶۰

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## ابراہیم نخعی

ابو عمران، ابراہیم بن یزید بن قیس بن نخعی اور کو فی فقیہ عراق ہیں اور مشہور تابعی۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس وقت بچے تھے۔

تلامذہ: حماد بن سلیمان فقیہ، سماک بن حرب، حکم بن عقبہ بن عون اعمش منصور اور

ایک جماعت نے آپ سے روایت کی۔

حضرت مغیرہ بن مقیم صفی کہتے ہیں: ہمارے قلوب پر انکار عب چھایا رہتا ہے جیسے

امراء و حکام کا۔

امام اعمش نے کہا:۔ بارہا میں نے انکو نماز پڑھتے دیکھا، پھر اسکے بعد ملاقات ہوتی تو

گویا میں انکو مریض پاتا۔ یعنی عبادت میں مشغولیت انکو توانا رکھتی اور اسکے بغیر ان پر آثار

علامت و مرض نمایاں رہتے کہ اصل غذا انکی عبادت تھی۔ شہرت سے پرہیز رکھتے تھے۔

امام اعظم نے فرمایا: میں نے حجاج بن یوسف ظالم و جابر حاکم کی موت کی خبر جب







اسامہ حضور کے غلام اور غلام زادے تھے کہ زید ابن حارثہ بھی حضور کے غلام تھے اسامہ اور زید دونوں حضور کے بڑے پیارے تھے۔ حضور کی وفات کے وقت اسامہ بیس سال کے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ وادی قرالی میں رہے وہیں وصال ہوا۔ بعض نے کہا کہ آپ کی وفات ۵۴ھ میں ہوئی۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ یہ ہی قوی ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۴-۱۹۵-۳۹۱-۵۵۸-۷۹۳

جلد دوم: ۱۹۲۹

جلد سوم: ۲۶۲۰-۲۶۲۱

جلد چہارم: ۲۸۷۷

### اسامہ بن شریک

آپ ذیبائی ثعلبی ہیں کہ کوفہ میں آپ کی احادیث زیادہ مشہور ہوئیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۹۴۲

جلد چہارم: ۳۲۳۵

### اسامہ بن عمیر

آپ اسامہ بن عمیر بن عامر اقیشر ہذلی ہیں اور صحابی۔ بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ صحاح میں آپ کی احادیث مروی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول: ۹۸۷

### اسلم مولیٰ عمر

آپ کا نام اسلم ہے۔ کنیت ابو خالد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں حبشی

تھے۔ حضرت عمر نے آپ کو ۱۱ھ میں خریدا۔ بڑے متقی تابعی ہیں۔ مروان کی حکومت میں وفات پائی ۱۱۴ سال عمر ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۹۹-۱۹۸

جلد دوم:- ۱۸۷۷

## اسماء بنت الصدیق

آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضور انور کی سالی، آپ کا لقب ذات الطاقین یعنی دو کمر بند والی، کیونکہ ہجرت کی رات آپ نے اپنے کمر بند کے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے سے حضور انور کے سفر کا توشہ باندھا تھا، دوسرا ٹکڑا اپنے استعمال میں رکھا یا دوسرے سے حضور کے سفر کا مشکیزہ باندھا۔ آپ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں مکہ معظمہ میں ایمان لائیں آپ سے پہلے صرف سترہ آدمی ایمان لائے تھے آپ اٹھارہویں مومنہ ہیں۔ اپنی ہمیشہ حضرت عائشہ صدیقہ سے دس سال بڑی ہیں اپنے فرزند عبداللہ بن زبیر کی شہادت سے دس دن بعد وفات ہوئی ان کے صولی سے اوترنے کے بعد ۱۱۰ برس عمر ہوئی ۷۳ھ میں مکہ معظمہ میں وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۹۶۳

جلد دوم:- ۱۵۷۶

جلد سوم:- ۱۹۹۸-۲۳۱۸

جلد چہارم:- ۲۸۵۰-۳۰۲۶-۳۳۱۸

## اسماء بنت عمیس

آپ حضرت جعفر ابن ابوطالب کی زوجہ ہیں اپنے خاوند کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں ہی آپ کے بیٹے محمد۔ عبداللہ۔ عون پیدا ہوئے پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے آپ سے نکاح کیا ان سے محمد ابن ابوبکر پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں ان سے یحییٰ بن علی پیدا ہوئے آپ سے بہت صحابہ نے روایات لی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۲۹۹۳

### اسماء بنت یزید

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد سوم: ۲۵۱۰  
جلد چہارم: ۲۹۰۱-۲۹۹۰

### اسمعیل

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۷۵۰

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### اسمعیل بن ابی خالد

یہ صحابی ہیں اور بصرہ میں قیام رہا۔ امام مسلم اور نسائی نے آپ سے روایات لی ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۳۵۵

### اسود بن سریع

یہ اسود بن سریع بن حمیر بن عبادہ تمیمی سعدی مشہور شاعر ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ چار غزوؤں میں شرکت کی۔ قصہ گوئی میں مشہور تھے، بیالیس ہجری میں عہد معاویہ میں مقام بصرہ میں انتقال ہوا۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۲۹۳۳

## اسود بن مسعود ثقفی

یہ صحابی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں مدحیہ اشعار سناتے تھے، انہیں اشعار سے یہ دو شعر ہیں۔

امسیت ربی لا شریک لہ

رب العباد اذا ما حصل الیسر

انت الرسول الذی ترجی فواضلہ

عند القحوط اذا ما أخطا المطر

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۲۹۱۴

## اسود بن وہب خال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ حضور آپ کا احترام فرماتے، ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک انکے لئے بچھائی۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۶۹۵

## اسید بن حفصیر

آپ انصاری اوسی ہیں، آپ دوسری بیعت عقبہ میں شریک ہیں آپ نقیبوں میں سے تھے، دونوں بیعت عقبہ میں ایک سال کا فاصلہ ہے آپ بدر وغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے آپ سے جماعت صحابہ نے روایات لیں۔ مدینہ منورہ میں ۲۰ھ میں خلافت فاروقی میں وفات ہوئی بقیع میں دفن ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۰۷۲



### اسیر بن جابر

آپ اسیر بن جابر بن سلیم ہیں تمیمی ہیں۔ حضور کی خدمت میں حاضری دی ہے اور کلمات طبیات سے نوازے گئے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۳۵۵۸

### اشعث بن قیس

آپ اشعث بن قیس بن معدیکرب ہیں، کنیت ابو محمد ہے کندی ہیں، کندہ کے وفد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وفد کے سردار تھے یہ واقعہ ۱۰ھ میں ہوا، آپ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے محترم سردار تھے اسلام میں بھی بڑے معزز رہے، حضور کی وفات کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے تھے پھر خلافت صدیقی میں دوبارہ مسلمان ہوئے، آخر میں کوفہ میں رہے وہاں ہی وفات ہوئی، امام حسن ابن علی نے جنازہ پڑھایا ۴۰ھ میں وفات ہوئی۔  
[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۳۴۰۹

### اصبغ بن نباتہ

آپ تمیمی حنظلی ہیں اور کوفہ میں سکونت تھی، ابو القاسم کنیت ہے متروک ہیں اور طبقہ ثالثہ میں شمار ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۳۴۵۱

### انس بن سیرین

آپ انصاری ہیں اور محمد بن سیرین کے بھائی۔ کنیت ابو موسیٰ یا ابو حمزہ ہے۔ ۱۸ھ میں وصال ہوا۔ اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل احادیث منقول ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔



جلداول:- ۶۷۷۔

جلد دوم:- ۱۶۳۵-۱۶۴۱-۱۶۴۲-۱۷۷۷-۷۷۹۱۔

## انس بن مالک

آپ کا نام انس بن مالک ابن نضر ہے، کنیت ابو حمزہ ہے، خزرجی انصاری ہیں، حضور انور کے خادم خاص، آپ کی والدہ ام سلیم بنت ملحان ہیں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کی عمر دس سال تھی۔ جب حضور انور کی وفات ہوئی تو آپ بیس سالہ تھے دس سال تک مسلسل حضور انور کی خدمت کی، خلافت فاروقی میں آپ بصرہ منتقل ہو گئے وہاں ہی آپ کی وفات ہوئی، آپ بصرہ کے آخری صحابی ہیں ۹۱ھ میں وفات ہوئی ایک سو تین سال عمر ہوئی بعض نے فرمایا ۹۹ سال عمر ہوئی۔ آپ کی اولاد ۸۰ یا ۱۰۰ ہے اٹھتر لڑکے اور دو لڑکیاں یعنی اولاد در اولاد۔ آپ سے بہت مخلوق نے روایات لیں۔ خلاصہ میں ہے کہ آپ کی احادیث ایک ہزار دو سو چھیاسی ہیں جن میں سے ایک سواڑ سٹھ حدیثیں متفق علیہ ہیں اور تراویح بخاری کی اکثر مسلم کی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول:- ۲-۶-۸-۱۳-۶۱-۷۴-۸۰-۸۷-۹۶-۹۸-۱۱۵-۱۲۲-۱۲۷-۱۴۵

۱۴۸-۱۵۰-۱۵۲-۱۵۵-۲۰۴-۲۱۲-۲۷۴-۲۸۰-۲۸۷-۳۲۳-۳۲۹-۳۳۰-۳۷۹

۳۸۹-۴۲۵-۴۲۷-۴۴۰-۴۵۳-۴۵۵-۴۶۱-۴۶۴-۴۶۸-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۵۸۰-۶۰۰

۶۸۴-۶۹۶-۷۰۵-۷۵۲-۷۵۴-۷۸۸-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰

۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰

۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰

۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰-۱۶۲۱-۱۶۲۲-۱۶۲۳-۱۶۲۴-۱۶۲۵-۱۶۲۶-۱۶۲۷-۱۶۲۸-۱۶۲۹-۱۶۳۰-۱۶۳۱-۱۶۳۲-۱۶۳۳-۱۶۳۴-۱۶۳۵-۱۶۳۶-۱۶۳۷-۱۶۳۸-۱۶۳۹-۱۶۴۰-۱۶۴۱-۱۶۴۲-۱۶۴۳-۱۶۴۴-۱۶۴۵-۱۶۴۶-۱۶۴۷-۱۶۴۸-۱۶۴۹-۱۶۵۰-۱۶۵۱-۱۶۵۲-۱۶۵۳-۱۶۵۴-۱۶۵۵-۱۶۵۶-۱۶۵۷-۱۶۵۸-۱۶۵۹-۱۶۶۰-۱۶۶۱-۱۶۶۲-۱۶۶۳-۱۶۶۴-۱۶۶۵-۱۶۶۶-۱۶۶۷-۱۶۶۸-۱۶۶۹-۱۶۷۰-۱۶۷۱-۱۶۷۲-۱۶۷۳-۱۶۷۴-۱۶۷۵-۱۶۷۶-۱۶۷۷-۱۶۷۸-۱۶۷۹-۱۶۸۰-۱۶۸۱-۱۶۸۲-۱۶۸۳-۱۶۸۴-۱۶۸۵-۱۶۸۶-۱۶۸۷-۱۶۸۸-۱۶۸۹-۱۶۹۰-۱۶۹۱-۱۶۹۲-۱۶۹۳-۱۶۹۴-۱۶۹۵-۱۶۹۶-۱۶۹۷-۱۶۹۸-۱۶۹۹-۱۷۰۰-۱۷۰۱-۱۷۰۲-۱۷۰۳-۱۷۰۴-۱۷۰۵-۱۷۰۶-۱۷۰۷-۱۷۰۸-۱۷۰۹-۱۷۱۰-۱۷۱۱-۱۷۱۲-۱۷۱۳-۱۷۱۴-۱۷۱۵-۱۷۱۶-۱۷۱۷-۱۷۱۸-۱۷۱۹-۱۷۲۰-۱۷۲۱-۱۷۲۲-۱۷۲۳-۱۷۲۴-۱۷۲۵-۱۷۲۶-۱۷۲۷-۱۷۲۸-۱۷۲۹-۱۷۳۰-۱۷۳۱-۱۷۳۲-۱۷۳۳-۱۷۳۴-۱۷۳۵-۱۷۳۶-۱۷۳۷-۱۷۳۸-۱۷۳۹-۱۷۴۰-۱۷۴۱-۱۷۴۲-۱۷۴۳-۱۷۴۴-۱۷۴۵-۱۷۴۶-۱۷۴۷-۱۷۴۸-۱۷۴۹-۱۷۵۰-۱۷۵۱-۱۷۵۲-۱۷۵۳-۱۷۵۴-۱۷۵۵-۱۷۵۶-۱۷۵۷-۱۷۵۸-۱۷۵۹-۱۷۶۰-۱۷۶۱-۱۷۶۲-۱۷۶۳-۱۷۶۴-۱۷۶۵-۱۷۶۶-۱۷۶۷-۱۷۶۸-۱۷۶۹-۱۷۷۰-۱۷۷۱-۱۷۷۲-۱۷۷۳-۱۷۷۴-۱۷۷۵-۱۷۷۶-۱۷۷۷-۱۷۷۸-۱۷۷۹-۱۷۸۰-۱۷۸۱-۱۷۸۲-۱۷۸۳-۱۷۸۴-۱۷۸۵-۱۷۸۶-۱۷۸۷-۱۷۸۸-۱۷۸۹-۱۷۹۰-۱۷۹۱-۱۷۹۲-۱۷۹۳-۱۷۹۴-۱۷۹۵-۱۷۹۶-۱۷۹۷-۱۷۹۸-۱۷۹۹-۱۸۰۰-۱۸۰۱-۱۸۰۲-۱۸۰۳-۱۸۰۴-۱۸۰۵-۱۸۰۶-۱۸۰۷-۱۸۰۸-۱۸۰۹-۱۸۱۰-۱۸۱۱-۱۸۱۲-۱۸۱۳-۱۸۱۴-۱۸۱۵-۱۸۱۶-۱۸۱۷-۱۸۱۸-۱۸۱۹-۱۸۲۰-۱۸۲۱-۱۸۲۲-۱۸۲۳-۱۸۲۴-۱۸۲۵-۱۸۲۶-۱۸۲۷-۱۸۲۸-۱۸۲۹-۱۸۳۰-۱۸۳۱-۱۸۳۲-۱۸۳۳-۱۸۳۴-۱۸۳۵-۱۸۳۶-۱۸۳۷-۱۸۳۸-۱۸۳۹-۱۸۴۰-۱۸۴۱-۱۸۴۲-۱۸۴۳-۱۸۴۴-۱۸۴۵-۱۸۴۶-۱۸۴۷-۱۸۴۸-۱۸۴۹-۱۸۵۰-۱۸۵۱-۱۸۵۲-۱۸۵۳-۱۸۵۴-۱۸۵۵-۱۸۵۶-۱۸۵۷-۱۸۵۸-۱۸۵۹-۱۸۶۰-۱۸۶۱-۱۸۶۲-۱۸۶۳-۱۸۶۴-۱۸۶۵-۱۸۶۶-۱۸۶۷-۱۸۶۸-۱۸۶۹-۱۸۷۰-۱۸۷۱-۱۸۷۲-۱۸۷۳-۱۸۷۴-۱۸۷۵-۱۸۷۶-۱۸۷۷-۱۸۷۸-۱۸۷۹-۱۸۸۰-۱۸۸۱-۱۸۸۲-۱۸۸۳-۱۸۸۴-۱۸۸۵-۱۸۸۶-۱۸۸۷-۱۸۸۸-۱۸۸۹-۱۸۹۰-۱۸۹۱-۱۸۹۲-۱۸۹۳-۱۸۹۴-۱۸۹۵-۱۸۹۶-۱۸۹۷-۱۸۹۸-۱۸۹۹-۱۹۰۰-۱۹۰۱-۱۹۰۲-۱۹۰۳-۱۹۰۴-۱۹۰۵-۱۹۰۶-۱۹۰۷-۱۹۰۸-۱۹۰۹-۱۹۱۰-۱۹۱۱-۱۹۱۲-۱۹۱۳-۱۹۱۴-۱۹۱۵-۱۹۱۶-۱۹۱۷-۱۹۱۸-۱۹۱۹-۱۹۲۰-۱۹۲۱-۱۹۲۲-۱۹۲۳-۱۹۲۴-۱۹۲۵-۱۹۲۶-۱۹۲۷-۱۹۲۸-۱۹۲۹-۱۹۳۰-۱۹۳۱-۱۹۳۲-۱۹۳۳-۱۹۳۴-۱۹۳۵-۱۹۳۶-۱۹۳۷-۱۹۳۸-۱۹۳۹-۱۹۴۰-۱۹۴۱-۱۹۴۲-۱۹۴۳-۱۹۴۴-۱۹۴۵-۱۹۴۶-۱۹۴۷-۱۹۴۸-۱۹۴۹-۱۹۵۰-۱۹۵۱-۱۹۵۲-۱۹۵۳-۱۹۵۴-۱۹۵۵-۱۹۵۶-۱۹۵۷-۱۹۵۸-۱۹۵۹-۱۹۶۰-۱۹۶۱-۱۹۶۲-۱۹۶۳-۱۹۶۴-۱۹۶۵-۱۹۶۶-۱۹۶۷-۱۹۶۸-۱۹۶۹-۱۹۷۰-۱۹۷۱-۱۹۷۲-۱۹۷۳-۱۹۷۴-۱۹۷۵-۱۹۷۶-۱۹۷۷-۱۹۷۸-۱۹۷۹-۱۹۸۰-۱۹۸۱-۱۹۸۲-۱۹۸۳-۱۹۸۴-۱۹۸۵-۱۹۸۶-۱۹۸۷-۱۹۸۸-۱۹۸۹-۱۹۹۰-۱۹۹۱-۱۹۹۲-۱۹۹۳-۱۹۹۴-۱۹۹۵-۱۹۹۶-۱۹۹۷-۱۹۹۸-۱۹۹۹-۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴-۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۰۱۶-۲۰۱۷-۲۰۱۸-۲۰۱۹-۲۰۲۰-۲۰۲۱-۲۰۲۲-۲۰۲۳-۲۰۲۴-۲۰۲۵-۲۰۲۶-۲۰۲۷-۲۰۲۸-۲۰۲۹-۲۰۳۰-۲۰۳۱-۲۰۳۲-۲۰۳۳-۲۰۳۴-۲۰۳۵-۲۰۳۶-۲۰۳۷-۲۰۳۸-۲۰۳۹-۲۰۴۰-۲۰۴۱-۲۰۴۲-۲۰۴۳-۲۰۴۴-۲۰۴۵-۲۰۴۶-۲۰۴۷-۲۰۴۸-۲۰۴۹-۲۰۵۰-۲۰۵۱-۲۰۵۲-۲۰۵۳-۲۰۵۴-۲۰۵۵-۲۰۵۶-۲۰۵۷-۲۰۵۸-۲۰۵۹-۲۰۶۰-۲۰۶۱-۲۰۶۲-۲۰۶۳-۲۰۶۴-۲۰۶۵-۲۰۶۶-۲۰۶۷-۲۰۶۸-۲۰۶۹-۲۰۷۰-۲۰۷۱-۲۰۷۲-۲۰۷۳-۲۰۷۴-۲۰۷۵-۲۰۷۶-۲۰۷۷-۲۰۷۸-۲۰۷۹-۲۰۸۰-۲۰۸۱-۲۰۸۲-۲۰۸۳-۲۰۸۴-۲۰۸۵-۲۰۸۶-۲۰۸۷-۲۰۸۸-۲۰۸۹-۲۰۹۰-۲۰۹۱-۲۰۹۲-۲۰۹۳-۲۰۹۴-۲۰۹۵-۲۰۹۶-۲۰۹۷-۲۰۹۸-۲۰۹۹-۲۱۰۰-۲۱۰۱-۲۱۰۲-۲۱۰۳-۲۱۰۴-۲۱۰۵-۲۱۰۶-۲۱۰۷-۲۱۰۸-۲۱۰۹-۲۱۱۰-۲۱۱۱-۲۱۱۲-۲۱۱۳-۲۱۱۴-۲۱۱۵-۲۱۱۶-۲۱۱۷-۲۱۱۸-۲۱۱۹-۲۱۲۰-۲۱۲۱-۲۱۲۲-۲۱۲۳-۲۱۲۴-۲۱۲۵-۲۱۲۶-۲۱۲۷-۲۱۲۸-۲۱۲۹-۲۱۳۰-۲۱۳۱-۲۱۳۲-۲۱۳۳-۲۱۳۴-۲۱۳۵-۲۱۳۶-۲۱۳۷-۲۱۳۸-۲۱۳۹-۲۱۴۰-۲۱۴۱-۲۱۴۲-۲۱۴۳-۲۱۴۴-۲۱۴۵-۲۱۴۶-۲۱۴۷-۲۱۴۸-۲۱۴۹-۲۱۵۰-۲۱۵۱-۲۱۵۲-۲۱۵۳-۲۱۵۴-۲۱۵۵-۲۱۵۶-۲۱۵۷-۲۱۵۸-۲۱۵۹-۲۱۶۰-۲۱۶۱-۲

۱۴۶۰-۱۴۵۹-۱۴۵۸-۱۴۵۷۱۴۴۸-۱۴۴۳-۱۴۴۲-۱۴۱۹-۱۴۰۸-۱۳۴۹-۱۳۴۷  
۱۶۰۰-۱۵۸۴-۱۵۸۲-۱۵۵۷-۱۵۴۴-۱۵۳۳-۱۵۲۱-۱۵۱۷-۱۵۱۳-۱۵۰۱-۱۴۹۷  
۱۸۱۷-۱۷۸۷-۱۷۸۲-۱۷۴۲-۱۷۲۵-۱۶۹۱-۱۶۶۵-۱۶۵۷-۱۶۴۷-۱۶۲۰-۱۶۱۳  
-۱۹۳۸-۱۸۹۱-۱۸۸۱-۱۸۶۸-۱۸۶۷-۱۸۶۵-۱۸۶۰-۱۸۵۲-۱۸۴۵-۱۸۴۴-  
جلد سوم:- ۲۰۷۶-۲۰۷۱-۲۰۵۹-۲۰۵۶-۲۰۴۹-۲۰۴۰-۲۰۰۴-۲۰۰۲-۱۹۹۹-  
۲۱۸۷-۲۱۶۰-۲۱۴۷-۲۱۳۸-۲۱۳۷-۲۱۱۸-۲۱۰۵-۲۱۰۱-۲۰۹۰-۲۰۸۷-۲۰۷۹  
۲۲۷۸-۲۲۶۹-۲۲۶۸-۲۲۵۷-۲۲۴۸-۲۲۴۴-۲۲۱۹-۲۲۱۵-۲۲۱۲-۲۱۹۳-۲۱۸۸  
۲۵۱۱-۲۵۰۲-۲۴۹۹-۲۴۸۱-۲۴۷۲-۲۴۷۱-۲۴۶۷-۲۴۴۸-۲۴۴۷-۲۳۶۳-۲۳۵۵  
۲۶۱۱-۲۶۱۰-۲۵۹۸-۲۵۹۴-۲۵۷۸-۲۵۷۴-۲۵۶۶-۲۵۶۴-۲۵۳۰-۲۵۲۴-۲۵۱۵  
۲۷۳۳-۲۶۹۹-۲۶۸۵-۲۶۸۲-۲۶۶۹-۲۶۶۱-۲۶۴۴-۲۶۴۳-۲۶۴۱-۲۶۳۷  
۲۸۶۵-۲۸۶۲-۲۸۴۴-۲۸۴۰-۲۸۳۵-۲۸۲۷-۲۸۱۷-۲۸۱۶-۲۸۱۵-۲۸۰۶-۲۷۸۱  
-۳۰۲۵-۳۰۰۲-۲۹۸۶-۲۹۸۴-۲۹۶۳-۲۹۴۵-۲۹۲۲-۲۹۱۵-۲۹۰۷-۲۸۷۵  
-۳۲۱۹-۳۲۱۸-۳۲۱۱-۳۲۰۷-۳۲۰۶-۳۲۰۵-۳۱۱۸-۳۱۱۷-۳۱۱۵-۳۰۶۰-۳۰۴۱  
-۳۳۲۷-۳۳۰۸-۳۳۰۱-۳۲۹۳-۳۲۸۵-۳۲۷۶-۳۲۷۲-۳۲۶۴-۳۲۲۶-۳۲۲۰  
جلد چهارم:- ۳۳۰۸-۳۳۹۹-۳۳۹۸-۳۳۹۶-۳۳۹۳-۳۳۵۸-۳۳۴۹-  
۳۵۱۵-۳۴۹۳-۳۴۸۳-۳۴۶۹-۳۴۴۷-۳۴۴۲-۳۴۲۸-۳۴۲۶-۳۴۲۴-۳۴۲۲  
۳۶۰۹-۳۵۸۱-۳۵۷۶-۳۵۶۸-۳۵۶۱-۳۵۵۷-۳۵۵۶-۳۵۵۲-۳۵۴۴-۳۵۴۰  
-۳۶۵۱-۳۶۴۷-۳۶۲۹-۳۶۱۲

## اوس بن اوس

آپ کو اوس بن ابی اوس بھی کہا جاتا ہے قبیلہ بنی ثقیف سے ہیں عمرو بن اوس کے والد

ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول :- ۹۳۰

جلد چہارم :- ۳۳۲۷

## اوس بن شریل

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۲۶۴

## اوس بن عبداللہ الربعی

کنیت ابوالجوزاء ہے آپ بصری تابعی ہیں اور ثقہ ہیں۔ عابد و فاضل۔ ۸۳ھ میں

وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۶۰۴

## ایاس بن عبداللہ

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

آپ دوسی مدنی ہیں آپ کی صحابیت میں اختلاف ہے آپ سے صرف ایک حدیث

مروی ہے بیوی کو مارنے کے متعلق۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۵۴۸

## ایاس بن معاویہ مرنی

آپ کی کنیت ابودائلہ ہے، بصری مرنی ہیں، بصرہ کے قاضی تھے، امام طبرانی نے صحابہ

میں شمار کیا ہے۔

حضرت انس، سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر وغیرہ ہم سے احادیث روایت کرتے

ہیں۔ حمید الطویل۔ حماد سفیان، شعبہ وغیرہ ہم آپ کے تلامذہ میں ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول: ۹۲۰

## براء بن عازب

آپ مشہور صحابی ہیں، انصاری حارثی ہیں، آخر میں کوفہ میں قیام رہا۔ ۶۴ھ میں کئی علاقہ کے فاتح آپ ہیں۔ جنگ جمل وصفین حضرت علی کے ساتھ تھے کوفہ ہی میں وفات پائی وہاں ہی دفن ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۹۴۷

جلد دوم:- ۱۱۹۹-۱۵۰۴

جلد سوم:- ۲۰۵۷-۲۰۵۸

## بریدہ بن حصیب اسلمی

آپ مشہور صحابی ہیں آپ کا نام بریدہ ابن حصیب اسلمی ہے، حق یہ ہے کہ عین ہجرت کی حالت میں راستہ میں ایمان لائے۔ بصرہ میں قیام رہا خراسان کے جہادوں میں شریک رہے یزید ابن معاویہ کے زمانہ میں مقام مرو میں ۷۲ھ میں وفات پائی۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ مرد میں آپکی قبر کی زیارت ہوتی ہے جس سے برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۳۳۴-۷۶۵-۹۵۹-۹۶۱-۹۷۳

جلد دوم:- ۱۲۷۲-۱۵۶۵-۱۹۲۰-۲۰۳۱

جلد سوم:- ۲۱۷۱-۲۱۷۲-۲۱۷۶-۲۲۷۶-۲۳۶۰-۲۵۰۹-۲۶۱۸-۲۶۴۶

جلد چہارم:- ۲۸۷۸-۳۱۴۶-۳۵۰۴-۳۵۸۶

## بشیر بن خصاصیہ اسلمی

آپکے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۴۹۸



## بشیر بن خصاصیہ سدوسی

یہ بشیر بن معبد ہیں اور ابن خصاصیہ سے مشہور ہیں۔ ان کا نام زخم تھا حضور نے بشیر رکھا بصرہ میں رہے۔ بشیر بن نہیک نے آپ سے روایات لی ہیں۔

امام ابو حاتم نے ابن خصاصیہ نام سے دو حضرات کا ذکر کیا ہے، ایک اسلمی اور دوسرے سدوسی۔ امام بخاری اور ابن حبان نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ لہذا اول الذکر اسلمی ہیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۱۵۳

## بکر بن عبد اللہ مزنی

کنیت ابو عبد اللہ ہے، مزنی بصری ہیں اور ثقہ تابعی۔ عابد و فاضل تھے۔ ابن سعد نے آپ کو ثقہ ثبت حجة اور فقیہ کہا ہے۔ ۱۰۸ھ میں وصال ہوا۔

حضرت انس، ابن عباس، ابن عمر، مغیرہ بن شعبہ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ سے پچاس حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۰۵۱-۱۰۵۵-۱۱۸۳-۱۱۹۵

جلد چہارم: ۳۲۸۹-۳۳۹۷

## بلال بن رباح

بلال ابن حارث صحابی ہیں، مزنیہ کے وفد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لائے۔ ۸۰ سال عمر پائی۔ ۶۰ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۶۲

جلد سوم: ۲۴۳۳

جلد چہارم: ۳۳۶۷



## بہز بن حکیم

آپ بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ ہیں قیشری بصری ہیں آپ کے متعلق علماء میں اختلاف رہا۔ بخاری مسلم نے آپ کی کوئی حدیث روایت نہیں کی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۲۵۶

## بھیسہ

آپ فزاریہ ہیں صحابیہ ہیں آپ نے اپنے والد سے بھی روایات لی ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۰۸۴

## تمیم داری

آپ کا اسم شریف تمیم بن اوس بن دارہ ہے، آپ عیسائی تھے۔ ۹ھ میں ایمان لائے۔  
آپ سے کل اٹھارہ احادیث مروی ہیں جن میں سے صرف یہ ایک حدیث ہے۔ آپ شب کو نوافل میں ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اور کبھی ایک آیت صبح تک بار بار پڑھتے اور روتے رہتے تھے۔ اولاد مدینہ منورہ میں رہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شام چلے گئے وہاں ہی وفات پائی۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ آپ ہی نے روشن کئے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۰۶۵

## ثابت بن اسلم بنانی

آپ کی کنیت ابو محمد ہے بنانی ہیں تابعی ہیں اہل بصرہ سے ہیں مشہور محدث ہیں، حضرت انس کے ساتھ چالیس سال رہے۔ ۸۶ سال عمر پائی ۱۲۳ میں وفات ہوئی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۲۳۰

## ثعلبہ بن ابی مالک

آپ قرظی ہیں، صحابیت میں اختلاف ہے، ابن حبان نے ثقات تابعین میں آپ کا ذکر کیا ہے، ابو حاتم کہتے ہیں۔ یہ تابعی ہیں اور انکی احادیث مرسل ہوتی ہیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۵۶۱۔

## ثوبان

آپ کا نام شریف ثوبان ابن مجہد ہے کنیت ابو عبد اللہ، حضور کی وفات کے بعد آپ شام چلے گئے مقام رملہ حمص میں مقیم رہے۔ آپ حضور کے آزاد کردہ مشہور غلام ہیں۔ جو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ملازم بارگاہ رہتے تھے۔ ۵۴ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۱۳۲-۲۰۶  
[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد دوم: ۱۰۶۲-۱۳۰۳-۱۴۲۹

جلد سوم: ۲۱۰۴-۲۴۸۴-۲۶۶۶-۲۷۶۹

جلد چہارم: ۲۹۳۲-۳۲۵۸-۳۳۲۰-۳۳۶۰

## جابر بن سمرہ

آپ مشہور صحابی ہیں، آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے عامری ہیں، حضرت سعد ابن وقاص کے بھانجے ہیں۔ آپ کی والدہ خالدہ بنت ابی وقاص ہیں۔ کوفہ میں رہے وہاں ہی ۷۴ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۶۸۵-۷۱۰-۷۳۷-۷۳۸-۹۷۹

جلد دوم: ۱۵۰۶-۱۸۲۷-۱۸۲۹-۱۸۳۱

جلد چہارم: ۳۵۴۱

## جابر بن عبد اللہ

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے انصاری ہیں سلمیٰ ہیں بہت احادیث آپ سے مروی ہیں، آپ بدر وغیرہ اٹھارہ غزوات میں شریک ہوئے حضور انور کی وفات کے بعد شام و مصر میں گئے آخر میں ناپینا ہو گئے تھے۔ آپ کی عمر چورانوے سال ہوئی ۷۷ھ میں مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔ آپ مدینہ منورہ کے آخری صحابی ہیں کہ آپ کی وفات سے زمین مدینہ صحابہ سے خالی ہو گئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۷-۳۹-۵۷-۸۴-۱۹۳-۱۹۴-۲۱۳-۲۷۵-۳۲۰-۳۳۶-۳۹۷-

۴۴۲-۴۴۵-۴۶۵-۴۸۶-۴۹۴-۵۰۹-۵۶۶-۶۱۰-۶۱۸-۶۴۴-

۶۵۳-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۷۵۰-۷۷۳-۸۰۰-۸۰۱-۸۱۶-۹۱۶-۹۴۳-۹۴۶-

۹۶۲-۹۷۰-۱۰۰۰-

جلد دوم:- ۱۰۲۰-۱۰۲۶-۱۰۴۳-۱۰۴۶-۱۰۶۶-۱۰۷۱-۱۰۷۶-۱۰۹۲-۱۰۹۸-۱۲۲۷-

۱۲۴۴-۱۲۶۸-۱۲۸۸-۱۳۰۱-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۷۲-۱۳۷۶-۱۴۷۶-

۱۴۸۵-۱۵۱۲-۱۵۳۲-۱۵۶۴-۱۶۸۰-۱۶۸۳-۱۶۸۶-۱۷۱۰-۱۷۳۳-۱۸۵۷-۱۸۶۴-

۱۸۶۹-۱۸۷۵-۱۸۸۶-۱۸۹۵-۱۹۱۲-۱۹۱۴-۱۹۱۵-۱۹۳۴-

جلد سوم:- ۱۹۵۰-۱۹۵۱-۱۹۹۶-۲۰۸۰-۲۰۸۸-۲۰۹۳-۲۰۹۵-۲۱۸۲-

۲۱۹۴-۲۱۹۸-۲۲۴۴-۲۲۵۳-۲۲۵۴-۲۲۶۱-۲۳۲۲-۲۳۴۲-۲۳۴۳-۲۳۶۹-۲۳۸۱-

۲۴۴۴-۲۴۵۹-۲۴۶۸-۲۵۰۴-۲۵۷۵-۲۵۸۰-۲۶۳۵-۲۶۹۴-۲۷۳۱-۲۷۵۰-

۲۷۹۰-۲۷۹۷-

جلد چہارم:- ۲۸۱۱-۲۸۱۲-۲۸۳۶-۲۸۴۸-۲۸۷۶-۲۸۸۶-۲۸۹۱-۲۹۰۴-

۲۹۵۲-۲۹۶۸-۳۰۲۵-۳۰۳۹-۳۰۷۵-۳۰۷۸-۳۰۸۸-۳۱۱۹-۳۱۲۳-۳۱۲۶-

۳۱۲۸-۳۱۳۶-۳۱۴۷-۳۱۵۳-۳۱۵۹-۳۱۶۰-۳۱۶۱-۳۱۶۲-۳۱۶۵-۳۱۶۶-

۳۱۶۷-۳۱۶۸-۳۱۷۹-۳۱۸۳-۳۲۰۰-۳۲۳۸-۳۲۶۳-۳۲۹۹-۳۳۱۲-۳۳۱۵-

۳۳۲۳-۳۳۱۵-۳۵۵۰-۳۵۸۹-۳۶۱۵-

## جابر بن عتیک

آپ انصاری ہیں اور مشہور صحابی ہیں، آپ کے جنگ بدر کی شرکت میں اختلاف ہے، باقی سارے غزووں میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے عمر شریف ۹۱ سال ہوئی ۶۱ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۲۳۲-۱۲۵۱

## جبیر بن مطعم

آپ جبیر بن مطعم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف ہیں کنیت ابو محمد ہے، فتح مکہ یا خیبر کے دن ایمان لائے، بڑے شاعر، نبیوں کے عالم سردار قوم تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے شاگرد تھے۔ ۵۴ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد اول: ۲۹۔

جلد دوم: ۱۸۱۰۔

جلد سوم: ۲۵۹۰-۲۵۵۲-۲۵۵۸

جلد چہارم: ۳۱۸۱-۳۳۲۹-۳۴۷۰

## جبیر بن نفیر

یہ حضری ہیں زمانہ جاہلیت و اسلام دونوں پائے اہل شام کے ثقہ لوگوں میں سے ہیں ۸۰ھ میں وفات پائی یعنی حضور انور کا زمانہ پایا مگر ملاقات نہ ہو سکی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۲۰۳۔

## جریر بن عبد اللہ بکلی

آپ کی کنیت ابو عمرو ہے حضور انور کی وفات کے سال آپ ایمان لائے، خود فرماتے



ہیں کہ میں وفات سے چالیس دن پہلے ایمان لایا آخر میں کوفہ میں رہے پھر بستی قرقر میں  
۵۱ھ میں وفات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۲۲۶-۱۳۷۰

جلد سوم: ۲۶۶۷

## جندب اسدی

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۶۶۵

## جندب بن عبد اللہ بجلی

آپ عبد اللہ بن سفیان کے بیٹے ہیں بجلی علقی ہیں، علق بجلی کا ایک خاندان ہے، واقعہ  
عبد اللہ بن زبیر کے ۴۱ سال بعد وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۲۵۰-۲۵۱-۷۹۵-۹۵۱

## ام المومنین جویریہ

آپ جویریہ بنت حارث ہیں۔ ۵ھ میں غزوہ مریض میں جسے غزوہ بنی مصطلق بھی  
کہتے ہیں گرفتار ہو کر آئیں اور حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں انہوں نے آپ کو  
مکاتب کر دیا حضور انور نے آپ کی کتابت کا روپیہ ادا کر کے آپ کو آزاد کر کے آپ سے نکاح  
کر لیا لہذا آپ ام المومنین ہیں، آپ کا پہلا نام برہ تھا حضور انور نے بدل کر جویریہ رکھا۔ آپ  
نے ۶۵ سال عمر پائی ربیع الاول ۵۶ھ میں وفات ہوئی آپ کے بہت فضائل ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۱۹۶۰



## حارث بن نوفل

حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب ہیں ہاشمی مطلبی ہیں، ابن حبان نے صحابہ میں ذکر کیا، خلافت عثمانی کے آخر میں مقام بصرہ میں وصال ہوا، بعض نے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں انتقال لکھا ہے، کہتے ہیں آپ حضور کے بہت مشابہ تھے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم:۔ ۱۱۲۵

## حبان بن حیلہ تابعی

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم:۔ ۱۲۴۳

## حبان بن منقذ

آپ انصاری مازنی مدنی ہیں ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول:۔ ۱۰۱۱

## حبشی بن جنادہ

آپ سلولی ہیں اور صحابی، کوفہ جائے سکونت تھا حجۃ الودع میں حضور کے ساتھ تھے اور حضور سے روایت کرتے ہیں، ابواسحاق اور عامر شعمی آپ سے روایت کرتے ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم:۔ ۱۳۷۹

## حبیب بن ابی ثابت

حبیب بن ابی ثابت قیس بن دینار ہیں، بعض نے قیس بن ہند کہا ہے، کوفی ہیں اور تابعی۔ ابن عمر بن عباس اور انس وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

امام اعظم ابو اسحاق شیبانی امام ثوری اور امام شعبہ آپ کے تلامذہ میں ہیں۔ ۱۱۹ھ میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم:۔ ۱۶۳۰

### حبیب بن مسلمہ

کنیت ابو عبد الرحمن ہے، قرشی فہری ہیں صحابی ہیں، حضور سے، سعید بن زید، اپنے والد مسلمہ، اور ابو ذر غفاری وغیرہم سے روایت کرتے ہیں، آپ کے تلامذہ میں عوف بن مالک اشجعی، ابن ابی ملیکہ، ضحاک بن قیس ہیں۔ ۴۲ھ میں وصال ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:۔ ۲۵۴۸

### حبیب بن یساف

تابعی ہیں، نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں اور ان سے حبیب بن سالم نے روایت لی ہے ابو حاتم نے انکو مجہول کہا ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول:۔ ۹۲-۹۳

### حجاج بن عمرو

حجاج بن عمرو بن عزیر انصاری مازنی مدنی صحابی ہیں۔ حضور سے روایت کرتے ہیں عبد اللہ بن رافع، عکرمہ اور ضمہ بن سعید آپ سے روایت کرتے ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول:۔ ۹۲۴

### حدیر سلمی

حدیر بن کریم حضرمی ہیں انکو ابو الزہرانیہ حمیری حمصی بھی کہا جاتا ہے۔ تابعی ہیں

حذیفہ بن الیمان، ابودرداء، ابوامامہ وغیرہم سے روایت لیتے ہیں۔ ۱۲۹ھ میں وصال ہوا۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۴۰۶۔

### حذیفہ بن اسید

آپ ابن امیہ بن اسید ہیں، کنیت ابوسریحہ اور غفاری ہیں، صلح حدیبیہ میں شریک تھے اور بیعت رضوان کے موقع پر بھی حاضر رہے، حضور، صدیق اکبر، علی، ابوذرو غیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں  
جلد دوم: ۱۰۷۶-۱۸۴۸۔

جلد چہارم: ۳۲۶۱-۳۳۵۱-۳۶۱۶-۳۶۱۷-۳۶۱۸۔

### حذیفہ بن یمان

آپ کا نام حذیفہ بن یمان ہے کنیت ابو عبد اللہ آپ کے والد یمان کا نام جمیل تھا لقب یمان۔ آپ حضور کے صاحب اسرار صحابی ہیں آپ کو قیامت کے ایک ایک فتنہ کا علم تھا۔ آپ کا وصال ۳۵ھ یا ۳۶ھ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مدائن میں ہوا وہیں آپ کا مزار شریف ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۶۸-۲۱۸-۳۳۷-۴۲۴-۵۲۳-۸۱۴۔

جلد دوم: ۱۳۹۷-۱۸۳۳۔

جلد سوم: ۱۹۶۴-۲۰۵۴-۲۱۹۵-۲۶۳۲-۲۶۷۷-۲۷۲۰۔

جلد چہارم: ۲۹۰۸-۳۰۱۲-۳۰۴۴-۳۱۴۸-۳۱۷۲-۳۲۱۴-۳۲۳۳۔

۳۲۵۱-۳۲۶۰-۳۳۱۹-۳۳۳۱-۳۳۳۸-۳۴۹۶۔

### حسان بن ثابت

آپ کی کنیت ابوالولید ہے انصاری خزرجی ہیں، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

مخصوص شاعر ہیں۔ شاعروں کے سر تاج ابو عبید کہتے ہیں، اہل عرب متفق ہیں کہ شاعروں سے افضل شاعر حسان ہیں، آپ نے چالیس ہجری سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت میں وفات پائی۔ ۱۲۰ سال عمر ہوئی۔ ۶۰ سال جاہلیت میں اور ۶۰ سال اسلام میں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۳۸۳

### حسان بن عطیہ

آپ محارب بن ہیں اور تابعی، ابو امامہ باہلی، عبسہ بن ابی سفیان، خالد بن معدان، سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں۔ امام اوزاعی، ابو غسان مدنی اور عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان اور ولید بن مسلم آپ کے تلامذہ میں ہوتے ہیں۔ ۱۲۰ھ بعد وصال ہوا۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۴۴۱

### حسان بن خرق

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۷۴۹

### حسن بن کثیر

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۴۵۹

### حسن ضعی کوفی

حسن بن حماد الضعی کوفی ہیں، ابو علی الوراق الصیرفی سے مشہور ہیں۔  
ابن عیینہ، ابو امامہ، ابو خالد احمر، عبدالرحمن بن محمد محارب بن وغیرہم سے حدیث روایت



کرتے ہیں۔ اور آپ کے تلامذہ میں ابویعلیٰ، ابوزرہ رازی، حسن بن سفیان وغیرہم شمار ہوتے ہیں، ثقہ مامون ہیں۔ ۲۳۸ھ میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول:- ۳۲۷

### حسن بن علی

آپ کی کنیت ابو محمد ہے، سبط رسول اللہ، ریحانہ رسول، سید شباب اہل جنت، آپ کے القاب ہیں۔ ۱۵/رمضان ۳ھ میں آپ کی ولادت ہے۔ ۵۰ھ میں وفات جنت البقیع میں مزار مقدس ہے، اپنے والد ماجد علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ ہوئے چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے موت پر آپ سے بیعت کی، لیکن آپ نے مسلمانوں میں خوں ریزی دفع کرنے کیلئے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دست برداری فرمائی یہ واقعہ پندرہ ۱۵/جمادی اولیٰ ۴۱ھ کو ہوا قریباً چھ ماہ خلافت کی۔ آپ کی وفات نہ ہر دیئے جانے سے ہوئی انتیس صفر یا چار ربیع الاول شنبہ کی شب میں ہوئی، اس کے متعلق اور بھی قول ہیں مگر چہارم ربیع الاول قوی ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول:- ۶۱۳

جلد دوم:- ۱۳۱۹-۱۹۰۲

جلد سوم:- ۲۰۶۹-۲۱۰۰

جلد چہارم:- ۳۶۲۷

### حسن بصری

نام حسن، کنیت ابوسعید والد کا نام ابوالحسن یسار، بصری تابعی ہیں۔  
کہا جاتا ہے کہ آپ زید بن ثابت کے آزاد کردہ ہیں، بعض نے جمیل بن قطنہ کا آزاد کردہ کہا ہے، آپ کی والدہ خیرہ تھیں جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی آزاد کردہ تھیں۔  
مدینہ منورہ میں پرورش پائی اور قرآن کریم خلافت عثمانی میں حفظ کیا۔ بڑے ہو کر اکثر



جہاد اور علم و عمل میں زندگی بسر فرمائی۔ آپ مرد مجاہد تھے۔

حضرت امیر معاویہ کے دور میں والی خراسان ربیع بن زیاد کے میرنشی رہے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان، عمران بن حصین، مغیرہ بن شعبہ، عبدالرحمن سمرہ، سمرہ بن جندب بجلی، ابن عباس، ابن عمر، ابن بکرہ اور جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت قتادہ، ایوب، ابن عون، یونس خالد الخداء، ہشام بن حسان، حمید الطویل، جرید بن حازم وغیرہم نے آپ سے روایت کی ہے۔

ابن سعد نے کہا:-

آپ عالم رفیع الشان تھے، ثقہ اور حجت ہیں، عابد و زاہد اور فصیح و وجیہ تھے لیکن ارسال کریں تو حجت نہیں۔ مدلس ہیں لہذا جتکو نہ پایا ان سے روایت کریں تو حجت نہیں۔ کبھی ان سے بھی تدلیس کرتے ہیں جن سے ملاقات ہے۔

ان تمام چیزوں کے باوجود حافظ و علامہ، فقیہ النفس کبیر الشان ہیں، بے نظیر واعظ اور ہر بھلائی کے جامع۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

امام ابوزر عہ رازی فرماتے ہیں:-

آپ کی ہر روایت کی میں نے دوسری روایات میں اصل و مطابقت پائی چار احادیث کے سوا۔

علی بن مدینی نے آپ کی چند کے علاوہ تمام مرویات کو صحاح میں شمار کیا ہے جبکہ ثقات سے ہوں۔

یونس بن عبید کہتے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ روایت حدیث کی بلا واسطہ حضور کی طرف نسبت کرتے ہیں حالانکہ آپ نے حضور کو نہ پایا۔ فرمایا: اے ابن انی، آج تم نے ایسی بات پوچھ لی جو کسی نے اب تک نہ پوچھی، سنو۔ میں نہایت ناگفتہ بہ حالات سے دوچار ہوں۔ جب میں ایسا کہوں تو سمجھ لو میری وہ روایت حضرت علی کے توسط سے ہے۔ لیکن اس دور میں انکا نام لینا جرم سمجھا جاتا ہے۔ ۱۱۰ھ میں وصال ہوا ۸۸۱ سال عمر پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول:- ۳۱۴

جلد دوم: ۱۱۱۳-۱۲۸۹-۱۸۱۶-۱۸۶۱-۱۸۸۹۔

جلد سوم: ۲۲۵۲-۲۲۹۹-۲۷۳۸-۲۷۳۹۔

جلد چہارم: ۲۸۵۸-۲۹۰۰-۳۰۰۷-۳۲۱۳۔

## حسین بن علی

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے اور سبط رسول، ریحانہ رسول، سید شباب اہل الجنتہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ پانچ شعبان ۴ھ کو حضرت فاطمہ زہرہ کے شکم پاک سے پیدا ہوئے، آپ حضرت حسن کی ولادت سے پچاس رات بعد حسین کی حاملہ ہوئی تھیں اور امام حسین کی شہادت دسویں محرم۔ ۶۱ھ جمعہ کے دن بعد زوال مقام کربلا میں ہوئی، کربلا عراق میں کوفہ اور حلہ کے درمیان مشہور بستی ہے، آپ کو سنان ابن انس نخعی نے یا شمر ذی الجوشن نے شہید کیا، خولی ابن یزید اصبحی نے آپ کا سر مبارک تدن شریف سے جدا کیا پھر یہی خولی عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ کے پاس پہونچا اور کچھ اشعار پڑھ کر انعام کا طالب ہوا۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے۔

میری رکاب سونے چاندی سے بھردے کو نکلیں نے بڑے بادشاہ زادے کو قتل کیا ہے۔ میں نے اسے تیری خاطر قتل کیا ہے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے اشرف ہے جس کا نسب بہترین ہے۔

حضرت حسین کے ساتھ آپ کے خاندان کے یعنی اولاد بھائی بھتیجے تیس اشخاص شہید ہوئے، آپ شہادت کے وقت ۵۸ سالہ تھے۔ آپ سے حضرت ابو ہریرہ، امام زین العابدین، فاطمہ اور سکیئہ بنت حسین نے احادیث نقل فرمائیں۔ اللہ کی شان کہ ۶۷ھ میں عین عاشورہ کے دن عبد اللہ بن زیاد قتل کیا گیا۔ اسے مالک ابن اشتر نخعی نے قتل کیا اس کا سر مختار کے پاس بھیجا مختار نے حضرت عبد اللہ بن زبیر کے پاس اور عبد اللہ بن زبیر نے امام زین العابدین کے پاس بھیجا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۶۷۳-۱۷۷۶۔

جلد چہارم: ۲۹۳۸-۲۹۴۰-۳۱۰۷-۳۶۰۴۔

## حصین بن وحوح

آپ انصاری اوسی مدنی ہیں، صحابی ہیں، جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۰۲۹-۱۱۷۳

## ام المومنین حفصہ

آپ ام المومنین ہیں حضرت عمر کی صاحبزادی، آپ کی ماں کا نام زینب بنت مطعون ہے، حضور انور سے پہلے حنیس بن حذافہ سہمی کے نکاح میں تھیں، انکے ساتھ ہی ہجرت کی غزوہ بدر کے بعد حنیس فوت ہو گئے، حضرت عمر نے جناب ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ حفصہ سے نکاح کر لو حضرت عثمان سے بھی یہ ہی کہا اسکے بعد حضور انور نے پیغام نکاح دیا۔ چنانچہ ۳ھ میں حضور انور کے نکاح میں آئیں۔ ایک بار حضور انور نے انہیں ایک طلاق دیدی تھی مگر پھر رجوع فرمالیا کیونکہ وحی الہی آئی کہ حفصہ آپ کی زوجہ ہیں، جنت میں بھی وہ بہت نمازی قائم اللیل ہیں، آپ سے جماعت صحابہ اور تابعین نے روایات لیں۔ شعبان ۴۵ھ میں وفات ہوئی مدینہ منورہ قبر انور ہے۔

## حکم

حکم نام کے تہذیب میں سترہ راویان حدیث مذکور ہیں، ان میں سے کوئی ایسے نہ ملے جو عبد الملک سے روایت کرتے ہوں۔ لہذا تعین نہ ہو سکا کہ یہ کون ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۱۱۱۔

## حکم بن ححل

حکم بن ححل ازدی بصری ہیں، حجر عدوی عطا اور ابی بردہ سے روایت کرتے ہیں، ثقہ ہیں۔ امام ترمذی نے آپ سے ایک حدیث روایت کی ہے۔  
حجاج بن دینار، سعید بن ابی عروبہ اور دہلیم بن غزو ان آپ سے روایت کرتے ہیں۔



اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۳۴۵۵

### حکم بن حرث

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:- ۱۲۶۳

### حکم بن حزن

آپ حکم بن حزن کلفی ہیں، کلفہ بن حظلہ بن مالک بن زید مناة بن تمیم کی طرف منسوب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد کے ساتھ حاضر ہوئے، شعیب بن زریق طالقہ نے آپ سے روایت لی ہے اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں خطبہ جمعہ میں مذکور ہے۔  
[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول:- ۹۴۴

### حکم بن عمیر

اس نام کے کوئی راوی نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:- ۲۰۳۹

### حکیم بن حزام

آپ صحابی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں، آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، ایک سو بیس سال عمر شریف پائی۔ ۶۰ سال جاہلیت میں گزارے اور ۶۰ سال اسلام میں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۹۱-۱۰۳

جلد دوم:- ۱۰۸۵-۱۶۶۷

جلد چہارم:- ۳۵۳۶

### حلیس

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم:- ۲۷۶۰

### حماد

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۷۳۸

### مزرہ بن عبد المجید

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۶۵۰

### حنظلہ کاتب

آپ تیمی ہیں آپ کو کاتب کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کاتب وحی رہے ہیں۔ حضور انور کے بعد آپ مکہ معظمہ چلے گئے، وہاں سے مقام قرقر گئے۔ وہاں ہی رہے امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات آپ سے ابو عثمان اور یزید بن شحیر نے احادیث لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۴۸۱



### حویصہ بن مسعود

آپ انصاری اوسی حارثی ہیں۔ کنیت ابوسعہ ہے اور محیصہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ احد، خندق اور تمام مشاہد میں شریک رہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۳۸۴

### خارجہ بن زید

آپ زید بن ثابت کے بیٹے ہیں۔ انصاری مدنی ہیں تابعی ہیں۔ مدینہ منورہ کے سات بڑے فقہاء میں سے ہیں۔ ۱۹۹ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد دوم: ۱۲۸۱-۱۲۸۲

### خالد بن معدان

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

آپ جلیل القدر عظیم الشان تابعی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے ملک شام میں مقام حمص کے رہنے والے ہیں۔ قبیلہ کلاع سے ہیں۔ ستر صحابہ سے ملاقات کی۔ ۱۰۴ھ میں مقام طرس میں آپ کی وفات ہوئی وہیں قبر شریف ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۹۹۳-۹۹۴

### خبیب ہذلی

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۲۹۵۴

### خزیمہ بن ثابت

آپ کی کنیت ابوعمارہ ہے، انصاری ہیں اوسی ہیں، لقب ذوالشہادتین ہے، کیونکہ آپ

اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر تھی، غزوہ بدر وغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کے بعد آپ نے تلوار سونپی اور قتال کرتے رہے حتیٰ کہ قتل ہو گئے، آپ سے بہت صحابہ نے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۳۲۶

جلد چہارم:- ۲۹۹۶-۳۰۲۸

### خزیمہ بن فاتک اسدی

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۱۴۰

### خلیفہ بن عبدہ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۳۸۰

### خولہ بنت قیس

آپ جہنیہ ہیں آپ سے نعمان بن خربوز نے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۲۱۷

جلد دوم:- ۱۶۵۱

جلد چہارم:- ۲۸۹۲

### خیثمہ بن عبد الرحمن

آپ ابوسبرہ جعفی کے پوتے ہیں، ابوسبرہ کا نام یزید بن مالک ہے۔ خیثمہ عظیم الشان

تابعی ہیں، ابوواصل سے پہلے فوت ہوئے۔ حضرت علی اور ابن عمرو غیر ہم سے احادیث سنیں دو لاکھ روپیہ میراث میں ملے سارے علماء پر خرچ کر دیئے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم:۔ ۱۰۳۷

جلد سوم:۔ ۲۴۶۲

## داؤد ابن صالح

آپ داؤد بن صالح بن دینار ہیں تمار ہیں انصاری مدنی ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم:۔ ۱۱۳۲

## داؤدی

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:۔ ۲۲۹۲

## ذکوان

آپ کا نام ذکوان بن جندب یا ابن عمرو ہے۔ چونکہ آپ نے قریش کے شر سے نجات حاصل کی تھی اس لئے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام ناجیہ رکھا۔ یعنی بہت نجات پانے والا۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کا لقب صاحب بدن ہے یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن لے جانے والے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:۔ ۲۸۴۱

## رافع بن خدیج

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، حارثی ہیں انصاری ہیں، غزوہ احد میں آپ کو تیر لگا حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت میں تمہارا گواہ ہوں۔ پھر عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں یہ ہی زخم ہرا ہو گیا اس زخم سے آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ۷۳ھ میں ہوئی ۸۶ سال عمر پائی ایک خلقت نے آپ سے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۸۸۸۔

جلد دوم: ۱۳۴۶-۱۴۰۴-۱۵۰۸-۱۶۶۴-۱۹۳۰-۱۹۳۲

جلد سوم: ۲۵۸۸۔

جلد چہارم: ۲۹۴۹-۳۰۷۲-۳۱۴۲۔

### رافع بن مکیث الرضوانی

جہنی ہیں حدیبیہ میں حاضر ہوئے بہت لوگوں نے آپ سے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۳۴۴ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### ربیع بن ایاس انصاری

آپ ربیع بن ایاس بن عمرو بن عثمان بن امیہ زید انصاری ہیں، بدری صحابی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۲۵۰۔

### ربیع بنت معوذ

آپ مشہور صحابیہ ہیں انصاریہ ہیں، مدینہ منورہ میں اور مصر میں آپ کی احادیث بہت

مشہور ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۳۸۲-۴۶۰۔

جلد دوم: ۱۶۰۷۔

جلد چہارم: ۳۲۴۵-۳۲۶۶۸۔



### ربیعہ بن کعب

آپ کی کنیت ابو فراس ہے، اسلمی ہیں، اصحاب صفہ میں سے تھے، پرانے صحابی ہیں۔ سفر و حضر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں۔ ۶۳ھ میں انتقال ہوا۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:۔ ۲۸۸۰

### ربیعہ بن وقاص

صحابی ہیں اور حضرت انس بن مالک آپ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:۔ ۲۵۵۳

### رفاعہ بن رافع الزرقی

آپ انصاری بدری صحابی ہیں، آپ کے والد نقیب الانصار تھے، آپ کی وفات ۴۱ھ میں ہوئی۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:۔ ۲۷۴۸

### رکانہ بن عبد یزید

آپ رکانہ ابن عبد بن یزید بن ہاشم بن عبد المطلب ہیں۔ آپ قرشی ہیں، حضرت عثمان کے زمانہ تک رہے۔ بعض نے فرمایا کہ ۴۲ھ میں وفات پائی آپ اہل حجاز سے ہیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول:۔ ۹۸۱-۹۸۶-۹۸۹

### رکب مصری

ابن مندہ نے آپ کو صحابہ میں شمار نہیں کیا ہے، ابو عمرو کہتے ہیں یہ کندی ہیں اور ایک حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں البتہ صحابہ کرام میں شمولیت



آپ کی غیر مشہور ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۶۶۱

### رویفیع بن ثابت

آپ کا نام رویفیع بن ثابت انصاری ہے، آپ کو امیر معاویہ نے طرابلس کا حاکم بنایا اور آپ نے افریقہ پر ۴۷ھ میں جہاد کیا اور آپ ۵۶ھ میں مقام رقبہ میں فوت ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۰۲۹

### زرارہ بن ابی اوفی

آپ صحابی ہیں حضرت عثمان کے زمانہ میں آپ کی وفات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد اول: ۹۰۱

### زرارہ بن ابی اوفی تابعی

آپ کی کنیت ابو صاحب ہے، حرشی ہیں بصرہ کے قاضی رہے۔ حضرت ابن عباس وغیرہم سے ملاقات ہے، ایک بار آپ نے یہ آیت پڑھی ”فاذا نقر فی الناقور“ اس پر بے ہوش ہو کر گرے اور فوت ہو گئے آپ کی وفات ۹۳ھ میں ہے۔

### زر بن حبیش

آپ کی کنیت ابو حریم ہے اسدی کوئی ہیں۔ ۱۲۰ سال عمر ہوئی ساٹھ سال جاہلیت میں گزارے اور ساٹھ اسلام میں عراق کے بڑے قاریوں میں سے ہیں۔ حضرت عمر اور ابن مسعود سے ملاقات ہے آپ سے ایک مخلوق نے فیض لیا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۴۴۲

## زہیر بن کیسان

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول:- ۵۱۱

## زیاد بن حارث

آپ صدائی ہیں آپ نے جب حضور سے بیعت کی تو آپ کے سامنے اذان دی آپ کا شمار بصرہ والوں میں ہے۔

جلداول:-

## زیاد بن عبداللہ نخعی

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول:- ۵۱۰

## زیاد بن لبید

آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے انصاری ہیں، زرقی ہیں، تمام غزات میں حضور کے ساتھ رہے، حضور نے حضور موت پر حاکم مقرر کیا۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۳۸۶

## زیاد بن نعیم حضرمی

امام بغوی وغیرہ نے آپ کو صحابہ میں شمار کیا ہے لیکن ابن مندہ کہتے ہیں آپ تابعی ہیں۔ اسی لئے آپ کی روایات مرسل ہوتی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۳۸۶

### زید بن ابی اونی

آپ اسلمی ہیں اور صحابی۔ اور عبداللہ بن ابی اونی کے بھائی، مدینہ میں سکونت تھی بعدہ  
بصرہ میں قیام رہا۔ حدیث مواخات بین الصحابہ بھی آپ سے مروی ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۳۷۸

### زید بن ارقم

آپ مشہور صحابی ہیں۔ انصاری ہیں، خزر جی ہیں۔ کوفہ میں رہے وہاں ہی۔ ۷۷ھ  
میں وفات ہوئی۔ ۸۵ سال عمر ہوئی آپ کی کنیت ابو عمر ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد دوم: ۱۴۸۶-۱۴۸۳۔  
جلد سوم: ۲۱۹۹-۲۳۰۱۔  
جلد چہارم: ۳۲۸۱-۳۳۶۸-۳۶۵۷۔

### زید بن اسلم

آپ تابعی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ بڑے فقیہ و عابد تھے  
آپ کے درس میں چالیس فقہاء بیٹھتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
آپ کے درس پر شرکت فرماتے تھے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۵۸۲-۱۰۰۵-۱۲۶۵

## زید بن ثابت

آپ مشہور صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، علم فرائض کے امام ہیں، زمانہ صدیقی میں قرآن جمع کرنے والوں میں آپ بھی تھے اور زمانہ عثمانی میں قرآن کو مصحفوں میں نقل کرنے والوں میں بھی آپ تھے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول:- ۷۰-۴۹۵-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۸۸۲-۸۸۳۔

جلد سوم:- ۲۱۶۱۔

جلد چہارم:- ۳۰۸۷-۳۱۲۲۔

## زید بن حارث

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلداول:- ۶۰۹۔

## زید بن حارثہ

آپ کی کنیت ابواسامہ ہے، آپ کی ماں سعدہ بنت ثعلبہ ہیں بنی معن قبیلہ سے۔ آپ کی والدہ آپ کو لیکر اپنی قوم کی طرف چلیں آپ پر معن ابن ابی الحریر والوں نے حملہ کر دیا، آپ کو غلام بنا لیا۔ اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی، آپ کو عکاظ بازار میں لائے اور حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی خدیجہ بنت خویلد کے لئے چار سو درہم میں خرید لیا۔ جب حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے آپ کو حضور انور کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ حضور انور نے قبول فرمالیا، اس کے بعد آپ کے والد حارثہ اور چچا کعب آپ کا فدیہ لے کر حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے ہم کو عنایت کر دیا جائے، حضور نے فرمایا: کہ زید کو اختیار ہے چاہیں میرے پاس رہیں چاہیں تمہارے پاس، آپ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے گھر بار ماں باپ قرابت دار آپ پر خدا آپ پر قربان، میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا آپ جیسا محسن اور محبت والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضور انور آپ کو بیت اللہ شریف میں لائے اور فرمایا



کہ اے حاضرین کعبہ گواہ رہو کہ میں نے زید کو اپنا بیٹا بنالیا۔ چنانچہ آپ کو زید ابن محمد کہا جانے لگا۔ پھر جب حضور انور نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آیت کریمہ ”ادعوہم لابائہم“ نازل ہوئی تب آپ کو زید بن حارثہ کہا گیا۔

بعض مؤرخین نے کہا کہ پہلے آپ ہی حضور پر ایمان لائے حضور انور نے پہلے تو اپنی لونڈی ام ایمن سے آپ کا نکاح کیا جن سے اسامہ ابن زید پیدا ہوئے پھر زینب بن جحش سے آپ کا نکاح کیا۔ حضور کے محبوب ترین صحابی ہیں، قرآن مجید میں صرف آپ کا نام آیا ہے اور کسی کا نام نہیں آیا ”فلما قصی زید منها وطراً“ آپ غزوہ موتہ ۸ھ میں شہید ہوئے، اس لشکر کے آپ ہی امیر تھے آپ نے پچپن سال کی عمر شریف پائی غزوہ موتہ جمادی الاولیٰ ۸ھ میں ہی ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول: ۳۹۸

### زید بن جبر

www.ayahazratnetwork.org

آپ طائی جشمی کو فی ہیں۔ ابن عمر، حشف بن مالک، ابو یزید ضعی، ابوالختری سعید بن فیروز وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔ اور آپ سے امام شعبہ، امام ثوری، ابوعوانہ، نے حدیث روایت کی ہے۔

ابن معین نے آپ کو ثقہ کہا ہے، عجل، ابن حبان اور امام نسائی نے بھی انکی توثیق کی ہے اور ابن ابی حاتم نے ثقہ صدوق فرمایا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۴۰۶

### زید بن خارجہ

آپ انصاری خزرجی حارثی ہیں، بعض نے آپ کو بدری صحابی کہا ہے۔ آپ نے انتقال کے بعد کلام فرمایا یہ واقعہ مشہور ہے، کہ غزوہ احد کے دن آپ کو لوگوں نے مردہ پا کر ایک کپڑے سے ڈھاپ دیا تھا، اسکے بعد آپ کی سانس چلتی ہوئی پائی گئی تو صدیق اکبر اور فاروق



اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے گفتگو کی، پھر انتقال ہو گیا۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے  
جلد سوم: ۲۴۹۳

### زید بن خالد جہنی

آپ صحابی ہیں، جہنی ہیں، آپ کی وفات ۷۸ھ میں ہوئی پچاسی سال عمر پائی  
عبدالملک کے زمانہ میں وفات پائی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۴۱۲  
جلد دوم: ۱۴۷۷  
جلد چہارم: ۲۹۸۸-۳۰۳۵

### زید بن علی بن الحسین بن علی

آپ کی کنیت ابوالحسین ہے مدنی ہیں اور امام زین العابدین کے صاحبزادے۔ تبع  
تابعین سے ہیں، اہل کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور ایک جم غفیر آپ کے ساتھ تھا۔  
آپ نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا تھا اور اسی معرکہ میں ۱۲۲ھ میں شہید ہوئے۔  
اپنے والد، اور بھائی امام باقر، ابان بن عثمان اور عروہ بن زبیر سے روایت کرتے  
ہیں۔ آپ سے امام جعفر، امام زہری، امام اعمش اور امام شعبہ جیسے جلیل القدر محدثین نے  
روایت لی ہے، تبع تابعین میں شمار ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۷۳۶  
جلد چہارم: ۳۴۶۶

### زینب بنت ابی رافع

آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ابورافع کی صاحبزادی ہیں۔ آپ

سے جو روایت حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت میں آئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صحابیہ ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۲۹۴۱

### زینب بنت ابی سلمہ

ان کا نام برہ تھا حضور انور نے زینب رکھا، آپ حضور کی سوتیلی بیٹی ہیں یعنی ام المومنین ام سلمہ کی دختر، آپ ملک حبشہ میں پیدا ہوئیں۔ عبداللہ بن رافع کے نکاح میں آئیں اپنے زمانہ کی بڑی فقیہہ عالمہ تھیں واقعہ حرہ کے بعد وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:- ۳۰۰۰

### زینب بنت عبداللہ امراۃ عبداللہ

آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں اور آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا۔ بعض نے والد کا نام معاویہ کہا ہے۔ آپ کو ریطہ اور رائطہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں آپ کے لقب ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۸۱۹

جلد دوم:- ۱۳۳۲

### سائب بن یزید

آپ کی کنیت ابو یزید ہے کندی ہیں، ۲ھ میں پیدا ہوئے، حجتہ الودع میں اپنے والد کے ساتھ شریک ہوئے، اس وقت سات سال کے تھے۔ ۸۰ھ میں وفات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۶۱۱-۸۸۵

جلد دوم:- ۱۶۱۰-۱۷۹۶-۱۸۶۳

جلد سوم: ۲۴۸۹۔

جلد چہارم: ۳۳۰۰۔

### سالم بن ابی الجعد

آپ کے والد کا نام رافع ہے، کنیت ابو جعد ہے، آپ کو فی ہیں تابعین سے، ثقہ ہیں ۹۷ھ میں آپ کی وفات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد چہارم: ۳۴۷۶۔

### سالم بن عبد اللہ

آپ حضرت عبد اللہ بن عمر کے بیٹے ہیں کنیت ابو عمرو ہے۔ قرشی عدوی مدنی ہیں فقہائے مدینہ اور افضل تابعین سے ہیں۔ ۱۰۶ھ میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۵۳۱۔ ۷۷۱۔ ۹۹۹۔

جلد چہارم: ۳۵۴۴۔

### سبرہ بن معبد جہنی

آپ جہنی ہیں مدینہ منورہ میں رہے مصریوں میں آپ کا شمار ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۵۲۹۔

### سراقہ بن مالک

آپ مالک بن جعشم کے بیٹے ہیں مد لہجی کنعانی ہیں۔ اہل مدینہ میں آپ کا شمار ہے

بڑے شاعر تھے۔ ۲۴ھ میں وفات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۵۷۰

## سعد بن ابی وقاص

آپ کی کنیت ابواسحاق ہے آپ کے والد یعنی ابو وقاص کا نام مالک بن وہیب ہے آپ قرشی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں پرانے مومن ہیں، سترہ سال کی عمر میں ایمان لائے آپ تیسرے مومن ہیں اور آپ نے سب سے پہلے کفار پر تیر چلایا، تمام غزوات میں حضور کے ساتھ رہے آپ بڑے مقبول الدعائے آپ کا لقب مستجاب الدعوات تھا، لوگ آپ کی بددعا سے بہت ہی ڈرتے تھے۔ کیونکہ حضور نے آپ کیلئے دعا کی تھی ”اللهم سدد سهمہ واجب دعوتہ“ خدایا سعد کا نشانہ اور دعا کبھی خالی نہ جائے۔ حضور انور نے آپ سے اور حضرت زبیر سے فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ان کے سوا کسی سے نہ فرمایا۔ آپ کی وفات اپنی منزل عقیق میں ہوئی جو مدینہ منورہ سے قریب ہے، لوگ میت شریف مدینہ منورہ لائے مروان بن حکم نے آپ کا جنازہ پڑھایا کہ اس وقت وہی حاکم مدینہ تھا بقیع شریف میں دفن ہوئے۔ ۵۵ھ میں وفات ہے۔ ستر سال سے زیادہ عمر شریف ہوئی عشرہ مبشرہ میں آخری وفات آپ کی ہے۔ آپ کو حضرت عمرو عثمان نے کوفہ کا حاکم بنایا تھا۔ آپ سے ایک خلقت نے احادیث روایت کیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۲۵۸-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۸-۶۸۳۔

جلد دوم:- ۱۲۶۱-۱۳۶۰-۱۵۰۷-۱۶۷۵۔

جلد سوم:- ۲۲۰۰-۲۳۱۸-۲۵۰۸-۲۵۸۲-۲۵۹۳-۲۶۱۲-۲۷۱۹-۲۷۵۷۔

جلد چہارم:- ۲۹۴۸-۲۹۵۷-۳۱۰۴-۳۳۶۳-۳۵۷۴۔

## سعد بن ثابت

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۳۸۵۔



## سعد الجاری

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۴۹۵۔

## سعد بن عبادہ

آپ کی کنیت ابو ثابت ہے انصاری سعدی خزرجی ہیں بارہ نقیبوں میں آپ بھی تھے۔  
انصار کے سردار تھے، انصار کو اس کا اقرار تھا، آپ کی وفات خلافت فاروقی۔ ۱۵ھ میں ہوئی۔ شام  
کے علاقہ میں مقام حوران میں اپنے غسل خانہ میں مردہ پائے گئے۔ لوگوں کو آپ کی موت کا علم  
نہیں ہوا حتیٰ کہ کسی غیبی آواز نے ان کو آپ کی موت کی خبر دی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جنات نے  
قتل کیا، انہوں نے ہی اس شعر سے آپ کے قتل کی خبر دی۔

نحن قتلنا سید الخزرج سعد ابن عبادۃ۔ ورمینا ہ بسہمین فلم تحط فوادہ  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد دوم: ۱۸۷۶-۱۸۰۰-۱۸۹۰۔  
جلد سوم: ۲۷۳۳۔

## سعید بن ابراہیم

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۷۵۶۔

## سعید بن جبیر

نام سعید، والد کا نام جبیر بن ہشام، اسدی والبی ہیں، اکابر تابعین میں شمار ہوتے تھے  
حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر سے شرف تلمذ حاصل تھا۔  
حضرت ابن عباس نے ایک دن فرمایا: حدیث بیان کرو، عرض کیا، آپ کی موجودگی  
میں ہمت نہیں ہوتی، فرمایا: کیا تم پر یہ اللہ کا خاص انعام نہیں کہ میری موجودگی میں بیان کرواگر



صحیح روایت کرو گے تو ٹھیک ورنہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ آپ کے حضور فتویٰ سے گریز کرتے تھے آپ فرماتے ہیں: مجھ سے علم قرآن و تفسیر و قرأت حاصل کیا۔ اکثر ابن عباس ہی سے روایت کرتے ہیں۔

وفاء بن ایاس کہتے ہیں: مجھ سے ایک رمضان میں فرمایا قرآن کریم لو اور سنو، اسکے بعد ایک مجلس میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا، خود فرماتے ہیں: میں نے بیت اللہ شریف میں ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا۔

اسمعیل بن عبد اللہ کا قول ہے:-

حضرت سعید رمضان المبارک میں ہماری امامت فرماتے ایک شب میں عبد اللہ بن مسعود کی قرأت سے ختم فرماتے، دوسری شب میں حضرت زید بن ثابت کی قرأت، اسی طرح دوسری راتیں دوسری قرأتوں میں بسر ہوتیں۔ ہمیشہ آپ کا یہ ہی معمول رہا۔  
نصیف کا قول ہے:-

سعید بن مسیب تابعی ہیں طلاق کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے۔ عطاء جج کے مسائل میں اعلم تھے۔ طاؤس حلال و حرام کے زیادہ جاننے والے تھے اور مجاہد تفسیر میں فائق تھے لیکن سعید بن جبیر ان سب کے جامع۔

عبد الملک بن مروان پر جب عبدالرحمن بن محمد بن اشعث نے خروج کیا تو آپ اس کے ساتھ تھے، جب عبدالرحمن قتل ہوا اور اس کا لشکر شکست خوردہ بھاگ گیا تو آپ بھی مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں اس وقت حاکم خالد بن عبد اللہ قسری تھا، اس نے آپ کو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف ظالم و جابر فرمانروا کے پاس بھیج دیا۔

حجاج سے آپ کا جو مکالمہ ہوا وہ کچھ اس طرح ہے۔

حجاج: آپ کا نام کیا ہے؟

سعید: سعید بن جبیر۔

حجاج: نہیں، بلکہ شقی بن کسیر۔

سعید: میری والدہ تجھ سے میرے نام کے بارے میں زیادہ جانتی تھیں۔

حجاج: تم اور تمہاری ماں دونوں شقی ہو۔

- سعید: غیب کا علم تیرے علاوہ جاننے والا ہے۔
- حجاج: تمہاری دنیا کو میں بھڑکتی آگ میں بدل دوں گا۔
- سعید: اگر میں یہ جانتا تو تیری عبادت کرتا۔
- حجاج: محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔
- سعید: وہ نبی رحمت اور امام ہدی ہیں۔
- حجاج: علی کے بارے میں کیا کہتے ہو جنتی ہیں یا جہنمی۔
- سعید: اگر میں وہاں داخل ہوا ہوتا تو پہچانتا۔
- حجاج: خلفاء کے بارے میں کیا خیال ہے۔
- سعید: میں ان کا وکیل نہیں۔
- حجاج: تمہیں ان میں کون زیادہ پسند ہے۔
- سعید: جو اپنے خالق سے زیادہ راضی ہو۔
- حجاج: ان میں کون ایسا تھا۔
- سعید: اس کا علم اس ذات کو جو ان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔
- اس کے علاوہ بھی گفتگو ہوئی اور آخر میں یوں ہوا۔
- حجاج: اے سعید، تیرے لئے خرابی۔
- سعید: جو جہنم سے دور اور جنت میں داخل ہوا ان کیلئے کوئی خرابی نہیں۔
- حجاج: اے سعید! تم جس طرح قتل ہونا پسند کرو وہ بتاؤ۔
- سعید: جیسے تو چاہے کہ اس کی آخرت میں ویسی ہی سزا تجھے ملے گی۔
- حجاج: کیا آپ معافی چاہتے ہیں۔
- سعید: اگر معافی ہوگی تو اللہ کی جانب سے۔

حجاج نے یہ سن کر کہا لے جاؤ ان کو قتل کرو، جب آپ وہاں سے چلے تو ہنسے، حجاج نے بلا کر وجہ معلوم کی تو فرمایا: اللہ کے مقابل تیری دلیری اور تیرے سلسلہ میں اللہ کے حلم پر ہنسی آئی۔ پھر آپ کو زمین پر لٹایا گیا، آپ نے اس وقت آیت کی تلاوت کی ”انی وجہت الایۃ“ حجاج نے کہا: اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو۔ اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی ”فاینما تولوا فثم وجہ اللہ

”یہ سن کر منہ کے بل لٹایا گیا تو آپ نے ”منہا خلقنا کم الآیۃ“ کی تلاوت فرمائی۔ حجاج نے غضب میں آ کر کہا ذبح کر دو، لہذا آپ کو اسی وقت شہید کر دیا گیا، اس وقت آپ یہ پڑھ رہے تھے ”اما انی اشہد الا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمداً عبدہ ورسولہ“ خذھا منی حتی تلقانی یوم القیامۃ۔

اس وقت آپ نے یہ دعا بھی کی تھی الہی میرے بعد اس کو کسی کے قتل پر مسلط نہ فرمانا۔ آپ کی شہادت مقام واسط میں شعبان ۹۵ھ میں ہوئی، اور حجاج اسی سال رمضان میں مر گیا پھر کسی کو قتل نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس آخری دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ آپ کو واسط ہی میں دفن کیا گیا، آپ کی قبر انور زیارت گاہ خاص عام رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد فرماتے ہیں:-

آپ کی شہادت ایسے زمانہ میں ہوئی کہ روئے زمین پر ہر ایک آپ کے علم کا محتاج تھا۔ آپ کی شہادت پر آپ کے جسم سے خون بہت زیادہ نکلا تو حجاج نے اطبا کو بلا کر وجہ معلوم کی کہ اس سے قبل جو قتل کئے گئے ان کا معاملہ اس کے برخلاف ہے۔

اطبا نے کہا، یہ وقت قتل نہایت مطمئن تھے اور انہیں کوئی خوف حراس نہ تھا اور خون طمانیت قلب کے ساتھ ہوتا ہے، ان سے پہلے لوگ قتل سے خوف زدہ تھے اس لئے ان کا خون خود خشک ہو گیا تھا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۴۴۳

سعید بن حبیب

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۳۱۵

سعید بن ذی خدان

آپ کو فی ہیں، حضرت سہیل بن حنیف علقمہ اور نمران بن سعید سے روایت کرتے ہیں



آپ کے تلامذہ میں ابواسحاق سبیمی ہیں، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں ذکر فرمایا۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۷۴۷

### سعید بن ذی لحوہ

تابعین سے ہیں اور ضعیف شمار ہوتے ہیں حدیث میں ارسال کرتے ہیں بعض  
حضرات نے صحابہ میں بھی شمار کیا ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۷۴۸

### سعید بن زید

آپ کی کنیت ابوالاعور ہے قرشی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے پرانے مومن  
ہیں، بدر کے سوا سارے غزوات میں شریک ہوئے۔ بدر میں آپ حضرت طلحہ ابن عبد اللہ کے  
ساتھ ابوسفیان کے قافلہ کی تلاش پر مامور تھے، اس لئے منصور انور نے آپ کو بدر کی غنیمت سے  
حصہ دیا۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب آپ کی بیوی تھیں جن کے ذریعہ حضرت عمر کو  
ایمان ملا آپ مقام عقیق میں فوت ہوئے مدینہ منورہ لا کر بقیع میں دفن کئے گئے۔ ستر سال سے  
زیادہ عمر پائی۔ ۵۱ھ میں وفات ہوئی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۷۱۷۔

جلد دوم: ۱۲۳۲۔

جلد سوم: ۲۲۶۱۔

جلد چہارم: ۳۲۶۵۔

### سعید بن فیروز

آپ ابن ابی عمران ہیں اور کنیت ابوالنختری ہے۔ طائی کوئی ہیں۔ اپنے والد، ابن  
عباس، ابن عمر اور ابوسعید وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ ثبت ہیں۔ فضلاء کوفہ سے ہیں

۸۳ھ میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۴۰۰

### سعید بن مسیب

آپ کی کنیت ابو محمد ہے قرشی مخزومی مدنی ہیں، خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے، حدیث فقہ عبادت تقویٰ کے جامع تھے، صحابہ کرام سے ملاقات ہے چالیس حج کئے۔ ۹۳ھ میں مدینہ شریف میں وفات پائی۔

فقہائے مدینہ سے ہیں اور تابعین میں اعلیٰ مقام کے حامل۔ بعض اوقات امیر المومنین فاروق اعظم کے خطبہ سننے کا شرف بھی حاصل ہے۔

حضرت عثمان، زید بن ثابت، ام المومنین عائشہ، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں

امام احمد نے فرمایا: سعید بن مسیب کی مرسل روایات صحیح ہیں۔

زہری، مکحول، اور قتادہ نے کہا: ہم نے آپ سے بڑا عالم نہ دیکھا،

علی مدینی نے کہا: میں تابعین میں آپ سے زیادہ وسیع علم والا نہیں جانتا۔ میرے نزدیک بزرگ ترین تابعی ہیں۔ تجارت کرتے اور حکام کے عطیات کبھی قبول نہ فرماتے۔

واقعہ حرہ کے موقع پر مسلم بن عتبہ اور اسکے لشکر نے جب مدینہ منورہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو کچھ لوگ شہر چھوڑ گئے اور بعض گھروں میں روپوش تھے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا جن میں حضرات انصار، مہاجرین اور تابعین کے علاوہ سترہ سو باشندگان تھے، سات سو حفاظ قرآن اور ستانوے سرداران قریش کو ذبح کر ڈالا گیا۔

حضرت سعید نے اس وقت مسجد نبوی میں پناہ لی اور ایک مجنوں و دیوانہ کی شکل میں یہاں محفوظ رہے۔ ان ایام میں مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی لیکن روضہ انور سے برابر اوقات نماز میں اذان کی آواز آتی، فرماتے ہیں، میرے سوا کوئی نماز پڑھنے والا نہ تھا۔

امام احمد نے آپ کو افضل التابعین فرمایا۔ حضور اور آپ کے خلفائے ثلاثہ کے شرعی فیصلوں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، چالیس سال تک ہر نماز کیلئے اذان سے پہلے مسجد میں موجود



ہوتے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۰۵۳-۱۱۲۳-۱۱۲۷-۱۱۸۰-۱۲۱۰-۱۲۷۹-۱۲۹۵-۱۷۷۱۔

۱۷۷۲-۱۷۷۵۔

جلد سوم: ۲۰۹۴-۲۶۹۰۔

جلد چہارم: ۳۰۷۶-۳۳۸۱۔

### سعدی بنت عوف

آپ طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ سے ہیں انکی زوجہ ہیں اور یحییٰ بن طلحہ کی والدہ۔ آپ کے والد عوف بن خارجہ بن سنان ہیں۔

آپ سے آپ کے بیٹے یحییٰ، زفر بن عقیل اور محمد بن عمران بن طلحہ نے روایت کی ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد چہارم: ۳۰۲۶۔

### سفیان بن حکم

یہ سفیان بن حکم یا حکم بن سفیان ہیں، انکے سلسلہ میں کثیر اختلاف ہے، تہذیب میں دس اقوال اس سلسلہ میں منقول ہیں۔ امام ابو زرہ رازی نے آپ کو صحابہ میں شامل مانا ہے اور امام بخاری وغیرہ نے نقل فرمایا کہ آپ صحابی نہیں ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۳۹۶۔

### سفیان ثوری

نام سفیان، کنیت ابو عبد اللہ، والد کا نام سعید بن سرور ہے، ثوری قبیلہ مضر سے تعلق ہے۔ فقہائے کوفہ سے ہیں، اپنے والد، اسود بن قیس، زیاد بن علاقہ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے روایت کرنے والوں میں ابن مبارک، یحییٰ قطان ابن وہب، کعب، فریابی، ابو نعیم، محمد بن کثیر، احمد بن یونس وغیرہ مشہور محدثین ہیں۔  
 شعبہ، یحییٰ بن معین اور ایک جماعت کا قول ہے کہ آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔  
 ابن مبارک فرماتے ہیں: میں نے گیارہ سو مشائخ سے حدیث لی ان سب میں سفیان ثوری افضل تھے۔

امام شعبہ نے فرمایا: سفیان مجھ سے زیادہ حافظ ہیں۔  
 امام احمد نے فرمایا: میرے نزدیک ان پر کسی کو تقدم حاصل نہیں۔  
 امام اوزاعی نے فرمایا:  
 امت کسی پر جمع ہوئی تو وہ سفیان ہیں۔  
 امام قطان نے کہا: سفیان کو امام مالک پر فوقیت حاصل ہے آپ کی ولادت ۹۷ھ اور وصال ۱۶۱ھ میں ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)  
 جلد دوم: ۱۰۵۲-۱۱۹۲

### سلمہ بن اکوع

آپ کی کنیت ابو مسلم ہے اسلمی ہیں مدنی ہیں بیعتہ الرضوان میں شامل ہوئے بڑے بہادر تھے پیدل کی لڑائی میں مشہور تھے ۸۰ برس عمر پائی مدینہ منورہ میں ۷۴ھ میں وفات ہوئی  
 اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۷۱۱

جلد دوم: ۱۹۲۱

جلد چہارم: ۲۹۳۰-۴۹۲۹

### سلمہ بنت جابر

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
 اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۵۲۴

## سلمان بن عامر

آپ صیغی ہیں اہل بصرہ میں آپ کا شمار ہے بہت کم عمر صحابی ہیں یعنی لڑکپن میں حضور کی زیارت کی ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۳۳۳

## سلمان فارسی

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے آپ حضور انور کے آزاد کردہ ہیں آپ فارسی النسل رام ہرمز کی اولاد سے ہیں۔ فارس کے شہر اصفہان کے علاقہ کے رہنے والے تھے۔ تلاش دین میں دیس چھوڑ پر دیسی بنے، پہلے عیسائی بنے ان کی کتابیں پڑھیں، بہت مصیبتیں جھیلیں حتیٰ کہ انہیں بعض عربوں نے غلام بنالیا اور یہود کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ان کے آقا نے انہیں مکاتب کر دیا۔ حضور انور نے ان کا مال کتابت ادا کر کے آزاد کر دیا۔ آپ دس سے زیادہ آقاؤں کے پاس پہونچے حتیٰ کہ حضور انور تک پہونچ گئے۔ حضور انور نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں جنت ان کی مشاق ہے بڑی عمر پائی ڈھائی سو بلکہ ساڑھے تین سو سال عمر ہوئی۔ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا اور صدقہ کیا۔ مدائن میں وفات ہوئی وہاں ہی مزار ہے ۵۳ھ میں وفات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۳۷۸-۴۰۸

جلد دوم: ۱۰۹۴-۱۱۸۱-۱۳۲۹-۱۳۸۷-۱۴۱۸-۱۴۵۳-۱۵۱۴-۱۸۸۴

جلد سوم: ۲۰۵۵-۲۲۹۷-۲۴۷۵-۲۵۰۷

جلد چہارم: ۲۸۱۳-۲۹۲۶-۳۱۹۳-۳۳۲۶-۳۶۲۲

## سلیمان بن ابی حمہ

آپ ابن غانم بن عامر بن عبد اللہ بن عوتج بن کعب قرشی عدوی ہیں۔ صحابی ہیں اور

آپ کی والدہ کا نام شفاء ہے۔

فضلاء مدینہ میں آپ کا شمار ہے اور نہایت صالح شخص ہیں، فاروق اعظم نے آپ کو سوق، کا حاکم بنایا تھا، لوگ قیام رمضان میں آپ کی اقتداء میں جمع ہو کر تراویح ادا کرتے تھے۔ بعض نے آپ کو صف اول کے تابعین میں شمار کیا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۶۵۶

### سماک بن حرب

آپ ذہلی ہیں کنیت ابو مغیرہ ہے آپ سے دو سو احادیث مروی ہیں، ابن مبارک نے آپ کو ضعیف کہا۔ ۱۲۳ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۷۵۸

### سماک ہانی

www.alhazratnetwork.org

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم:- ۲۲۹۸

### سمیرہ بن جندب

آپ انصار کے حلیف تھے حافظ قرآن تھے۔ حضور انور سے بڑے فیوض پائے، ۵۹ھ میں بصرہ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۸۵-۸۶-۱۵۶

جلد دوم:- ۱۶۷۶-۱۸۳۸-۱۸۸۵

جلد سوم:- ۲۰۴۰-۲۲۰۱-۲۷۱۳-۲۷۲۳

جلد چہارم:- ۱۳۰۳-۳۱۳۱-۳۳۱۳



## سہل بن حنیف

آپ صحابی اور انصاری ہیں، بدر اور تمام غزوات میں حاضر ہوئے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ جانے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساتھ ڈٹے رہے، پھر حضرت علی کے ساتھ رہے اور حضرت نے آپکو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر فرما دیا۔ پھر فارس پر۔ ۳۸ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔ آپکی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی اور وہیں دفن کئے گئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۱۶۲۔

جلد چہارم:- ۲۹۶۶۔

## سہل بن ابی حمزہ

آپ کا نام عبد اللہ ہے، بعض نے عامر بتایا۔ بعض نے سہل بن عبد اللہ بن ابی حمزہ کہا ہے۔ کنیت ابو عبد الرحمن ہے، خزرجی انصاری ہیں اور صحابی۔ بدر کے تمام غزوات میں شریک رہے حضرت امیر معاویہ کے عہد میں وفات پائی۔

www.alahabnews.com

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۴۷۱۔

## سہل بن سعد ساعدی

آپ انصاری ہیں، خزرجی ہیں، قبیلہ بنی ساعدہ سے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پندرہ برس کے تھے۔ مدینہ میں آخری صحابی آپ ہی ہیں یعنی سب سے آخر میں آپ ہی کا انتقال ہوا۔

آپ مشہور صحابی ہیں۔ آپکا نام حرمین تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سہل رکھا۔ کنیت ابو العباس اور آپکی وفات مدینہ منورہ میں۔ ۹۱ھ کو ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۲۴۷-۲۴۸-۶۸۹-۸۴۸۔

جلد دوم:- ۱۰۴۰-۱۳۵۳-۱۴۲۶-۱۴۳۵-۱۸۰۱۔



جلد سوم: ۲۵۳۴

جلد چہارم: ۳۱۶۲-۳۲۷۳-۳۳۷۰-۳۳۹۱

## سوید بن غفلہ

آپ ابن عوجہ بن عامر بن وداع بن معاویہ بن الحارث جعفی ہیں، ابوہبشہ کنیت ہے۔  
 اصح یہ ہے کہ آپ صحابی نہیں، کیونکہ آپ مدینہ شریف اس وقت پہونچے جب حضور سید عالم  
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور صحابہ کرام دفن سے فارغ ہو کر لوٹ رہے تھے۔  
 خلفائے اربعہ، ابن مسعود، بلال وغیرہم سے روایت کرتے ہیں، اور آپ سے امام  
 شعبی اور امام نخعی وغیرہما نے روایت لی ہیں۔

نہایت متواضع اور زاہد تھے، ایک سو تیس سال کی عمر طویل پائی، اور ایک سو بیس سال کی  
 عمر میں بھی کھڑے ہو کر اپنی قوم کی امامت فرماتے تھے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۷۶۷ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## سوید بن قیس

آپ کی کنیت ابو صفوان ہے آپ کا شمار اہل کوفہ میں ہے۔  
 اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۱۹۵۴

## سیاہ بن عاصم

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
 اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۴۰۶

## شداد بن اوس

آپ کی کنیت ابو یعلیٰ ہے انصاری ہیں، حضرت حسان بن ثابت کے چچا زاد بھائی

ہیں آخر میں بیت المقدس میں رہے، ۷۶ سال عمر پائی۔ ۸۵ھ میں وفات پائی۔ شام میں مزار ہے۔ عبادہ بن صامت اور ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ انہیں علم و حکمت عطا ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۷۱۸

جلد سوم:- ۲۱۲۲-۲۷۹۴

### شرح بن عبیدہ

آپ حضری ہیں چند صحابہ سے روایات لیتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۴۴۷

جلد دوم:- ۱۷۹۲

جلد چہارم:- ۳۵۵۵

### شرح حبیل بن سعد

www.alhazratnetwork.org

آپ کی کنیت ابوسعید ہے مخطمی مدنی ہیں اور انصار کے آزاد کردہ۔

زید بن ثابت، البورافع، ابو ہریرہ، ابوسعید وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

مغازی و اہل بدر کے حالات و کوائف کے عالم تھے، ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا،

بعض نے ضعیف بھی کہا۔ ابن معین آپ کو ثقہ مانتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۲۹۵۸

### شعیب بن جریر

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۷۳۳

## شقیق ابوالجحد عاء

آپکے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۱۹۷۔

## شیبہ بن عتبہ

آپ کا نام شیبہ بن عتبہ ہے۔ کنیت ابو ہاشم، ہند بنت عتبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ کے ماموں ہیں کیونکہ ہند امیر معاویہ کی والدہ ہیں۔ آپ فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ شام میں قیام رہا خلافت عثمانی میں آپ کی وفات ہوئی۔ بڑے عالم فقیہ و صالح تھے۔ آپ سے حضرت ابو ہریرہ وغیرہ صحابہ نے احادیث کی روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۴۰۴۔

## صالح بن کیسان

آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور مدنی ہیں۔ عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن زبیر سے ملاقات ہے، ابن معین نے ان دونوں سے روایت کرنا بھی بیان کیا ہے۔ سلیمان بن ابی خثیمہ، سالم بن عبد اللہ، اعرج، عروہ اور نافع وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۸۱۳۔

جلد سوم: ۲۰۴۴۔

## صالح مولی التوأمہ

آپ صالح بن نبھان ہیں، توأمہ بنت امیہ بن خلف مدینی کے آزاد کردہ ہیں۔

ابو درداء، ام المومنین، ابو ہریرہ، اور ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔

ابن معین نے آپ کو ثقہ اور حجت کہا ہے، بہت سے محدثین نے آپ کو قوی نہیں مانا۔  
۱۲۵ ہجری میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۱۰۴

### صعب بن جثامہ

آپ لیسوی ہیں ودان اور ابواء میں قیام پذیر رہے تھے۔ خلافت صدیقی میں وفات ہے  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۲۹۶۱

### صعصعہ بن صوحان

آپ کی کنیت ابو عمر اور عبدی کوفی تابعی ہیں۔ بعض حضرات نے ابو طلحہ اور ابو عکرمہ بھی  
کنیت بیان کی ہے، حضرت عثمان غنی، مولیٰ علی، ابن عباس، وغیرہم سے روایت کرتے ہیں  
جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور ایک حصہ فوج کے امیر تھے۔  
آپ سے ابو اسحاق سبعمی، ابن بربدہ، امام شعیب اور مالک بن عمیر وغیرہم روایت کرتے ہیں  
۔ ثقہ ہیں البتہ قلیل الحدیث ہیں۔ خلافت معاویہ کے عہد میں مقام کوفہ وفات پائی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے  
جلد دوم: ۱۸۱۵

### صفوان بن امیہ

آپ امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں۔ نجی قرشی ہیں، فتح مکہ کے دن بھاگ گئے تھے، عمیر  
ابن وہب نے آپ کیلئے امان حاصل کی حضور انور نے امن دیدی، عمیر آپ کو تلاش کر کے  
لائے آپ حضور انور کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ عمیر نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھے  
اس شرط امان دی ہے کہ میں دو ماہ تک سفر میں رہوں، حضور انور نے امان عطا فرمائی آپ حنین  
اور طائف میں شریک ہوئے حضور انور نے آپ کو غنیمت سے بہت مال عطا فرمایا آپ ہجرت  
کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے آپ کی بیوی آپ سے ایک ماہ پہلے ایمان لائیں صفوان کے



ایمان لانے پر حضور نے آپ کا نکاح قائم رکھا۔ حضرت صفوان نے مکہ معظمہ میں ۴۲ھ میں وفات پائی آپ غزوہ طائف میں ایمان لائے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۲۴۹-۱۶۶۲

### صفوان بن سلیم

آپ جلیل القدر تابعی ہیں، بڑے عالم زاہد تھے۔ چالیس سال زمین سے اپنی پیٹھ نہ لگائی، زیادتی سجد کی وجہ سے پیشانی میں گڑھا پڑ گیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے آزاد کردہ تھے بیٹھ کر جان دی۔ آپ کی ولادت ۶۰ھ میں ہوئی اور وفات ۱۳۲ھ ہجری میں۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جعفر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ملاقات ہے اور ان حضرات سے روایت اور بہت سے تابعین سے روایت احادیث کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۵۴۴

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد دوم: ۱۴۸۰

### صفوان بن عسال

آپ مرادی ہیں کوفہ میں قیام رہا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۰۳۲

### صلہ بن زفر

آپ کی کنیت ابو العلاء ہے عسّی کوفی ہیں اور تابعی۔

عمار بن یاسر، حذیفہ بن الیمان، ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والے آپ سے زیادہ عمر والے بھی ہیں، جیسے حضرت ابو وائل، اور ان کے علاوہ ربیع بن خراش، مستورد بن احنف، ابواسحاق سبعی، ایوب سختیانی آپ سے روایت کرتے ہیں۔



محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۴۱۱

## ام المومنین صفیہ بنت حی

آپ حی بن اخطب کی بیٹی ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے، پہلے کنانہ ابن ابی حقیق کے نکاح میں تھیں جو جنگ خندق میں مارا گیا۔ یعنی محرم سنہ سات میں آپ قید ہو کر آہیں اور دجیہ کلبی ابن خلیفہ کلبی کے حصہ میں آئیں حضور انور نے سات غلام انہیں دے کر ان سے خرید لیں انہیں آزاد فرما کر خود ان سے نکاح فرمالیا۔ یعنی ام المومنین ہیں۔ ۵۰ھ میں مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔ بقیع میں دفن ہوئیں۔

آپ سے حضرت انس اور عبداللہ ابن عمر وغیرہما نے احادیث روایت کیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۱۶۹ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## ضباعہ بنت الزبیر

آپ حضرت عبدالمطلب کی پوتی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچا زادی ہیں، قرشیہ ہاشمیہ ہیں، مقداد بن عمر کی زوجہ ہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی کریمہ تھیں، عبداللہ جنگ جمل میں ام المومنین کیساتھ تھے اور اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔

آپ سے حضرت ابن عباس، جابر، انس، اور ام المومنین وغیرہم روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۰۳۴

## ضحاک بن قیس

آپ کی کنیت ابوانس ہے اور فہری قرشی صحابی ہیں، فاطمہ بنت قیس آپ کی بہن ہیں بعض نے آپ کی صحابیت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔

حضرت عمر فاروق اعظم، اور حبیب بن مسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ سے حضرت

معاویہ، حسن بھری، سعید بن جبیر اور سماک بن حرب وغیرہم نے روایات لی ہیں۔  
فتح دمشق میں شریک تھے اور پھر یہاں ہی سکونت اختیار کر لی تھی، جنگ صفین میں  
حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ یزید کے بعد دمشق میں حضرت عبداللہ بن الزبیر کے لئے  
بیعت لی اور پھر اپنے لئے، مروان بن حکم سے مرج راہط میں مقابلہ ہوا اور اس میں آپ شہید  
ہوئے۔ یہ ۶۵ھ کا واقعہ ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:۔ ۲۶۱۷

### ضحاک بن مزاحم ہلالی

آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، خراسانی ہیں، ابن عمر، ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید  
خدری، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔  
جویر بن سعید، حکیم بن دینار، عبدالرحمن بن عوف وغیرہم آپ سے روایت کرتے ہیں۔  
ابن معین، ابوزرعہ نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر فرمایا۔ امام  
دارقطنی نے بھی ثقہ کہا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم:۔ ۳۲۲۷

### ضمیرہ

آپ ضمیری ہیں اور صحابی، بعض نے سلمیٰ یا سلمیٰ کہا ہے، انکو حسین بن عبداللہ بن ضمیرہ  
کا دادا بتایا ہے، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ وہ دوسرے ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم:۔ ۳۱۷۵

### طلحہ بن عبید اللہ

آپ کی کنیت ابو محمد ہے قرشی ہیں، عشرہ مبشرہ سے ہیں پرانے مومن ہیں، سواہ بدر کے

تمام غزوات میں شریک ہوئے، بدر کے دن حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سعید بن زید کے ساتھ ابوسفیان کے قافلہ کی تحقیق کے لئے بھیجا تھا، آپ عین بدر کے دن واپس ہوئے، احد کے دن حضور انور کی حفاظت میں اپنے ہاتھ سے چوبیس زخم کھائے، ہاتھ کی انگلی بیکار ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس دن آپ نے ۷۵ زخم کھائے، تلواروں نیزوں وغیرہ کے۔ جمل کے واقعہ میں جمعرات کے دن ۳۰ھ میں ۲۵ جمادی الاخریٰ کو شہید ہوئے۔

۶۴ سال عمر پائی، بصرہ میں دفن ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۸۰۹

جلد دوم:- ۱۴۰۳

جلد چہارم:- ۳۵۴۳-۳۵۴۹

### طلحہ بن معاویہ سلمی

آپ طلحہ بن معاویہ بن جاحم سلمی ہیں۔

www.alahazratnetwork.org

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم:- ۲۳۴۵

### طلق بن علی

آپ کی کنیت ابوعلی ہے۔ حنفی یمانی ہیں طلق بن ثمامہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۲۲۸

### طاؤس بن کیسان

آپ خولانی ہمدانی یمانی ہیں۔ اصل میں فارسی النسل ہیں بڑے عالم و عامل تھے۔

۱۰۵ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد چہارم:- ۲۸۹۵-۳۶۹۷

## طفیل بن سخرہ

آپ طفیل بن عبد اللہ بن سخرہ ہیں، قرشی ہیں، بعض نے ازدی اور اسدی بھی کہا ہے، صحابی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے اخیانی بھائی ہیں، آپ سے امام زہری، ربیع بن خراش، روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۱۷۴

## عائذ بن عمرو مزی

آپ ہلالی اور بصری ہیں، حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ ۶۱ھ میں وصال ہے۔ رجال شیخین سے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۴۲۔  
[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## ام المومنین عائشہ صدیقہ

ام المومنین ابوبکر صدیق کی دختر، آپ کی ماں ام رومان بنت عامر بن عویر ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کا پیغام دیا۔ نبوت کے دسویں سال مکہ معظمہ میں آپ سے نکاح کیا یعنی ہجرت سے تین سال پہلے۔

۲ھ شوال میں مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی، اس وقت آپ کی عمر شریف صرف نو برس تھی۔ ۹ سال حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر شریف ۱۸ سال تھی۔ آپ کے سوا کسی کنواری بیوی سے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ بے مثال عالمہ فقیہہ فصیحہ فاضلہ تھیں۔ حضور انور سے بہت سی احادیث روایت فرمائیں۔

تاریخ عرب پر بڑی خبر تھی۔ اشعار عرب پر بڑی نظر تھی۔ مدینہ منورہ میں ۵۷ھ سترہ رمضان منگل کی رات وفات ہوئی۔ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات میں دفن کیا



جاوے۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں، آپ پر حضرت ابو ہریرہ نے نماز پڑھائی۔ مروان بن حکم کی طرف سے اس وقت ابو ہریرہ مدینہ کے حاکم تھے۔ امیر معاویہ کا زمانہ خلافت تھا۔

صرف آپ کے بستر میں حضور پر وحی آئی۔ حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کو سلام کرتے تھے۔ آپ پر بہتان لگا تو سورہ نور کی قریباً ۱۸ آیتیں آپ کی برأت میں نازل ہوئیں، یعنی حضرت مریم اور حضرت یوسف کو بہتان لگا تو بچے گواہ مگر محبوبہ محبوب رب العالمین کو بہتان لگا تو خود رب تعالیٰ گواہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

یعنی ہے سورہ نور جنکی گواہ ☆ ان کی پور نور صورت پہ لاکھوں سلام

خلاصہ تہذیب میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے دو ہزار دوسو دس احادیث مروی ہیں، جن میں ایک سو چوہتر متفق علیہ ہیں یعنی بخاری و مسلم دونوں کی روایات۔ اور ۵۴ احادیث صرف بخاری کی ہیں، ۶۸ احادیث صرف مسلم کی۔ عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار کا عالم نہ پایا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلداول:- ۵۵ ۹۰ ۹۳ ۱۱۳ ۱۳۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱

۱۸۷ ۱۹۷ ۲۰۲ ۲۹۹ ۳۱۱ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۴۰

۳۴۱ ۳۷۶ ۳۹۳ ۴۰۳ ۴۰۷ ۴۲۶ ۴۲۹ ۴۳۳ ۴۴۶ ۴۴۹

۴۵۴ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۷۵ ۵۱۹ ۵۳۰ ۷۴۰ ۷۸۳ ۷۸۹

۷۹۱ ۸۴۷ ۸۶۹ ۸۹۲ ۸۹۳ ۹۰۳ ۹۰۵ ۹۱۹ ۹۲۱ ۹۲۲

جلد دوم:- ۱۰۳۲ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۳۳ ۱۱۳۹ ۱۱۴۱ ۱۱۵۵ ۱۱۵۹

۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۸ ۱۲۴۰ ۱۲۴۶ ۱۲۵۵ ۱۲۸۶

۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۳۳۶ ۱۳۶۵ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۴۱۰ ۱۴۲۷ ۱۴۴۹ ۱۴۶۷

۱۴۶۹ ۱۵۳۴ ۱۵۳۹ ۱۵۶۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۳ ۱۵۹۲ ۱۵۹۸ ۱۶۱۳ ۱۶۰۴

۱۶۰۶ ۱۶۰۸ ۱۶۱۶ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۴۹ ۱۶۶۰ ۱۶۹۲ ۱۷۰۸

۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۸۱۲ ۱۸۵۹ ۱۹۰۰ ۱۹۱۳ ۱۹۱۷

جلد سوم:- ۱۹۷۶ ۱۹۹۱ ۲۰۴۶ ۲۰۷۴ ۲۰۷۸ ۲۰۸۲ ۲۱۲۵ ۲۱۳۰



۲۱۵۵-۲۱۵۸-۲۱۶۶-۲۱۶۸-۲۱۶۹-۲۱۸۴-۲۱۸۶-۲۱۹۲-۲۲۰۵-۲۲۱۷  
 ۲۲۲۶-۲۲۳۹-۲۲۷۴-۲۲۷۵-۲۳۰۲-۳۲۰۳-۲۳۰۹-۲۳۴۷-۲۳۵۱-۲۳۸۸  
 ۲۴۰۰-۲۴۴۰-۲۴۷۰-۲۵۰۱-۲۵۱۲-۲۵۳۳-۲۵۵۹-۲۵۶۲-۲۵۷۰-۲۵۸۶  
 ۲۵۹۲-۲۶۱۵-۲۶۴۰-۲۷۲۵-۲۷۵۵-۲۷۷۸-۲۷۹۹-۲۸۰۷-۲۸۲۴  
 جلد چہارم:- ۲۸۷۰-۲۸۸۳-۲۹۰۶-۲۹۳۱-۲۹۹۸-۳۰۱۷-۳۰۲۲  
 ۳۰۸۶-۳۲۷۱-۳۳۷۵-۳۳۸۸-۳۳۹۴-۳۴۱۶-۳۴۱۷-۳۴۴۴-۳۴۹۱-۳۵۱۹  
 ۳۵۲۹-۳۶۵۹

### عائشہ بنت سعد

آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کی صاحبزادی ہیں اور صحابیہ ہیں، بعض نے اس نام سے دو کا ذکر کیا ہے، ایک عائشہ صغریٰ، دوسرے عائشہ کبریٰ، اول الذکر تابعیہ ہیں اور ان سے امام مالک کی ملاقات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
 جلد اول:- ۳۱۶

### عاصم احول

آپ عاصم بن سلیمان احول ہیں، کنیت ابو عبد الرحمن ہے بصری ہیں، اور بنو تمیم کے آزاد کردہ، بعض نے حضرت عثمان کا آزاد کردہ بتایا ہے۔

حضرت انس، عبد اللہ بن سر جس وغیرہما سے روایت کرتے ہیں، تابعی ہیں، امام احمد نے آپ کو ثقہ فرمایا، ابن معین، ابن مدینی، نے ثبت وثقہ کہا ہے۔ دوسرے محدثین نے بھی آپ کی توثیق کی ہے، ۱۴۲ھ میں وفات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
 جلد چہارم:- ۲۹۵۶

### عاصم عدوی

آپ عاصم بن عبد اللہ بنو عاصم بن عمر بن الخطاب عدوی مدنی ہیں، اپنے والد، ابن عمر

سالم اور عبدالرحمن بن زید، جابر بن عبد اللہ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔  
 امام مالک، امام شعبہ، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ شریک وغیرہم سے روایت کرتے  
 ہیں، تابعی ہیں، امام عجل نے لابی اس بہ کہا ہے، اور اکثر نے ضعیف قرار دیا ہے۔  
 اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
 جلد دوم: ۱۳۴۳

### عامر شعی

آپ کا نام عامر بن شریل ہے کوئی ہیں خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے۔ پانچو صحابہ  
 کرام سے ملاقات ہوئی۔ ۸۲ سال عمر پائی۔ ۱۰۴ھ میں وفات پائی۔  
 اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
 جلد اول: ۳۱۷

جلد دوم: ۱۱۰-۱۸۵-۱۷۹۵-۲۰۰۱۔

جلد سوم: ۲۰۸۳۔ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد چہارم: ۲۸۵۱-۳۵۰۷-۳۵۰۸۔

### عامر بن سعد

آپ زہری قریشی ہیں۔ ۱۰۴ھ میں وفات پائی۔  
 اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
 جلد دوم: ۱۶۱۱

### عامر بن عبد اللہ

آپ ابن عبد اللہ قشیری زاہد بصری ہیں، جو عامر بن عبد قیس سے بھی مشہور ہیں سادات  
 تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔

سلمان فارسی، عمر فاروق اعظم سے روایت کرتے ہیں اور آپ حسن بصری اور بن  
 سیرین نے روایت لی ہے، امیر معاویہ کے زمانہ میں ملک شام میں وفات پائی۔  
 اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۷۶۸

## عامر بن وائلہ

آپ کا نام عامر بن وائلہ ہے، لیشی کنعانی ہیں۔ کنیت ابو طفیل، آٹھ سال حضور کی خدمت میں رہے۔ ۱۰۲ھ میں مکہ معظمہ میں وصال فرمایا۔ روئے زمین پر آپ ہی آخری صحابی ہیں جنکی وفات پر صحابیت ختم ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۵۶۵۔

جلد چہارم:- ۳۳۳۳-۳۳۷۴۔

## عبادہ بن صامت

آپ کی کنیت ابو الولید ہے۔ انصاری سالمی ہیں، نقیب انصار تھے۔ عقبہ کی دونوں بیعتوں میں شریک ہوئے۔ پھر بدر وغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر نے آپ کو شام کا قاضی اور معلم بنا کر بھیجا۔ آپ حبش میں قیام رہے۔ پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے، رملہ یا بیت المقدس میں ۳۴ھ میں وفات پائی۔ مشہور صحابی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۴۳-۲۳۰-۲۳۴-۵۹۳-۶۳۹-۶۴۷-۹۰۹۔

جلد دوم:- ۱۲۳۷، ۱۴۰۲، ۱۶۳۲، ۱۶۸۲، ۱۸۴۱، ۱۸۴۹۔

جلد سوم:- ۲۱۴۹-۲۴۸۹-۲۵۳۱-۲۷۹۳۔

جلد چہارم:- ۲۸۳۴-۲۹۰۹-۳۲۰۲-۳۲۲۸-۳۳۰۶-۳۳۶۸-۳۵۷۷۔

۳۶۴۶-۳۶۶۰۔

## عباس بن عبدالمطلب

آپ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور انور سے دو سال بڑے۔ آپ کی والدہ عمرو بن قاسط قبیلہ کی ایک بیوی تھیں۔ آپ پہلی وہ بیوی ہیں جنہوں نے کعبہ معظمہ کو ریشمی اور اعلیٰ درجہ کے غلاف پہنائے۔ کیونکہ ایک بار حضرت عباس گم ہو گئے تھے تو انہوں نے

نظر مانی تھی کہ خدایا میرا بچہ مل جاوے تو میں کعبہ کو بہترین غلاف پہناؤں گی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عباس خادم کعبہ حجاج کو زم زم دینے والے اور کعبہ کو آباد کرنے والے تھے۔ جو طواف کعبہ کرنے آتا اس سے آپ تقویٰ و طہارت کا عہد لیتے تھے، آپ نے اپنی وفات کے وقت ستر غلام آزاد کئے۔ واقعہ فیل سے پہلے پیدا ہوئے۔ ۸۸ سال عمر پائی ۱۲ رجب جمعہ کے دن ۳۲ ہجری وفات ہوئی۔ بقیع میں دفن ہوئے۔ آپ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔

مگر اپنا ایمان ظاہر نہ کرتے تھے۔ بدر میں کفار جبراً آپ کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضور انور نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی عباس کو قتل نہ کرے۔ وہ مجبوراً لائے گئے ہیں اسی غزوہ میں ابولیسر یعنی کعب بن عمر نے آپ کو قید کر کیا تھا۔ آپ فدیہ دیکر چھوٹے مکہ معظمہ واپس گئے مکہ پھر مہاجر ہو کر مدینہ منورہ آئے۔ مترجم کہتا ہے کہ فتح مکہ کے لئے حضور مکہ جا رہے تھے، اور حضرت عباس مکہ سے مدینہ آ رہے تھے کہ راہ میں ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا کہ عباس خاتم المہاجرین یعنی آخری مہاجر ہیں جنت البقیع میں آپ کی قبر ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد دوم:- ۱۸۴۲۔

جلد چہارم:- ۲۸۰۹-۲۹۰۵-۳۰۳۲-۳۱۷۷۔

### عباس بن مرداس

آپ کی کنیت ابوالثیم ہے قبیلہ بنی سلیم سے ہیں بڑے پایہ کے شاعر تھے۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے ایمان لائے مولف القلوب سے تھے۔ فتح مکہ میں آپ پانچو ساتھیوں کے ساتھ شریک تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ نے اپنے اور آپ کے ساتھیوں نے اپنے پر شراب حرام کر لی تھی اور آپ اپنے قوم کے سردار تھے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم:- ۲۵۴۰۔

### عبداللہ بن ابی اوفی

آپ عبداللہ بن اشجہ بنی انصاری ہیں۔ اشجہ کی کنیت ابو اوفی ہے، باپ بیٹے



دونوں صحابی ہیں، غزوہ احد حدیبیہ اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوفہ میں قیام رہا۔ حضرت اسش یعنی ابو اوفی کی وفات مدینہ منورہ میں ۵۴ھ کو ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم:- ۱۲۱۹-۱۲۷۳-۱۵۶۶۔

جلد سوم:- ۲۲۴۳-۲۵۶۵۔

### عبداللہ بن ابی بکر صدیق

آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، حضور انور کے ساتھ طائف میں شریک ہوئے۔ وہاں ہی آپ کو ابو مجن ثقفی نے تیر مارا۔ شوال ۱۱ھ میں شروع خلافت صدیقی میں وفات پائی پرانے مومنین میں سے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۰۸۱۔

### عبداللہ بن اعور مازنی عشی

آپ صحابی ہیں اور مشہور شاعر، آپ کے والد کا نام اعور یا عبداللہ ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۲۸۹۷۔

### عبداللہ بن ابی سلمہ

آپ عبداللہ بن ابی سلمہ ماجنون تیمی ہیں، آل منکدر کے آزاد کردہ غلام ہیں، والد کا نام

میمون یادینار ہے۔

ابن عمر، مسعود بن حکم زرقی، مسعود بن مخرمہ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔ تابعی

ہیں۔

امام نسائی نے ثقہ کہا اور ابن حبان نے ثقات میں شمار فرمایا۔



اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد چہارم: ۲۸۵۳-۳۳۳۹

### عبداللہ بن ام مکتوم

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۸۲۵  
جلد چہارم: ۳۳۳۹

### عبداللہ بن بسر

آپ سلمیٰ مازنی ہیں۔ آپ کے ماں باپ بھائی بہن عطیہ بن صمد سب صحابی ہیں  
شام میں رہے مقام حمص میں وفات پائی۔ آپ کی موت اچانک وضو کرتے ہوئے ہوئی، آپ  
شام کے آخری صحابی ہیں کہ آپ کی وفات سے شام صحابہ سے خالی ہو گیا۔ بعض نے فرمایا کہ  
وہاں کے آخری صحابی ابوامامہ ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۷۱  
جلد دوم: ۱۳۸۲-۱۴۳۶  
جلد سوم: ۲۶۰۵

### عبداللہ بن بشیر

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۶۰۵

### عبداللہ بن جراد

آپ عقیلی ہیں اور صحابی، اہل طائف سے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۲۹۸

جلد سوم:- ۲۱۵۷

### عبداللہ بن جعفر طیار

آپ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب قرشی ہاشمی علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں، حبشہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ بہت سخی خوش خلق اور حلیم تھے۔ آپ کا لقب بحر الجود تھا۔ والدہ کا نام اسماء بنت عمیس ہے۔ ۹۰ سال عمر پائی۔ ۸۰ھ میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۱۳۳

جلد دوم:- ۱۷۷۲

جلد سوم:- ۲۲۲۲

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد چہارم:- ۲۸۹۰

### عبداللہ بن حارث

آپ صحابی ہیں جنگ بدر میں حاضر ہوئے پھر عہد فاروقی میں جہاد مصر میں شرکت کی۔ وہاں ہی وفات پائی۔ ۵۵ھ میں وفات ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحارث ہے نام عبداللہ، سبھی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۱۷۸

### عبداللہ بن حنظلہ

آپ انصاری ہیں آپ کے والد حنظلہ غسیل المائکہ ہیں کہ انہیں فرشتوں نے غسل میت دیا عبداللہ حضور انور کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ سات سال کے تھے، آپ انصار کے سردار تھے، یزید کے مقابل اہل مدینہ نے

آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اسی وجہ سے فتنہ حرہ میں آپ قتل کئے گئے۔ ۶۲ سال میں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۴۳۰

جلد دوم:- ۱۶۹۰

جلد چہارم:- ۳۱۵۷

### عبداللہ بن خطب

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۸۲۳

### عبداللہ بن دینار

آپ عدوی مدنی ہیں کنیت ابو عبد الرحمن ہے بن عمر کے آزاد کردہ ہیں، ابن عمر، انس

سلیمان بن یسار، نافع، مولیٰ عمر سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے امام مالک امام شعبہ صفوان بن سلیم، عبدالعزیز بن مسلم، قسملی وغیرہم

اور محدثین روایت کرتے ہیں، محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۵۸۵

### عبداللہ بن زیاد

غالباً یہ ابو مریم اسدی کوفی ہیں، اور ثقہ تابعی، حضرت بن عمر، عمار بن یاسر، بن مسعود

امام حسن وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

ابن حبان نے انکو ثقات میں شمار کیا اور امام دارقطنی نے انکو ثقہ بتایا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۷۳۷

## عبداللہ بن زید بن عاصم

آپ انصاری مزنی ہیں، بدر میں شریک نہ ہوئے احد میں شریک ہوئے۔ آپ نے حضرت وحشی کے ساتھ مسلمانہ کذاب کو قتل کیا۔ آپ ۶۳ سال کی میں حرہ کے واقعہ میں شہید ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۴۱۰

جلد دوم:- ۲۰۳۵

جلد چہارم:- ۲۸۷۱-۲۹۸۶

## عبداللہ بن الزبیر

آپ کی کنیت ابوبکر ہے اسدی قرشی ہیں، حضور انور نے آپ کے نانا جناب صدیق اکبر کی کنیت ابوبکر عطا فرمائی اور انہیں کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ مہاجرین میں پہلے بچے ہیں جو سنہ ۱ھ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ ابوبکر صدیق نے کان میں اذان دی، مقام قبائیں بی بی اسماء بنت صدیق اکبر کے شکم شریف سے پیدا ہوئے۔ آپ انہیں حضور کی خدمت میں لائیں حضور انور نے چھوہارے سے تھنیک کی، آپ کے پیٹ میں سب سے پہلے حضور کا لعاب پہونچا پھر حضور نے آپ کو دعائے برکت دی۔ آپ کے سر اور چہرہ پر کوئی بال نہ تھا۔ آپ بہت زیادہ نماز روزے کے عادی تھے۔ آپ کے والد حضرت زبیر والدہ بنت صدیق نانا خود صدیق دادی بی بی صفیہ، حضور کی پھوپھی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ آٹھ سال کی عمر میں حضور سے بیعت کی۔ آپ کو حجاج ابن یوسف نے مکہ معظمہ میں ۱۷ جمادی الاخریٰ ۷۳ھ منگل کے دن صولی دے کر ہلاک کیا۔ ۶۴ھ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی گئی۔ حجاز یمن، عراق، خراسان وغیرہ کے مسلمانوں نے آپ کی بیعت کر لی تھی شام کے مسلمانوں کے علاوہ۔ آپ نے اپنی خلافت میں آٹھ حج لوگوں کو کرائے۔

جلد سوم:- ۲۷۹۶

جلد چہارم:- ۳۳۶۲



### عبداللہ بن زید بن عبد ربہ

آپ زید بن عبد ربہ کے فرزند ہیں انصاری خزرجی ہیں، بیعت عقبہ، بدر اور بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، اسلامی اذان آپ نے ہی خواب میں دیکھی تھی۔ ۶۴ سال عمر پائی۔ مدینہ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۴۵۶-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۴

جلد چہارم: ۲۹۱۶

### عبداللہ بن سائب

آپ قرشی مخزومی ہیں، اہل مکہ نے قرأت ان سے سیکھی۔ آپ شہادت ابن زبیر سے پہلے مکہ معظمہ میں فوت ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد اول: ۹۵۵

### عبداللہ بن سبع

ان کو ابن سبع بھی کہا جاتا ہے، حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، تابعی ہیں، ابن حبان نے انکو ثقات میں شمار کیا ہے۔ ان سے سالم بن ابی الجعد ہی روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۸۱۴

### عبداللہ بن سر جس

آپ مزنی بصری ہیں، آپ کی احادیث بصرہ والوں میں بہت مشہور ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۳۱۲

جلد چہارم: ۳۱۵۰



## عبداللہ بن سلام

آپ کی کنیت ابو یوسف ہے، اسرائیلی ہیں، یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، بنی عوف ابن خزرج کے حلیف تھے۔ بنی اسرائیل کے چوٹی کے عالم تھے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونی کی شہادت دی۔ آپ کے بیٹوں میں یوسف اور محمد وغیرہم نے آپ سے روایات لیں۔ مدینہ منورہ میں ۴۳ھ میں وفات پائی۔ آپ کے فضائل بہت ہیں۔ آپ کے متعلق بہت آیات ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۶۹۸-۱۷۰۳

جلد سوم: ۲۶۵۶

جلد چہارم: ۲۹۲۷-۲۹۷۱

## عبداللہ بن سلامہ

آپ عبداللہ بن سلامہ بن عمیر اسی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد سراپا میں آپ کو امیر بنا کر بھیجا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۶۹۸-۱۷۰۳

جلد سوم: ۲۶۵۶

جلد چہارم: ۲۹۲۷-۲۹۷۱

## عبداللہ بن شخیر

آپ عامری ہیں، قبیلہ بنی عامر کے وفد میں آپ بھی تھے جو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول: ۱۸

## عبداللہ بن شفیق

آپ مشہور تابعی ہیں۔ بہت صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے۔ ۱۰۸ھ میں وفات پائی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۵۴۱-۵۴۲-۸۸۴-۸۸۷

## عبداللہ بن عباس

آپ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کی والدہ لبابہ بنت حارث ہیں یعنی ام المومنین میمونہ کی بہن۔ ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضور کی وفات کے وقت آپ کی عمر ۱۳ سال تھی۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو علم و حکمت کی دعائیں دیں۔ آپ کا لقب حبر الامت ہے یعنی مسلمانوں کے بڑے عالم۔ آپ نہایت حسین بڑے عالم فقیہ مجتہد تھے۔ حضرت عمر نے آپ کو اپنا مشیر خاص بنایا تھا۔ ہر بات میں جلیل القدر صحابہ کے ساتھ آپ سے بھی مشورہ کرتے تھے۔ آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔

۶۸ھ میں طائف میں وفات پائی۔ ۱۷ سال عمر ہوئی۔ آپ سے ایک خلق نے روایت

لی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۱۰-۳۴-۴۰-۶۴-۸۲-۱۰۵-۱۱۱-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۹-۱۴۹-

۱۷۰-۱۷۴-۱۷۷-۱۷۸-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۲۷۲-۲۸۴-۲۹۱-۲۹۶-۳۱۳-۳۱۸-۳۳۱-

۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۸-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-

۳۵۷-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-

۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-

۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-

۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-

۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-

جلد دوم: ۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-





## عبداللہ بن عمر

آپ قرشی عدوی ہیں، حضرت فاروق اعظم کے فرزند، اپنے والد کے ساتھ مکہ معظمہ میں ایمان لائے، بدر میں لڑکپن کیوجہ سے شریک نہ ہوئے۔ حق یہ ہے کہ غزوہ احد میں بھی حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکے بچہ ہونے کی وجہ سے شریک نہیں کیا۔ غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں آپ ۱۴ سالہ تھے۔ بڑے عابد زاهد محتاط اور متبع سنت تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں: کہ ہم لوگوں کو دنیا نے اپنی طرف راغب کر لیا سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے۔ حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں: کہ میں نے ابن عمر جیسا متقی، ابن عباس جیسا عالم نہ دیکھا۔ حضرت نافع کہتے ہیں: کہ ابن عمر نے ایک ہزار غلام آزاد کئے۔ ظہور نبوت سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے۔ اور ۷۳ھ میں حضرت ابن زبیر کے قتل کے تین مہینہ بعد وفات پائی۔ آپ کی وصیت تو یہ تھی کہ آپ کو حل میں دفن کیا جائے۔ مگر حجاج نے ایسا نہ کرنے دیا تو آپ ذی طوی میں دفن کئے گئے، مہاجرین کے قبرستان میں۔ آپ کی وفات کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حجاج نے جمعہ کا خطبہ دراز کیا آپ نے فرمایا: کہ سورج تیرا انتظار نہ کرے گا، وہ بولا: کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اندھا کر دوں، آپ نے فرمایا: کہ اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو ایک احمق شخص ہے جو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ نیز آپ حج میں حجاج سے پہلے ہی عرفہ میں حضور کی قیام گاہ میں جا کر ٹھہر جاتے تھے۔ ان وجوہ سے حجاج آپ سے کینہ رکھنے لگا۔ اس نے ایک شخص سے کہا اس نے راہ چلتے ہوئے زہر یلا نیزہ آپ کے تلوے میں چھو دیا۔ اس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ ۸۴ یا ۸۶ سال آپ کی عمر ہوئی۔ آپ کے فضائل بہت ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۲۷-۲۸-۲۸-۵۸-۵۹-۶۶-۷۵-۱۱۴-۱۱۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۴۲۔

۱۵۴-۱۵۹-۱۷۲-۱۸۳-۱۹۶-۲۰۳-۲۱۱-۲۷۸-۲۸۶-۳۰۴-۳۰۹-۳۲۱-۳۳۸

۳۵۹-۳۸۶-۴۰۵-۴۱۱-۴۷۲-۴۷۲-۵۱۵-۵۲۶-۵۲۹-۵۴۸-۵۴۹-۵۸۷

۵۸۸-۵۸۹-۵۹۹-۶۲۷-۶۲۹-۶۳۵-۷۰۳-۷۰۵-۷۰۶-۷۳۹-۷۴۱-۷۵۱

۷۷۶-۷۷۸-۸۰۲-۸۰۴-۸۴۲-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۷-۸۶۴-۸۷۲-۸۹۷

۹۱۰-۹۴۰-۹۴۲-۹۴۹-۹۵۲-۹۷۷-۹۹۸

جلد دوم:- ۱۰۳۰-۱۰۳۴-۱۰۴۲-۱۰۶۸-۱۰۸۲-۱۱۰۷-۱۱۳۵-۱۱۴۷-۱۱۷۲

۱۲۰۴-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۵-۱۲۷۹-۱۲۹۲-۱۳۱۳-۱۳۶۸-۱۳۷۴-۱۳۸۱-۱۳۹۶

۱۴۰۵-۱۴۱۲-۱۴۳۲-۱۴۳۷-۱۴۳۹-۱۴۵۸-۱۴۶۶-۱۴۷۱-۱۴۸۸-۱۴۹۱-۱۴۹۳

۱۴۹۵-۱۴۹۸-۱۵۰۰-۱۵۰۹-۱۵۲۸-۱۵۹۹-۱۶۰۲-۱۶۱۸-۱۶۳۶-۱۶۳۷-۱۶۳۸

۱۶۳۹-۱۶۴۰-۱۶۵۰-۱۶۵۹-۱۷۱۷-۱۷۱۸-۱۷۲۳-۱۷۵۲-۱۷۵۴-۱۷۶۱

۱۸۰۶-۱۸۳۵-۱۸۴۷-۱۸۵۰-۱۸۷۸-۱۸۸۸-۱۸۹۸-۱۹۰۶

جلد سوم:- ۱۹۶۵-۱۹۷۰-۱۹۷۱-۱۹۸۳-۱۹۸۷-۱۹۸۹-۱۹۹۳-۲۰۱۶

۲۰۱۸-۲۰۲۲-۲۰۲۵-۲۰۳۰-۲۰۳۳-۲۰۶۱-۲۱۱۱-۲۱۱۹-۲۱۲۴-۲۱۵۶-۲۲۳۰

۲۲۴۲-۲۲۴۷-۲۲۶۰-۲۲۶۲-۲۲۶۷-۲۲۸۸-۲۳۱۵-۲۳۱۷-۲۳۳۰-۲۳۳۸

۲۳۵۳-۲۳۵۶-۲۳۵۷-۲۳۵۹-۲۳۷۰-۲۳۷۵-۲۳۷۶-۲۳۷۷-۲۳۸۰

۲۳۸۴-۲۳۸۵-۲۳۹۲-۲۳۹۳-۲۳۹۹-۲۴۰۳-۲۴۳۷-۲۴۴۱-۲۴۴۳-۲۴۷۸

۲۵۰۵-۲۵۲۳-۲۵۲۸-۲۵۳۵-۲۵۴۵-۲۵۴۶-۲۵۴۷-۲۵۸۱-۲۶۵۴-۲۶۵۱

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۲۷۰۰-۲۷۰۳-۲۷۴۵-۲۷۷۲-۲۷۸۷

جلد چہارم:- ۲۸۸۷-۲۹۷۸-۳۰۱۰-۳۰۱۴-۳۰۵۱-۳۰۵۲-۳۰۵۵-۳۰۵۸

۳۰۶۱-۳۰۶۲-۳۰۶۵-۳۰۶۶-۳۰۷۱-۳۰۸۲-۳۰۸۳-۳۰۸۴-۳۰۹۲-۳۰۹۴

۳۰۹۶-۳۰۹۸-۳۱۰۱-۳۱۰۲-۳۱۰۸-۳۱۲۹-۳۱۳۰-۳۱۴۹-۳۱۵۵-۳۱۵۸-۳۱۶۹

۳۲۲۳-۳۵۳۱-۳۵۶۶-۳۵۶۷-۳۵۶۹-۳۵۷۲-۳۵۸۴-۳۶۴۸-۳۶۵۸-۳۶۶۱

### عبداللہ بن عمرو

آپ سہمی قرشی ہیں آپ اپنے والد سے پہلے ایمان لائے۔ آپ کے والد آپ سے تیرہ سال بڑے تھے۔ آپ بڑے عالم حافظ تھے۔ آپ نے حضور انور سے احادیث لکھنے کی اجازت حاصل کی۔ آپ کی وفات میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ کی وفات ۶۳ھ حرہ کے واقعہ میں ہوئی یا ۳۷ھ یا ۶۷ھ میں مکہ معظمہ میں یا ۵۵ھ میں، طائف میں، یا ۶۵ھ میں مصر میں یعلیٰ بن عطا اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت بن عمرو کے لئے سرمہ تیار رکھتیں تھیں تا کہ لگا کر سونیں۔ مگر آپ چراغ گل کر دیتے تھے۔ پھر خوف خدا سے روپا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ



آپ کی آنکھیں ابھر گئیں تھیں یونی خراب ہو گئیں تھیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۱۳۱-۳۸۵-۲۲۶-۴۸۸-۴۹۰-۵۵۷-۷۷۹-۸۰۸۔

۸۹۹-۹۲۹۔

جلد دوم:- ۱۱۴۰-۱۱۴۵-۱۱۷۰-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۲۳۸-۱۳۳۵-۱۴۲۱-۱۵۹۷۔

۱۶۶۸-۱۶۷۱-۱۶۷۱-۱۷۳۲۔

جلد سوم:- ۱۹۶۷-۲۰۹۷-۲۱۲۱-۲۱۴۶-۲۳۲۸-۲۵۲۰-۲۵۲۷-۲۵۹۱-۲۵۹۵۔

۲۶۲۲-۲۶۳۳-۲۶۵۰-۲۵۶۴-۲۵۶۵۔

جلد چہارم:- ۲۹۰۳-۲۹۳۵-۳۰۳۳-۳۰۳۴-۳۱۱۶-۳۱۳۳-۳۱۴۳-۳۲۲۲۔

۳۲۳۷-۳۲۶۴-۳۲۳۹۔

### عبداللہ بن عمیر

آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور ام الفضل کے آزاد کردہ ہیں، بعض حضرات ابن عباس کا

آزاد کردہ کیا ہے۔ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، قلیل الحدیث تھے۔ ابن حبان نے آپ کو

ثقات میں شمار کیا ہے، ۱۱۰ھ میں وصال ہے۔ دیگر محدثین بھی آپ کو ثقہ مانتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم:- ۲۷۷۴۔

### عبداللہ بن ابی فروہ

مدنی ہیں اور تابعی، ثقہ ہیں، ابن معین نے ثقات میں شمار کیا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۱۳۷۔

### عبداللہ بن محمد بن عقیل

آپ کی کنیت ابو محمد ہے، مدنی ہاشمی ہیں، اور حضرت علی کے نواسے۔ اپنے والد مامون

محمد بن حنفیہ، بن عمر، انس، جابر اور ربیع بنت معوذ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، ابو جریح وغیرہم آپ سے روایت کرتے ہیں، آپ کے سلسلہ میں ائمہ حدیث کا اختلاف ہے، لیکن امام احمد اور اسحاق بن راہویہ آپ کی مرویات کو قائل احتجاج مانتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۰۶۰

### عبداللہ بن ابی مطرف

آپ ازدی ہیں اور صحابی، اہل شام سے ہیں، بعض نے آپ کو عبداللہ بن شیخیر کا پوتا کہا

ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۲۰۷

### عبداللہ بن مسعود

آپ کی کنیت ابو عبدالرحمن ہے، ہذلی میں پرانے مومنین سے ہیں، حضرت عمر فاروق سے کچھ پہلے ایمان لائے۔ بلکہ آپ اسلام کے چھٹے صاحب ہیں۔ کہ آپ سے پہلے صرف پانچ آدمی ایمان لائے تھے۔ حضور انور کے خاص خادم تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحب اسرار تھے۔ سفر میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعلین مسواک وضو کا برتن آپ کے پاس رہتا تھا۔ بدر وغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ کہ میں اپنی امت کے لئے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو بن مسعود پسند کرتے ہیں۔ اخلاق عادات طور طریقہ میں حضور سے بہت ملتے جلتے تھے۔

دبے دراز قد گندمی رنگ تھے۔ حضرت عمر کے زمانہ بلکہ شروع خلافت عثمانیہ میں بھی کوفہ کے حاکم رہے۔ پھر بیت المال کے محافظ پھر مدینہ منورہ آ گئے وہاں ہی ۳۲ھ میں وفات ہوئی۔ ۶۰ سال سے زیادہ عمر پائی۔ خلفائے راشدین نے آپ سے احادیث لیں۔ مترجم کہتا ہے کہ صحابہ میں بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی اتباع کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۲۴-۸۱-۹۷-۱۱۰-۱۲۵-۱۵۱-۱۷۱-۲۱۰-۲۹۰-۳۶۵۔

۵۴۶-۵۴۵-۵۲۲-۵۲۱-۵۲۰-۵۱۴-۵۱۳-۵۰۷-۴۸۲-۲۷۱-۲۴۵-۴۱۷-۴۱۶  
۷۶۳-۷۶۲-۷۵۲-۷۳۵-۷۰۸-۷۰۷-۶۵۰-۶۴۳-۵۹۴-۵۶۰-۵۵۹-۵۴۷  
۷۶۳-۷۶۲-۷۵۲-۷۳۵-۷۰۸-۷۰۷-۶۵۰-۶۴۳-۵۹۴-۵۶۰-۵۵۹-۵۴۷

جلد دوم: ۱۰۱۸-۱۰۳۹-۱۰۴۴-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۶۷-۱۱۱۶-۱۱۵۴-۱۱۵۶۔

۱۱۵۷-۱۲۰۷-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۵-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۷۷-۱۳۹۸-۱۴۶۴-۱۴۶۵  
۱۴۹۰-۱۶۱۵-۱۶۱۷-۱۶۴۶-۱۶۸۵-۱۶۸۹-۱۶۹۹-۱۷۰۲-۱۷۱۴-۱۸۲۸۔

جلد سوم: ۱۹۵۶-۱۹۹۷-۲۰۶۰-۲۰۶۲-۲۱۰۱۴-۲۱۳۹-۲۱۴۴-۲۱۴۸-۲۲۳۶۔

۲۲۷۲-۲۲۹۵-۲۳۰۵-۲۳۱۰-۲۳۲۹-۲۳۹۵-۲۳۹۶-۲۳۹۷-۲۴۰۲-۲۴۰۵  
۲۷۱۲-۲۷۰۴-۲۶۵۳-۲۶۲۶-۲۵۶۷-۲۴۹۰-۲۴۴۷-۲۴۳۵-۲۴۲۳-۲۴۱۸-۲۴۰۸  
۲۸۲۰-۲۷۹۱-۲۷۴۴-۲۷۴۰-۲۷۳۷-۲۷۳۰-۲۷۲۷  
۳۲۲۵-۳۲۱۰-۳۱۷۱-۳۱۵۱-۳۱۰۶-۳۰۹۰-۳۰۸۱-۳۰۶۸-۲۹۷۰-۲۸۶۴-۲۸۴۹  
۳۳۱۰-۳۲۸۴۔

جلد چہارم: ۳۳۱۴-۳۳۵۶-۳۴۴۷-۳۴۷۵-۳۴۸۷-۳۵۲۷-۳۵۳۷۔

۳۵۴۵-۳۵۸۳-۳۵۸۵-۳۵۹۱-۳۵۹۸-۳۶۱۹-۳۶۳۴-۳۶۳۷-۳۶۴۴۔

## عبداللہ بن مغفل

آپ مزنی ہیں، بیعت رضوان میں شریک ہوئے اولاً مدینہ منورہ میں رہے۔ پھر بصرہ میں، آپ ان گیارہ میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر نے بصرہ بھیجا تھا۔ لوگوں کو علم فقہ سکھانے کے لئے تشریف لائے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ نے بصرہ میں ۶۰ھ میں وفات پائی۔ آپ سے خواجہ حسن بصری وغیرہم نے روایات لیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ بصرہ میں آپ سے افضل کوئی نہ ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۷۲۶۔

جلد سوم: ۲۱۸۰-۲۵۰۶۔

جلد چہارم: ۳۱۰۶-۳۵۳۸-۳۶۳۰-۳۶۳۹۔

### عبداللہ بن ملکہ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۱۹۷۶۔

### عبداللہ بن ہوزنی

آپ عبداللہ بن یحییٰ حمیری ہوزنی حمصی مخضرمی شامی ہیں، کنیت ابو عامر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم، ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، بلال، مقدم بن معدی کرب اور امیر معاویہ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔  
[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

آپ سے آپ کے بیٹے ابو الیمان عامر، راشد بن سعد، اسعد بن عبداللہ حرازی وغیرہم روایت کرتے ہیں۔

امام عجل نے آپ کو ثقہ کہا اور کبار تابعین میں شمار کیا۔ دیگر محدثین بھی آپ کو ثقہ کہتے ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۱۰۴۔

### عبداللہ بن یزید خطمی

آپ خطمی انصاری ہیں۔ صلح حدیبیہ میں ۷ سالہ تھے۔ وہاں شریک ہوئے حضرت ابن زبیر کے زمانہ میں کوفہ کے گورنر رہے، اسی زمانہ میں کوفہ میں وفات پائی۔ امام شعبی آپ کے کاتب یعنی میر منشی تھے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔



جلد دوم:- ۱۷۶۹

جلد سوم:- ۲۵۵۸

## عبداللہ بن یسار

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۱۷۵

## عبد بن عمر

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۴۵۰

## عبدالاعلیٰ بن عدی

www.alahazratnetwork.org

آپ بہرانی حمصی تابعی ہیں، مرسلہ روایت کرتے ہیں، اور ثوبان، ابن عمرو سے

روایت کرتے ہیں، ثقہ ہیں، ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے، ۱۰۴ھ میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۹۹۱

## عبدالحمید بن زید

آپ حضرت زید بن خطاب کے صاحبزادے ہیں اور فاروق اعظم کے بھتیجے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۳۴۷

## عبدالحمید بن عبدالرحمن

آپ زید بن خطاب کے پوتے ہیں اور مدنی ہیں، کنیت ابو عمر ہے، حضرت عمر بن عبد

العزيز نے آپ کو کوفہ کا عامل بنایا تھا۔ تابعی ہیں، اور اپنے والد، ابن عباس اور مقسم وغیرہم سے

روایت کرتے ہیں، ام المؤمنین حضرت حفصہ سے کبھی ارسال کرتے ہیں، امام نسائی وغیرہ محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول:- ۸۶۰

### عبدالحمید بن محمود

آپ بصری تابعی ہیں، حضرت انس، اور ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، امام نسائی نے ثقہ کہا، اور دارقطنی آپ کو قابل احتجاج کہتے ہیں، ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول:- ۹۷۵

### عبدال مطلب بن ربیعہ

آپ ربیعہ بن حارث بن عبدال مطلب بن ہاشم کے بیٹے ہیں، قرشی ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہے۔ پھر دمشق چلے گئے۔ وہاں ہی ۶۱ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم:- ۱۳۱۸-۱۳۳۰

### عبدالملک بن الطیفل جزری

آپ تابعی ہیں اور زیادہ معروف نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ سے روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۷۷۸

### عبید اللہ بن ابی جعفر

آپ مصری ہیں، کنیت ابو بکر ہے، تابعی فقیہ ہیں، اور بنو کنانہ یا بنو امیہ کے آزاد کردہ ہیں، اپنے زمانہ کے فقیہ تھے۔

آپ حمزہ بن عبد اللہ بن عمر، ابوالاسود، محمد بن عبد الرحمن وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ سے ابن اسحاق، عمر بن حارث، سعید بن ابی ایوب، لیث، حیوۃ بن شریح، وغیرہم نے روایت لی ہے۔ ۶۰ھ میں ولادت اور ۱۳۲ھ میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول:- ۲۷۷

### عبید اللہ بن حفص

آپ عبید اللہ بن حفص بن انس ہیں، حضرت جابر سے حدیث روایت کرتے ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول:- ۷۵۵

### عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر

آپ کی کنیت ابو بکر ہے اہل مدینہ سے ہیں اپنے بھائی سالم سے پہلے فوت ہوئے۔  
ثقفہ ہیں۔ امام زہری کے شیخ ہیں۔  
www.alahazratnetwork.org  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول:- ۸۳۔

### عبید بن مرزوق

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم:- ۱۲۰۸

### عبید بن حصین

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۲۹۳۹

## عبید بن صخر

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۰۱۱

## عبیدہ ملکی

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۷۲۱

## عبدالرحمن بن ابی بکر

آپ صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں، عائشہ صدیقہ کے سگے بھائی کہ دونوں کی ماں

ام رومان ہیں۔ حدیبیہ کے سال اسلام لائے۔ ابوبکر صدیق کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔

۵۳ھ میں وفات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۲۲۳

## عبدالرحمن بن ابی رافع

آپ تابعی ثقہ ہیں، ابن معین نے آپ کو صالح الحدیث کہا، عبداللہ بن جعفر اور اپنی

پھوپھی سلمیٰ اور چچا کے واسطے سے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۶۵۹

## عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ

آپ کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، ثقہ تابعی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے



جب چھ سال باقی رہے تو آپ پیدا ہوئے۔ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ۸۳ھ میں بصرہ کی نہر میں ڈوب کر آپ کی وفات ہوئی۔ بیس صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ہے جن میں حضرت عثمان و علی و ابوطالب انصاری، اور ابوذر داء ہیں۔ آپ سے بہت لوگوں نے روایات لیں۔ آپ کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ ابن ابی لیلیٰ کنیت تھی۔ کوفہ کے قاضی تھے بڑے فقیہ تھے۔ جب فقہاء ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں تو یہی مراد ہوتے ہیں۔ ۴۸ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۶۰۳

جلد دوم: ۱۰۵۳-۱۱۹۳-۱۷۹۰

### عبدالرحمن بن سمرہ

آپ قرشی ہیں، فتح مکہ کے دن ایمان لائے، پھر حضور انور کے ساتھ رہے، آپ کا شمار اہل بصرہ سے ہے، ۵۱ھ میں وہاں ہی وفات پائی۔ ایک خلقت نے آپ سے روایات لیں۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد سوم: ۲۲۹۴-۲۳۷۱

### عبدالرحمن بن شبل

آپ کا نام عبدالرحمن بن شبل بن عمر بن زید ہے۔ انصاری ہیں اوسی ہیں، بلکہ انصار کے نقیب رہے ہیں۔ حمص میں قیام رہا، امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۱۴۴

### عبدالرحمن بن عبداللہ بن سابط

آپ کے نسب میں اختلاف ہے، بعض عبدالرحمن بن سابط کہتے ہیں۔ بعض عبدالرحمن بن عبداللہ بن سابط بن ابی حمیصہ بن عمر بن اہیب بن خزائمہ بن جمع الحی مکی تابعی بتاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرسل روایت کرتے ہیں، اور حضرت عمر

فاروق اعظم، سعد بن ابی وقاص، عباس بن عبد المطلب اور معاذ بن جبل وغیرہم سے روایت کرتے ہیں، ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں، ۱۱۸ھ میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۹۰۶

### عبدالرحمن بن عثمان

آپ تمیمی قرشی ہیں، طلحہ بن عبد اللہ کے بھتیجے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۷۵۳

### عبدالرحمن بن علقمہ

آپ کی صحابیت میں اختلاف ہے، وفد ثقیف کے ہدیہ کی حدیث آپ سے مروی ہے اور بعض نے اسکا راوی عبدالرحمن بن ابی عقیل ثقفی کو بتایا ہے، آپ عبد اللہ بن مسعود سے بھی روایت کرتے ہیں۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم:- ۲۲۳۱

### عبدالرحمن بن عوف

آپ کی کنیت ابو محمد ہے، زہری قرشی ہیں اور عشرہ مبشرہ سے، حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، دو ہجرتوں والے ہیں، حضور کے ساتھ سارے غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں حضور کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ غزوہ تبوک میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے فجر کی ایک رکعت نماز پڑھی۔ غزوہ احد میں بیس سے زیادہ زخم کھائے، پاؤں میں زخم کی وجہ سے لنگ ہو گیا تھا۔ واقعہ فیل کے دس سال بعد پیدا ہوئے اور ۳۲ھ میں وفات ہوئی، ۷۲ سال عمر پائی بقیع میں دفن ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۶۹۳

جلد دوم: ۱۲۵۹-۱۹۳۵

جلد سوم: ۲۷۳۶-

## عبدالرحمن بن غنم

آپ اشعری شامی ہیں، آپ نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں پائے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایمان تولائے مگر زیارت نہ کر سکے۔ جب حضور نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تب آپ انکے ساتھ رہے۔ اور پھر انکی وفات ہو گئی۔ شام کے مشہور فقیہ تھے۔ حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہے۔ ۷۸ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۲۶۲-۱۲۶۳

جلد سوم: ۲۷۹۲-

جلد چہارم: ۲۸۲۵-

## عبدالرحمن بن معاویہ مرادی

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۱۴۱-

## عبدالرحمن بن ہرمز

آپ عبدالرحمن اعرج مدنی تابعی ہیں، اور ربیعہ بن حارث کے آزاد کردہ۔ کنیت ابو داؤد ہے، حضرت ابو ہریرہ، ابوسعید خدری، ابن عباس، محمد بن مسلم، امیر معاویہ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے صالح بن کیسان، ابو الزبیر، یحییٰ بن سعید، امام زہری، موسیٰ بن عقبہ، ابو الزناد، عبد اللہ بن ذکوان، اور ابن اسحاق وغیرہم کثیر محدثین روایت کرتے ہیں۔ ثقہ کثیر الحدیث ہیں، اسکندریہ میں ۱۱۷ھ کو وصال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

## جلداول-۵۵۵

## عبدالرحمن بن یزید

آپ انصاری مدنی ہیں، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے، مگر ملاقات نہ ہوئی۔ ۹۸ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول-۵۱۸-۵۱۹

## عبدالرحمن نخعی

آپ عبدالرحمن بن اسود بن یزید بن قیس نخعی تابعی ہیں، کنیت ابو حفص ہے، فقیہ ہیں، اپنے والد اور والد کے چچا علقمہ بن قیس، ام المومنین، انس، ابن الزبیر وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے ابواسحاق سبیعی، ابواسحق شیبانی، مالک بن مغول، عاصم بن کلیب، اعمش،

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

نے روایت لی ہیں۔

آپ کی ثقاہت کے محدثین معترف ہیں، اور ابن خراش نے تو خيار الناس سے بتایا۔

۹۹ھ میں وصال ہوا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں، ام المومنین کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب بچے تھے۔ لہذا آپ سے سماعت حاصل نہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول: ۵۱۲

## عبدالواحد بن معاویہ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۱۲۰



## عتبہ بن عبداسلمی

بعض نے فرمایا کہ انہیں کا نام عتبہ بن منذر ہے، بعض نے کہا کہ یہ دو حضرات ہیں ان کا نام عتلمہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عتبہ رکھا۔ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، ۹۴ سال عمر پائی۔ ۸۷ھ میں حمص میں وفات ہوئی۔ واقعہ کہتے ہیں کہ آپ شام کے آخری صحابی ہیں جن کی وفات سے شام صحابہ سے خالی ہو گیا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم:- ۱۰۲۳-۱۶۱۴

جلد سوم:- ۲۷۴۷

## عتبہ بن غزوآن

آپ مازنی ہیں پرانے مومن ہیں، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مدینہ منورہ کی طرف۔ بدر وغیرہ غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ ساتویں مسلمان ہیں۔ حضرت عمرؓ نے آپ کو بصرہ کا حاکم بنایا۔ پھر آپ حضرت عمرؓ کے پاس آئے تو اپنے وہاں ہی واپس فرما دیا، راستے میں انتقال ہوا۔ ۵۷ سال عمر پائی۔ ۱۵ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۲۸۹

جلد چہارم:- ۳۵۹۰

## عتبہ بن فرقہ

آپ ابن یربوع بن حبیب بن مالک بن اسعد بن رفاعہ سلمیٰ ہیں، کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ غزوہ خیبر میں شریک تھے۔ اور مال غنیمت کی تقسیم میں آپ کو بھی حصہ ملا تھا۔

دور فاروقی میں موصل فتح کیا۔ آخر میں کوفہ مسکن بنا لیا تھا، اور یہاں ہی وصال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۷۴۶

## عثمان بن ابی طلحہ

آپ عبدری، قرشی، حمی ہیں۔ ۴۲ھ میں مکہ معظمہ میں وفات پائی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۷۴۸-۹۷۸

## عثمان بن حنیف

آپ انصاری ہیں سہل کے بھائی ہیں آپ کو حضرت عمر نے سواد عراق اور جہانیہ کا حاکم بنایا تھا وہاں کے باشندوں کفار پر جزیہ قائم کیا تھا پھر بصرہ کا حاکم بنایا وہاں سے آپ کو طلحہ وزیر نے نکال دیا جبکہ وہ دونو جنگ جمل میں وہاں آئے پھر آپ کوفہ میں رہے امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات پائی آپ سے بہت لوگوں نے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۲۸۱

جلد سوم: ۲۵۶۱

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد چہارم: ۲۹۱۰-۲۹۱۱

## عثمان بن ضحاک

آپ حجازی یا حزامی ہیں، آپ کے دادا کا نام بھی عثمان ہے۔ امام ترمذی نے آپ کو ضحاک بن عثمان بتایا ہے، کبار تبع تابعین سے ہیں۔

ابو حازم بن دینار، محمد بن یوسف بن عبد اللہ بن سلام، سے روایت کرتے ہیں، آپ سے ابو حمزہ، عبد اللہ بن نافع اور محمد بن صدقہ فدکی نے روایت کی ہے۔ ابن حبان نے آپ کو ثقات میں شمار کیا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۷۶۵

## عثمان بن العاص

آپ ثقفی ہیں، آپ کو حضور انور نے طائف کا حاکم بنایا، آپ وہاں حضرت عمر کی

خلافت کے دو سال تک حاکم رہے۔ حضرت عمرؓ نے آپؐ آپ کو وہاں سے ہٹا کر عمان اور بحرین کا حاکم بنایا۔ آپؐ حضور انورؐ کی خدمت میں وفد بنی ثقیف میں آئے تھے۔ اس وقت آپؐ کی عمر ۲۹ سال تھی۔ آپؐ ۱۰ھ میں آئے تھے، آخر میں بصرہ میں رہے۔ وہاں ہی وفات ہوئی۔ ۵۱ھ میں وفات پائی۔ حضور انورؐ کی وفات کے بعد جب بنی ثقیف نے مرتد ہو جانے کا ارادہ کیا تو آپؐ نے فرمایا: کہ اے میری قوم تم آخر مومنین ہو اب اول مرتدین نہ بنو۔ چنانچہ وہ لوگ اس حرکت سے باز رہے خواجہ حسن بصری وغیرہم نے آپؐ سے احادیث روایت کیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۵۲۲

### عثمان بن عبد اللہ

آپ ابن اوس ثقفی ہیں۔ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایات لیتے ہیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد سوم: ۲۰۰۹-۲۰۱۰  
www.alahazratnetwork.org

### امیر المومنین عثمان بن عفان

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ، اموی قرشی ہیں، آپ شروع اسلام میں ہی حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تبلیغ سے انہیں کے ہاتھ پر اسلام لائے، ابھی حضور دار ارقمؓ میں نہیں گئے تھے۔ آپ نے حبشہ کی طرف دو ہجرتیں کیں۔ آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ آپؓ کی زوجہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار تھیں۔ حضور انورؐ کے حکم سے مدینہ منورہ میں رہے، حضور نے بدر کی غنیمت سے حصہ آپ کو دیا، نیز صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت الرضوان میں جسماً شریک نہ ہوئے کیونکہ حضور انورؐ نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر اہل مکہ سے صلح کی بات چیت کرنے بھیجا تھا۔ اور یہ بیعت آپ کے پیچھے ہوئی تھی۔ اس خبر پر کہ عثمان کو اہل مکہ نے شہید کر دیا۔ حضور انورؐ نے اپنے بائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا: کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور آپ نے داہنے ہاتھ کے متعلق فرمایا کہ یہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور بیعت کی چونکہ حضور انورؐ کی دو بیٹیاں رقیہ و کلثوم آگے پیچھے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ اس لئے آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔



یعنی دونوں والے۔ یکم محرم ۲۴ھ کو خلیفہ بنے بیاسی سال عمر پائی، بارہ برس خلافت کی، آپ کو اسود نجیبی، مصری، نے یا کسی اور نے شہید کیا۔ اور جنت البقیع کے کنارہ پر دفن ہوئے۔ شہادت ۱۸ ذی الحجہ جمعہ کے دن ۳۵ھ کو ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۳۶۳، ۳۳۵، ۶۵۴، ۷۴۲، ۷۵۸۔

جلد دوم: ۱۰۴۵، ۱۱۷۲، ۱۷۰۱۔

جلد سوم: ۲۷۲۶۔

جلد چہارم: ۳۵۰۰، ۳۵۱۲۔

### عثمان عمری

آپ عثمان بن واقد بن محمد بن زید بن عبد اللہ بن عمر العدوی العمری مدنی ثم بصری ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انکے علاوہ نافع بن جبیر بن مطعم، نافع مولیٰ بن عمر، ابو نصیرہ مسلم بن عبد الواسطی، وکدام بن عبد الرحمن سلمیٰ وغیرہم سے بھی روایت کرتے ہیں۔ آپ سے امام وکیع، مخلد بن یزید، اور عبد الحمید حمانی وغیرہم نے روایات لی ہیں محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۲۸۳۔

### عثیم بن کلیب

آپ عثیم بن کثیر بن کلیب حضرمی ہیں، بعض نے جھنی حجازی کہا ہے، دادا کی طرف منسوب ہو کر معروف ہیں، اپنے والد اور وہ انکے دادا سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے محمد بن مسلم جوسق، عبد اللہ بن منیب، ابن جریج وغیرہم روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۰۵۲۔



## عثمان بن موہب

آپ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں تابعی ہیں، ابو حاتم کہتے ہیں، صالح الحدیث ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد چہارم: ۳۰۰۹-۳۲۱۹

## عدی بن حاتم

آپ امرء القیس مشہور شاعر جاہلیت کے خاندان سے ہیں، کنیت ابو طریف ہے، شعبان ۷ھ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اور عمر فاروق اعظم سے روایت کرتے ہیں، آپ سے عمر بن حریش، عبداللہ بن مغفل، خثیمہ بن عبدالرحمن، عامر الشعمی، سعید بن جبیر، قاسم بن عبدالرحمن وغیرہم روایت کرتے ہیں۔ فتح مدائن میں شریک تھے۔ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ رہے۔ ۶۸ھ کوفہ میں انتقال فرمایا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد دوم: ۱۹۳۱  
جلد سوم: ۲۷۶۲-  
جلد چہارم: ۳۱۷۰

## عرباض بن ساریہ

آپ صحابی ہیں، اہل صفہ سے تھے، آپ اس جماعت سے ہیں جنہوں نے جہاد کے لئے حضور انور سے سواریاں مانگیں مگر نہ پائیں تو روتے ہوئے واپس ہوئے۔ انکایہ واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ۷۵ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۶۰۵۳

جلد دوم:- ۱۸۷۱

جلد سوم:- ۲۵۲۵

جلد چہارم:- ۳۳۴۴

### عروہ بن زبیر

آپ عروہ بن زبیر ہیں۔ قرشی ہیں، اسدی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، مدینہ کے بڑے فقیہ اور محدث ہیں۔ صائم الدہر تھے۔ صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کے فرزند۔ ۲۲ھ میں ولادت ہوئی ۹۴ھ میں وفات ہوئی۔ آپ کا ایک باغ اور کنواں مدینہ منورہ میں اب تک مشہور ہے، لوگ برکت کے لئے اسکا پانی پیتے ہیں۔ بیر عروہ کے نام سے مشہور ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم:- ۱۶۳۴

جلد چہارم:- ۲۹۲۰، ۳۴۰۱، ۳۵۰۱

### عروہ بن مسعود ثقفی

آپ صلح حدیبیہ میں کافروں کی طرف سے آئے تھے، خود کافر تھے، پھر ۹ھ میں جب حضور طائف سے واپس ہوئے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے۔ آپ کے نکاح میں اسوقت بہت عورتیں تھیں حضور انور نے حکم دیا کہ چار رکھو۔ باقی کو علیحدہ کر دو۔ پھر آپ حضور سے اجازت لے کر گھر واپس گئے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی۔ انہوں نے انکار کیا، آپ فجر کے وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے وہاں اذان دی، کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا۔ ایک ثقفی نے آپ کو وہاں ہی تیر مارا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ حضور انور کو جب اس واقعہ کی خبر دی گئی تو فرمایا: عروہ سورہ یسین والے کی مثل ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا تھا انہوں نے بھی انہیں اسی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۴۲۵

## عزیزہ بنت ابی تجرۃ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول:- ۶۶۰

## عصمہ بن مالک

آپ انصاری مخطمی ہیں، آپ کی صحابیت میں اختلاف ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد سوم:- ۲۲۲۸

جلد چہارم:- ۳۴۷۲

## عطا بن ابی رباح

آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ ہاتھ پاؤں سے بیکار ایک آنکھ سے محروم تھے۔ آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ مکہ معظمہ کے بڑے فقیہ تھے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ آپ مقبول ترین لوگوں سے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ علم کا خزانہ اللہ جسے چاہے دے اگر علم نسب سے ملتا تو حضور انور کی صاحبزادی اسکی مستحق ہوتیں، دیکھو عطا بن ابی رباح حبشی تھے مگر علم کے خزانے انہیں ملے سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ میں نے تین شخص دیکھے جن کا علم محض رضائے الہی کے لئے تھا۔ عطا، طاؤس، مجاہد حضرت عطا کی عمر اٹھاسی سال ہوئی۔ ۱۱۵ھ میں وفات ہوئی بہت صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری وغیرہم۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول:- ۳۸۴-۹۳۶

جلد دوم:- ۱۰۸۶-۱۰۹۲-۱۱۰۹

جلد سوم:- ۲۱۶۳-۲۲۸۷

## عطا بن عبد اللہ خراسانی

آپ تابعی ہیں۔ ۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۵ھ میں وفات پائی ابو حاتم کہتے ہیں کہ آپ ثقہ تھے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم:- ۱۰۵۹

جلد چہارم:- ۳۶۴۵

## عطا بن دینار

آپ ہندی مدنی ہیں، آپ نے سعید بن جبیر حکیم بن شریک ہندی، عباس بن جلید حمیری، ابو یزید خولانی، وغیرہم سے روایات کی ہے۔

آپ سے عمر بن حارث، سعید بن ابی ایوب یحییٰ بن ایوب، حیوۃ بن شریح، اور نافع بن یزید روایت کرتے ہیں۔

محدثین نے آپ کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ ۱۲۶ھ میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول:- ۸۱۰

## عطا بن یسار

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۲۹۶۹

## عقیف کندی

آپ اشعث بن قیس کے اخیانی بھائی اور چچا زادے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔، جاہلیت اور اسلام دونوں میں آپ کو اپنے قبائل کی قیادت ملی تھی۔



اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول:- ۸۲۱

### عقبہ بن عامر

آپ عامر جہنی ہیں عقبہ ابن ابی سفیان کے بعد امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے حاکم رہے۔ پھر امیر معاویہ نے آپ کو معزول کر دیا۔ ۵۸ھ میں مصر میں آپ کی وفات ہوئی، آپ سے چند صحابہ اور بہت سے تابعین نے احادیث نقل کیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلداول:- ۴۷-۴۰۱-۹۲۷

جلد دوم:- ۱۱۴۲-۱۱۴۸-۱۱۶۶-۱۱۶۷

جلد سوم:- ۲۱۷۹-۲۳۰۷-۲۷۱۶

جلد چہارم:- ۲۹۸۷-۳۳۵۴-۳۴۹۰-۳۵۴۸

### عتیل بن ابی طالب

آپ حضرت علی کے برادر اکبر ہیں، کنیت ابو یزید ہے، فتح مکہ کے سال اسلام لائے، غزوہ بدر میں قید ہوئے تو چچا عباس نے فدیہ دیکر آزاد کرالیا تھا۔ پھر اسلام کے بعد غزوہ موتہ میں شریک ہوئے، غزوہ حنین میں بھی شریک تھے۔ اور ثابت قدم رہے۔

انساب قریش کے عالم تھے، اور نہایت حاضر جواب، حضرت علی کو چھوڑ کر امیر معاویہ کے ساتھ رہے، فیصلے خوب فرماتے تھے اور لوگوں کا آپ کی طرف اس سلسلہ میں رجوع تھا، حضرت امیر معاویہ کے آخر زمانہ میں یازید کے ابتدائے دور میں وصال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلداول:- ۴۶۶

جلد چہارم:- ۳۳۷۹

## عکرمہ

آپ تابعی ہیں، حضرت بن عباس کے کاتب اور آزاد کردہ غلام، فقہائے مکہ معظمہ سے ہیں، اسی سال عمر ہوئی، ۱۰۷ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۵۷۰-۷۲۹

جلد سوم: ۱۹۸۸

جلد چہارم: ۲۸۵۲-۳۶۰۲

## علقمہ بن عبداللہ

آپ ابن سنان مزنی بصری تابعی ہیں، اپنے والد، معقل بن یسار، ابن عمر، سے روایت کرتے ہیں۔ آپ سے قتادہ حمیر بن عوف الاعرابی۔ ابو عمران جوئی وغیرہم روایت لیتے ہیں۔

محدثین آپ کو ثقہ مانتے ہیں۔ ابن حبان نے آپ کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں وصال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۵۴

جلد دوم: ۱۶۲۹

## علقمہ بن قیس

آپ نخعی کوفی، تابعی ہیں، عہد نبوی میں ولادت ہوئی، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولیٰ علی سعد بن ابی وقاص، حذیفہ، ابودرداء، ابن مسعود، ابومسعود، اور کثیر صحابہ سے روایت کرتے ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، اور فقہ ابن مسعود کے امین و وارث تھے۔ چال ڈھال میں انکی شبیہ تھے۔ ۶۱ھ میں یا اسکے بعد وصال ہوا۔ اور کوفہ میں دفن ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۶۷۱

جلد دوم: ۱۲۹۱-۱۷۵۹-۱۷۶۰-۱۷۸۰

جلد چہارم:- ۳۳۵۰

## علاء بن زیاد

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۳۶۱

## علاء بن ہارون

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۶۰۳

## علی بن ابی طالب

آپ کی کنیت ابوالحسن ہے اور ابو تراب بھی، قرشی ہاشمی ہیں، حضور انور کے چچا زاد بھائی اور داماد، بعض نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف دس بارہ سال تھی۔ سوائے تبوک کے سارے غزوات میں حضور انور کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک میں حضور انور نے مدینہ منورہ اور اپنے گھر بار کا انتظام کرنے کے لئے آپ کو مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ اور فرمایا تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ آپ گندی رنگ بڑی آنکھوں والے بڑے پستہ قد تھے۔ اٹھارہ ذی الحجہ جمعہ کے دن یعنی عین شہادت عثمان غنی کے دن ۳۵ھ میں خلیفہ ہوئے۔ آپ کو عبدالرحمن بن ملجم مرادی نے اٹھارہ رمضان المبارک جمعہ کے دن ۴۰ھ میں شہید کیا تین دن بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کو حسنین کریمین اور عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ امام حسن نے نماز پڑھائی عمر شریف تریسٹھ سال ہوئی۔ خلافت چار سال نو مہینہ چند دن ہوئی۔ آپ کے فضائل بیشمار ہیں۔ آپ کے گھر میں حضور انور نے اور حضور کے گھر میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ ہی نسل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل ہیں کوفہ کے قریب نجف شریف میں مزار انور ہے۔ حضرت علی سے پانچ سو چھیاسی احادیث مروی ہیں۔ جن میں سے بیس متفق علیہ ہیں نو بخاری کی ہیں، اور

پندرہ مسلم میں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۵-۱۱-۱۰۶-۱۲۱-۱۳۵-۱۵۸-۱۶۰-۱۸۴-۱۸۶-۱۸۹-۲۹۴-

۳۳۹-۳۳۹-۴۲۸-۴۳۷-۴۴۳-۴۵۶-۴۶۲-۴۸۰-۶۲۱-۶۲۶-

۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۸-۷۴۳-۷۸۲-۸۷۳-۹۳۵-۹۳۸-۹۸۲-۹۸۴-

۹۹۰-۹۹۲-

جلد دوم: ۱۰۶۵-۱۱۱۴-۱۱۲۰-۱۱۷۵-۱۳۰۴-۱۳۰۶-۱۳۲۸-۱۴۰۹-۱۴۶۱-

۱۵۳۰-۱۵۴۳-۱۵۹۱-۱۶۲۴-۱۷۹۳-۱۸۲۰-۱۸۳۴-۱۹۰۳-۱۹۲۵-۱۹۲۶-

۱۹۳۳-۱۹۴۳-

جلد سوم: ۱۹۵۸-۱۹۶۳-۲۰۳۴-۲۰۳۸-۲۰۸۱-۲۰۹۶-۲۱۳۲-۲۱۴۱-۲۲۰۲-

۲۲۳۴-۲۲۸۱-۲۲۸۲-۲۲۸۴-۲۳۶۹-۲۳۹۴-۲۵۲۶-۲۵۳۸-۲۵۶۰-

۲۶۹۸-۲۶۹۷-۲۷۰۱-۲۷۰۷-۲۷۰۸-۲۷۱۰-۲۷۲۴-۲۷۵۱-۲۷۵۹-

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۲۷۷۱-۲۷۹۷-۲۸۲۸-

جلد چہارم: ۲۸۸۵-۲۹۶۵-۲۹۸۳-۲۹۹۹-۳۰۳۶-۳۰۵۹-۳۱۱۴-۳۱۱۰-

۳۲۳۴-۳۲۵۹-۳۲۹۵-۳۲۹۸-۳۳۰۴-۳۳۴۷-۳۳۸۵-۳۴۴۲-

۳۴۵۲-۳۴۵۴-۳۴۷۸-۳۵۰۹-۳۵۱۰-۳۵۱۱-۳۵۱۶-۳۵۱۷-

۳۵۱۸-۳۵۲۲-۳۵۳۹-۳۵۶۴-۳۵۷۸-۳۵۷۹-۳۶۶۳-۳۵۰۵-

۳۵۰۶-

علی بن حسین

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۵۶۳-

جلد چہارم: ۳۱۵۴-



### عمار بن یاسر

آپ مشہور صحابی ہیں۔ آپ کے والد کا نام یاسر ہے، حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ رہے۔ صفین میں ۳۷ھ میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی۔ آپ نے ۹۳ سال کی عمر پائی۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۳۹۵-۴۰۶-۱۰۱۵

جلد دوم: ۱۷۳۱

جلد سوم: ۱۹۶۹-۲۰۴۸

جلد چہارم: ۳۱۶۳-۳۴۶۰

### عمارہ بن حزم

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۶۵۹

جلد دوم: ۱۱۵۱

### عمارہ بن خزیمہ

آپ ابن ثابت انصاری اوسی مدنی تابعی ہیں، کنیت ابو عبد اللہ ہے،

اپنے والد، چچا عثمان بن حنیف عمرو بن عاص، وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے آپ کے بیٹے محمد، ابو خزیمہ، عمرو بن خزیمہ، امام زہری، ابو واقد، لیثی، یزید

بن عبد اللہ بن الہاد وغیرہم روایت کرتے ہیں،

محدثین نے آپ کو ثقہ بتایا ہے، اور ابن حبان نے آپ کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ ۱۰۵ھ

میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۲۹۹۵

## عمر بن ابی سلمہ

آپ کے والد ابو سلمہ کا نام عبداللہ بن عبدالاسد ہے۔ مخزومی قرشی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں۔ یعنی جناب ام سلمہ کے فرزند، آپ حبشہ میں پیدا ہوئے۔ ۲ھ میں حضور انور کی وفات کے وقت نو سال کے تھے۔ عبدالملک بن مروان کی حکومت میں ۸۳ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول: ۷۱۲

## عمر بن حریث

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۴۶۱

## امیر المومنین عمر بن الخطاب

آپ کا لقب فاروق ہے، کنیت ابو حفص عدوی قرشی ہیں، نبوت کے چھٹے یا پانچویں سال ایمان لائے۔ آپ سے پہلے چالیس مرد گیارہ عورتیں مسلمان ہو چکے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ آپ سے چالیس مومنوں کا عدد پورا ہوا۔ آپ کے ایمان لانے کے دن مکہ میں اسلام چکاتین دن پہلے حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب آپ کے ایمان کا ذریعہ بنیں اس دن حضور انور دار ارقم میں تھے صفا کے پاس۔ جب آپ وہاں پہونچے تو جناب حمزہ حضور کے پاس تھے، آپ نے دروازہ بجایا حاضرین بارگاہ باہر آئے، جناب حمزہ نے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہیں، حضور انور باہر نکلے آپ کے دامن کو جھٹکا دیا آپ کھڑے نہ رہ سکے، دوزانوں بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا: کہ اے عمر! کیا ابھی تمہارے ایمان کا وقت نہیں آیا، آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، حاضرین نے خوشی سے نعرہ تکبیر لگایا جو حرم شریف میں سنا گیا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر اور کفار باطل پر نہیں ہیں؟ حضور انور نے فرمایا خدا کی قسم تم حق پر ہو۔ عرض کیا پھر چھپتے کیوں ہیں۔ چنانچہ مسلمان دو صفوں میں نکلے،

ایک میں حضرت حمزہ تھے۔ دوسری صف میں حضرت عمر، آپ کے سینے سے چکی کی سی آواز نکل رہی تھی۔ آپ کو اور حضرت حمزہ کو کفار قریش نے مومنین کی صف میں دیکھا تو انکے ہاں صف ماتم بچھ گئی۔ بہت ہی غمگین ہوئے حضور نے آپ کو فاروق کا لقب دیا۔ جب آپ ایمان لائے تو جبریل امین حاضر خدمت ہو کر بولے: یا رسول اللہ! آج حضرت عمر کے ایمان پر فرشتوں میں مبارک باد کی دھوم مچی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا والوں کے علوم ایک پلہ میں رکھے جائیں اور حضرت عمر کا علم دوسرے پلہ میں تو حضرت عمر کا علم وزنی ہوگا۔ حضرت عمر کی وفات سے نو حصہ علم اٹھ گیا۔ دسواں حصہ باقی رہ گیا۔ آپ حضور کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ پہلے آپ ہی کا لقب امیر المومنین ہوا۔ ابو بکر صدیق کے بعد آپ خلیفہ ہوئے، آپ ۲۶ ذی الحجہ ۲۳ بدھ کے دن ایک یہودی غلام ابولولو کے خنجر سے محراب النبی میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے زخمی ہوئے۔ اور تین دن بعد ۶۳ برس کی عمر میں وفات پائی یکم محرم ۲۴ھ کو پہلوئے مصطفوی میں گنبد خضرا کے اندر دفن کئے گئے۔ ساڑھے دس سال خلافت کی، حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ خیال رہے کہ آپ سے ایک سوانتا لیس احادیث مروی ہیں۔ دس حدیثیں متفق علیہ ہیں نو حدیثیں صرف بخاری میں ہیں۔ پندرہ حدیثیں مسلم میں ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۱-۳۷-۴۹-۷۶-۱۰۷-۱۰۸-۳۱۰-۳۳۵-۴۸۳-۵۲۲-۵۹۵۔

۶۶۳-۶۸۴-۹۶۶۔

جلد دوم: ۱۰۶۹-۱۱۸۶-۱۲۰۵-۱۲۰۹-۱۲۱۴-۱۳۸۳-۱۴۴۳-۱۴۹۴-۱۵۲۵۔

۱۵۳۷-۱۷۳۹-۱۸۰۴-۱۸۸۳-۱۸۹۲۔

جلد سوم: ۱۹۵۹-۱۹۶۱-۱۹۶۲-۲۱۲۳-۲۱۸۳-۲۲۷۰-۲۳۱۳-۲۴۸۸۔

۲۵۵۵-۲۵۵۶-۲۷۸۸۔

جلد چہارم: ۲۸۸۱-۲۹۰۲-۲۹۴۴-۳۰۲۰-۳۱۳۴-۳۱۵۶-۳۲۱۶-۳۲۳۱۔

۳۲۳۲-۳۲۵۷-۳۲۷۷-۳۲۸۸-۳۳۲۱-۳۳۴۶-۳۳۷۷-۳۴۹۲۔

## عمر صنعانی

آپ عمر بن حوشب صنعانی ہیں، اسمعیل بن امیر سے روایت کرتے ہیں، آپ سے عبد الرزاق صاحب مصنف نے روایت لی ہیں، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں شمار فرمایا۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۱۴۵

## عمر بن علی

آپ حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، ہاشمی ہیں اور عمر اکبر کہلاتے ہیں، آپ کی والدہ صہبا بنت ربیعہ بنو ثعلبہ سے تھیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے آپ کی اولاد میں محمد، عبید اللہ، علی، روایت کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ امام ابو زرہ۔ عمرو بن جابر، خضرمی بھی روایت کرتے ہیں، فاروق اعظم نے آپ کا نام اپنے نام پر رکھا تھا۔  
[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

محدثین آپ کو ثقہ مانتے ہیں، اولاد مولیٰ علی میں آپ کا انتقال سب سے بعد میں ہے، ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۵۳۲

جلد چہارم: ۳۳۹۵

## عمر بن علیہ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۴۰۲۔



## عمران بن حصین

آپ کا نام عمران، کنیت ابوالخیر ہے، خزاعی کعمی ہیں۔ خیبر کے سال حصین اپنے والد کیساتھ ایمان لائے۔ عہد فاروقی میں بصرے بھیجے گئے۔ پھر وہاں رہ گئے۔ بصرہ ہی میں ۵۲ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۱۲-۳۶-۷۷-۸۹۸-۹۸۸۔

جلد دوم: ۱۰۷۲-۱۰۸۳-۱۲۱۷-۱۳۸۴-۱۶۶۹-۱۸۷۶۔

جلد سوم: ۱۹۶۶-۲۰۳۷۔

جلد چہارم: ۲۸۳۹-۳۱۲۵-۳۵۲۳۔

## عمرہ بنت ابی طیخ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۹۴۰۔

## عمرہ بنت عبدالرحمن

آپ عبدالرحمن بن سعید بن زرارہ کی دختر ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کی پرورش کی آپ نے انہیں سے بہت احادیث روایت کیں۔ ۱۰۳ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۰۰۱۔

## عمرو بن الخطب

آپ کی کنیت ابوزید ہے اسی سے مشہور ہیں انصاری ہیں، کئی غزوات میں حضور انور کے ساتھ حاضر ہوئے حضور انور نے آپ کے سر پر دست اقدس پھیرا، اور حسن و جمال کی دعا فرمائی۔ سو برس سے زیادہ عمر ہوئی مگر سر اور داڑھی میں صرف چند بال سفید ہوئے۔ آپ سے

بہت صحابہ نے احادیث نقل فرمائیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۲۵۶

### عمرو بن امیہ ضمری

آپ ضمری ہیں بدر واحد میں مشرکوں کے ساتھ آئے تھے۔ مگر احد سے واپسی پر مسلمان ہو گئے۔ عرب کے مشہور بہادر تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ پہلے غزوہ بیر معونہ میں شریک ہوئے۔ آپ کو عمار بن طفیل نے اس غزوہ میں قید کر لیا پھر چھوڑ دیا۔ ۶ھ میں حضور انور نے آپ کو دعوت اسلام کے لئے حبشہ بھیجا۔ آپ کا شمار اہل حجاز میں ہے۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ بعض نے فرمایا کہ ۶۰ھ میں وفات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۴۳۲ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### عمرو بن حزم

آپ کی کنیت ابو ضحاک ہے، انصاری ہیں غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۱۵ سال تھی۔ حضور انور نے آپ کو نجران کا حاکم بنایا۔ ۵۳ھ میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۱۵۰۔

### عمرو بن دینار

آپ کی کنیت ابو یحییٰ ہے سالم ابن عبد اللہ ابن عمرو غیر ہم سے ملاقات ہے:

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۷۹۸۔

جلد دوم: ۱۰۴۸-۱۰۵۰-۱۱۹۰-۱۱۹۱

## عمرو بن سہل

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۲۳۵

## عمرو بن شعیب

ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سہمی ہیں۔ آپ اپنے اپنے والد شعیب ابن مسیب طاؤس وغیرہم سے روایت لی بخاری مسلم نے ان کی کوئی حدیث نہ لی کیونکہ ان کی روایت میں عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، لہذا معلوم نہیں کہ ”جدہ“ سے ان کے اپنے دادا محمد مراد ہیں یا والد یعنی شعیب کے دادا ابن عمرو بن عاص مراد ہیں، محمد تابعی ہیں اور عبداللہ بن عمرو صحابی ہیں تو پتہ نہیں لگتا کہ حدیث متصل ہے یا مرسل، نیز شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے ملاقات نہیں کی۔ لہذا ان کی احادیث میں تدلیس ہے، اس وجہ سے بخاری و مسلم نے ان کی احادیث نہ لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۳۶۰-۴۲۳-۵۴۳-۶۳۴

جلد دوم: ۱۳۰۹

جلد سوم: ۲۰۸۹-۲۵۱۹-۲۶۱۳

جلد چہارم: ۳۳۸۹

## عمرو بن عاص

آپ سہمی قرشی ہیں ۵ھ یا ۸ھ میں ایمان لائے۔ آپ اور خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ ایک ساتھ آ کر مسلمان ہوئے۔ حضور انور نے آپ کو عثمان کا حاکم بنایا۔ حضور کی وفات تک آپ حاکم رہے۔ پھر حضرت عمر، عثمان اور معاویہ نے آپ کو حاکم بنایا۔ مصر آپ نے ہی فتح کیا۔ اور وفات تک مصر کے حاکم رہے۔ حضرت عثمان نے چار سال تو آپ کو عامل رکھا، پھر معزول

کر دیا، پھر امیر معاویہ نے اپنی حکومت میں وہاں کا حاکم بنایا۔ ۹۰ سال عمر ہوئی۔ ۴۳ھ میں وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمرو مصر کے حاکم ہوئے۔ جنہیں حضرت معاویہ نے معزول کر دیا۔ بہت لوگوں نے آپ سے روایات لیں۔ جیسے عبداللہ بن عمر، وقیس بن حازم، وغیرہم۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۴۴-۸۹۔

جلد دوم: ۱۰۳۸۔

جلد سوم: ۲۷۵۶۔

جلد چہارم: ۲۹۱۳۔

### عمرو بن عبسہ

آپ مشہور صحابی ہیں، چوتھے مسلمان ہیں۔ شام کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے صلح کے زمانہ میں رومی عیسائیوں کے سرحد پر پہنچ جانے کو بھی بدعہدی میں شمار فرمایا۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۹۲۸۔

جلد دوم: ۱۸۰۲۔

جلد سوم: ۲۵۹۹۔

### عمرو بن عوف

آپ انصاری ہیں بدر میں شریک ہوئے اور مدینہ منورہ میں رہے۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۶۳۔

جلد دوم: ۱۳۳۹۔

جلد سوم: ۲۷۸۹-۲۵۱۶۔



## عمر و بن قیس بن ام مکتوم

آپ قرشی عامری ہیں آپ کا دوسرا نام عبداللہ ہے آپ ہی کو ابن ام مکتوم کہتے ہیں نابینا تھے آپ کی والدہ کا نام عاتکہ ہے آپ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ کے ماموں زاد یا خالہ زاد بھائی ہیں مکہ معظمہ میں اول ہی میں ایمان لائے۔ آپ نے مصعب بن عمیر کے ساتھ ہجرت کی مہاجرین اولین میں سے ہیں حضور انور نے آپ کو بارہا مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور سفر میں تشریف لے گئے آخری بار حجۃ الودع کے موقع پر، وفات مدینہ منورہ میں ہوئی بعض کہتے ہیں۔ غزوہ قادیسیہ میں شہید ہوئے۔ سورہ عبس و تولى آپ ہی متعلق نازل ہوئی۔ اس سورۃ کے نزول کے بعد حضور انور آپ کیلئے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۲۱۵

## عمر و بن مرہ

آپ کی کنیت ابو مریم ہے آپکی ہیں یا ازدی، اکثر غزوات میں شریک ہوئے، شام میں قیام رہا اور امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۰۳۶

## عمر و بن میمون

آپ ادوی ہیں، زمانہ جاہلیت پایا ہے، حضور انور کی حیات شریف میں ایمان لائے مگر ملاقات نہ کر سکے، کوفہ کے عظیم تابعی ہیں۔ حضرت عمر، معاذ بن جبل اور ابن مسعود سے ملاقات ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ۷۷ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۷۴۵

## عمیر بن سعد

آپ عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان بن قیس بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس

انصاری اویسی ہیں، حضور بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ سے آپ کے بیٹے محمود اور ان کے علاوہ ابو ادریس خولانی، حبیب بن عبید، راشد بن سعد، زہیر بن سالم، اور ابو طلحہ، خولانی غیر ہم روایت کرتے ہیں۔

شام کی فتوحات میں شریک ہوئے، پھر حضرت عمر نے حمص پر والی بنا دیا تھا۔ نہایت عابد و زاہد تھے اور آخر عمر تک یہاں ہی قیام رہا، امیر معاویہ کی خلافت میں انتقال ہوا۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۲۹۶

### عوف بن مالک الشجعی

آپ صحابی ہیں، الشجعی ہیں، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بلکہ فتح مکہ کے دن بنی الشجع کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا، شام میں قیام رہا اور وہاں ہی ۷۳ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۱۱۸-۱۵۱۹-۱۹۴۴

جلد چہارم: ۳۲۰۵-۳۳۳۵-۳۵۸۰

### عیسیٰ بن ملھان

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۴۲۱

### عیاض بن حمار مجاشعی

آپ تیمی مجاشعی ہیں اہل بصرہ میں آپ کا شمار ہے حضور انور کا ان پر بہت کرم تھا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول: ۱۰۱

## غیلان بن سلمہ ثقفی

آپ ثقفی ہیں فتح طائف کے بعد ایمان لائے ثقیف کے سرداروں میں سے تھے بڑے شاعر اور عبادت گزار تھے۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت میں وفات پائی۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۵۶۲

جلد چہارم: ۲۸۷۹

## فضالہ بن عبید الزہرانی

آپ انصاری صحابی ہیں، غزوہ احد اور بیعت الرضوان میں شریک ہوئے، خیبر کی فتح میں شامل تھے حضور کے بعد دمشق میں رہے، وہاں امیر معاویہ کی طرف سے دمشق کے گورنر رہے، امیر معاویہ کے زمانہ میں دمشق میں ۵۳ھ کو وفات ہوئی۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد اول: ۶۵۱

جلد سوم: ۲۷۱۵

## فضل بن عباس

ابن عبدالمطلب آپ حضور انور کے چچا زاد ہیں، حضور کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور ثابت قدم رہے، حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ تھے۔ حضور انور کو غسل دینے والوں میں آپ بھی تھے۔ پھر شام میں جہاد کرتے رہے۔ اردن کے علاقہ میں وفات پائی۔ اٹھارہ سال عمر ہوئی۔ اپنے بھائی عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایات کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول: ۸۸۱

فطیمہ

انکے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۲۸۵

### قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق

آپ مدینہ منورہ کے سات مشہور فقہاء میں ہیں اور تابعی، اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں: ہم نے مدینہ منورہ میں آپ سے افضل کسی کو نہ پایا۔ آپ سے بہت صحابہ نے احادیث روایت کیں حتیٰ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی۔ ۱۰۱ھ میں وصال ہوا۔ آپ امام جعفر صادق کے نانا ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۲۸۴

### قاسم بن مخیمرہ

آپ ہمدانی کو فی ہیں، کنیت ابو عمروہ ہے، دمشق میں رہے، تابعی ہیں، ابن عمرو، ابو سعید خدری، ابو امامہ باہلی، علقمہ بن قیس، مغیرہ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں، آپ سے ابو اسحاق سبعی، سماک بن حرب، علقمہ بن مرثد، سلمیٰ بن کہیل، حسان بن عطیہ، اور امام اوزاعی وغیرہم روایت کرتے ہیں۔

محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔ ۱۰۰ھ کے قریب وصال ہے، صالحین کوفہ سے تھے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۳۵۸

### قبیصہ بن ہلب

آپ طائی ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں آپ کے والد صحابی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۸۷۲



## قنادہ بن الربیع

آپ قنادہ بن وعامہ ہیں کنیت ابو الخطاب ہے۔ نابینا تھے۔ حضرت انس اور عبداللہ ابن حسن صدیق سے ملاقات ہے۔ تابعی ہیں ۱۰۷ھ میں وفات ہوئی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول۔ ۶۴۸

جلد دوم۔ ۱۲۱۱

جلد سوم۔ ۲۰۴۱

جلد چہارم۔ ۳۳۴۱-۳۴۰۷-۳۶۵۶

## قنیلہ بنت صفی جھنیہ

ان کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۱۷۶

## قرہ بن ایاس

آپ مزنی بصری ہیں آپ کے بیٹے معاویہ نے آپ سے احادیث لیں ازرقہ نے آپ کو قتل کیا اور کسی نے آپ سے احادیث نہ لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول: ۹۷۴

## قیس بن ابی حازم

آپ احمسی بجلی ہیں، زمانہ جاہلیت کو پایا ہے، آپ حضور انور سے بیعت کرنے مدینہ منورہ آئے تو معلوم ہوا کہ قریب ہی میں وفات شریف ہو چکی۔ آپ کوفہ کے تابعین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ سے روایات لیتے ہیں سوائے عبدالرحمن بن عوف کے۔ آپ کے سوا کسی تابعی نے عشرہ مبشرہ میں سے ۹ حضرات سے احادیث نہیں لیں نہروان میں حضرت علی کے ساتھ

تھے آپ نے سو برس سے زیادہ عمر پائی ۹۸ھ میں وفات ہوئی نہروانی خوارج پر جہاد کیا۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۸۸-

جلد سوم: ۱۹۵۲-

### قیس بن حبر

آپ تمیمی کو فی ہیں، جزیرہ میں قیام رہا، تابعی ہیں، ابن عباس، ابن مسعود، سے روایت کرتے ہیں، محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے، اور بن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۷۶۲-

### قیس بن سعد

قیس بن سعد ابن عبادہ انصاری خزرجی بڑے مشہور صحابی ہیں صاحب کرم ذہین، فطین، معاملہ شناس، انتظام میں یکتا، دراز قد بھاری بھرم تھے۔ خلافت حیدری میں آپ کی طرف سے مصر کے حاکم رہے۔ ۶۰ھ میں مدینہ منورہ میں شہید کئے گئے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۵۶۹-

### قیس بن عمرو

آپ انصاری مدنی ہیں اور صحابی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ سے قیس بن ابی حازم، آپ کے بیٹے سعید بن قیس وغیرہ روایت کرتے ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۸۹۵-۸۹۶

### قیس بن نعمان

آپ عبدی ہیں، بعض نے سکونی کو فی کہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

روایت کرتے ہیں، ان سے زید بن علی ابوالقموص نے روایت کی ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم:- ۱۷۶۳

### کثیر بن شظیر

آپ مازنی ہیں، بعض ازدی کہتے ہیں، کنیت ابو قرہ ہے، بصری ہیں اور تابعی یا تبع تابعی ہیں، صدوق ہیں۔

آپ عطاء، مجاہد، حسن بصری، ابن سیرین، وغیرہم سے روایت کرتے ہیں، اور آپ سے روایت کرنے والے سعد بن ابی عروبہ، حماد بن زید، عبدالوارث بن سعید، ابان بن یزید عطار، عباد بن عباد، بشر بن مفضل، وغیرہم ہیں، رجال صحاح سے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے آپ سے روایات لی ہیں، بہت محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول:- ۷۳۰

### کریب بن ابی مسلم

کنیت ابورشید ہے، اور بن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں۔  
تابعی ہیں، ابن عباس، ام الفضل، ام المومنین عائشہ، ام المومنین ام سلمہ، ام ہانی، وغیرہم سے روایت کرتے ہیں،  
آپ سے آپ کے بیٹے محمد، اور رشید بن نیز سلیمان بن یسار، حبیب بن ابی ثابت، سالم بن ابی الجعد، مکحول شامی، بکیر، سلمہ بن کہیل، صفوان بن سلیم، عروہ بن دینار اور بہت سے محدثین روایت کرتے ہیں،  
محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے، ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ ۹۸ھ میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۰۱۶

## کعب الاحبار

آپ کا نام کعب بن ماتع کنیت ابواسحاق قبیلہ حمیر سے ہیں، یہود کے بڑے مشہور عالم تھے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر ملاقات نہ کر سکے عہد فاروقی میں ایمان لائے اور خلافت عثمانی میں ۳۲ھ کو مقام حمس میں وفات پائی لہذا آپ تابعین میں سے ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۶۸۷

جلد سوم: ۲۴۶۱

جلد چہارم: ۲۸۶۹-۳۳۱۱-۳۶۰۰

## کعب بن عجرہ

آپ صحابی ہیں بیعت رضوان میں حاضر تھے زمانہ جاہلیت میں عبادہ بن صامت سے دوستی تھی آپ کا ایک بت تھا جس کی پرستش کرتے تھے ایک دن حضرت عبادہ نے انکی غیر موجودگی میں بت توڑ دیا آپ نے آ کر بت کو ٹوٹا ہوا پایا اور حضرت عبادہ کو وہاں بیٹھا ہوا پایا تو حضرت عبادہ پر غصہ آیا مگر فوراً دل سے آواز آئی اے کعب اگر بت کچھ کر سکتے تو اپنے کو عبادہ سے کیوں نہ بچاتے، یہ خیال آتے ہی اسلام قبول کر لیا کوفہ میں قیام رہا مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ۷۵ سال عمر شریف پائی۔ ۵۱ھ میں انتقال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۶۴۹-۸۲۳-۸۸۶

جلد دوم: ۱۶۵۶

## کعب بن مالک

آپ انصاری خزرجی ہیں عقبہ ثانیہ کی بیعت میں شریک تھے سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں حاضر رہے۔ حضور کے نعت گو شعراء میں سے ایک ہیں، آپ ان تین صحابہ میں سے ہیں جن کا غزوہ تبوک کے موقعہ پر بائی کاٹ کیا گیا اور پھر عرش اعظم سے جن کی قبولیت



توبہ سورہ توبہ میں اعلان ہوا آخر عمر شریف میں ناپینا ہو گئے تھے۔ ۷۰ سال عمر ہوئی اور۔ ۵۰ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۱۰۰-۱۰۲

جلد چہارم:- ۲۹۳۴

### کنانہ عدوی

آپ کنانہ بن نعیم عدوی بصری ہیں، کنیت ابو بکر ہے، تابعی ہیں۔  
ابو برزہ اسلمی، قبیصہ بن مخارق سے روایت کرتے ہیں، آپ سے ثابت بنانی، عبد  
الزبیر بن صہیب، عدی بن ثابت، وغیرہم روایت کرتے ہیں، محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے،  
امام مسلم و نسائی نے آپ سے روایات لی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۶۱۴ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### لیث بن سعد

لیث بن سعد مشہور تابعی فقیہ ہیں مصر کے امام ہیں ان کے حالات قدر تفصیل سے  
تدوین حدیث میں گذرے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۴۹۴

### امام مالک ابن انس

ان کے حالات مقدمہ میں تفصیل سے گذرے۔

### مالک بن حویرث

آپ لیثی ہیں حضور انور کی خدمت میں وفد بن کر آئے اور حضور کے پاس بیس دن  
رہے آخر میں بصرہ میں قیام رہا وہاں ہی ۹۴ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلداول:- ۶۳۳-۸۰۷

### مالک بن ربیعہ ساعدی

کنیت ابو اسید ہے، انصاری ساعدی ہیں اور بدری صحابی، بدر، احد، اور تمام مشاہد میں شریک رہے، فتح مکہ کے دن بنو ساعدہ کا جھنڈا آپ ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ سے آپ کے بیٹے حمید، زبیر وغیرہم تابعین سے روایت کرتے ہیں۔  
امیر معاویہ کے سنہ وصال ۶۰ھ میں وصال ہوا اسی سال یا کچھ کم کی عمر پائی، بدری صحابہ، میں یہ آخری ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد سوم:- ۲۳۵۴-۲۳۶۱-۲۳۶۲-۲۳۶۴

### مالک بن صعصعہ

آپ انصاری مازنی ہیں بصرہ میں رہے احادیث کم روایت کرتے ہیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول:- ۶۳۰

### مالک بن ہبیرہ

آپ سکونی ہیں۔ اہل شام میں آپ کا شمار ہے امیر معاویہ کی طرف سے لشکروں کے سردار رہے روم پر جہاد کیا یہ جہاد امیر معاویہ کے زمانہ میں ہوئے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد دوم:- ۱۰۸۷-۱۰۸۸

### مالک الدار

آپ مالک بن عملیہ بن السباق بن عبدالدار ہیں، موسیٰ بن عقبہ نے آپ کو بدری صحابی کہا ہے، میں نے مغازی موسیٰ بن عقبہ کا مطالعہ کیا تو مجھے آپ کا نام کہیں نہیں ملا، زبیر بن بکار

نے بنو عبدالدار کا نسب نامہ ذکر کر کے آپ کا نام لیا۔ لیکن اسلام لانے کے سلسلہ میں کچھ نہ لکھا۔ مغازی بن اسحاق اور مغازی واقدی میں بھی آپ کا ذکر نہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۵۵۴

### مجاہد بن جبیر

آپ کی کنیت ابو حجاج ہے عبداللہ ابن سائب مخزومی کے آزاد کردہ ہیں، مکہ معظمہ کے عظیم الشان تابعی وہاں کے فقیہ بڑے قاری قراء کے امام، مفسرین کے پیشوا ہیں ۱۰۰ھ میں وفات ہوئی آپ مشہور تابعی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۶۲۸-۴۷۰

جلد دوم: ۱۰۴۹-۱۳۷۱-۱۶۲۵-۱۷۵۶

جلد چہارم: ۳۲۵۵

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### مجاہد مکی

آپ مجاہد بن جبیر مکی مخزومی مقبری تابعی جلیل ہیں، کنیت ابو الحجاج ہے، سائب بن ابی سائب کے آزاد کردہ حضرت علی، عبادلہ کثیر صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے ایوب سختیانی، عطاء عکرمہ، ابن عون، عمرو بن دینار، ابو اسحاق سبیعی، ابو زبیر مکی وغیرہم کثیر محدثین روایت کرتے ہیں، آپ کی جلالت شان پر اجماع امت ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۳۳۶

### محجن بن الادرع اسلمی

آپ اسلمی پرانے مومن ہیں، دراز عمر پائی امارات امیر معاویہ کے آخر میں وفات

ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۳۵-۹۰۷

### محمد باقر

آپ کا نام محمد بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے، کنیت ابو جعفر، لقب باقر ہے۔ یعنی آپ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام جعفر آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ تابعی ہیں حضرت جابر بن عبد اللہ سے ملاقات ہے۔ ۵۶ھ میں پیدائش اور ۱۱۷ھ میں وفات ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۱۳۳-۴۴۴-۴۵۱-۹۶۸  
جلد سوم: ۲۷۴۶-۲۷۵۳  
جلد چہارم: ۳۴۶۴

### محمد بن ابراہیم تیمی

آپ قرشی تیمی مدنی ہیں، کنیت ابو عبد اللہ ہے، تابعی ہیں، ابو سعید خدری، جابر بن عبد اللہ، انس بن مالک، ام المومنین وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔  
آپ سے ہشام بن عروہ، ابن اسحاق، امام اوزاعی، اسامہ بن زید لیشی اور آپ سے موسیٰ و یحییٰ روایت کرتے ہیں، انکے علاوہ محدثین کی کثیر جماعت نے آپ سے روایات لی ہیں محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔ ۱۲۰ھ میں وصال ہوا۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد دوم: ۱۱۱۵-۱۱۳۱

### محمد بن ایاس

آپ لیشی مدنی ہیں، آپ کے والد بدری صحابی ہیں، اور آپ تابعی جلیل، ابو ہریرہ ام المومنین، ابن عمرو، ابن عباس، ابن الزبیر، وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔  
آپ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن، نافع مولیٰ بن عمر، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، نے



روایات لی ہیں، ابن سعد نے مشہور صحابیہ ربیعہ بنت معوذ کو آپ کی ماں کہا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۶۶۸

### محمد بن حاطب

آپ قرشی جمحی ہیں، خود اور آپ کے ماں باپ آپ کے بھائی حارث اور چچا خطاب سب ہی صحابی ہیں۔ حبشہ میں پیدا ہوئے۔ ۷۴ھ میں مکہ معظمہ میں وفات پائی۔ سب سے پہلے آپ ہی کا نام محمد رکھا گیا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۶۰۵

### محمد بن الحسن الشیبانی

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول: ۵۱۶

### محمد بن حنفیہ

آپ محمد بن علی بن ابی طالب ہیں۔ کنیت ابوالقاسم ہے۔ آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر حنفیہ ہیں۔ یمامہ کے غزوہ میں وہ قید ہو کر مدینہ منورہ لائی گئیں۔ حضرت علی کو دی گئیں۔ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں نے خولہ کو دیکھا سندی سیاہ فام تھیں، آپ سے آپ کے بیٹے ابراہیم نے روایات لیں، آپ کی عمر ۶۵ سال ہوئی۔ ۸۱ھ میں مدینہ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد چہارم: ۳۰۰۸-۳۲۴۸

### محمد بن سیرین

آپ کا نام محمد ہے، حضرت انس کے آزاد کردہ غلام ہیں، شہادت حضرت عثمان سے دو برس پہلے پیدا ہوئے۔ تیس صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ فن حدیث و تعبیر خواب کے امام تھے۔ ایک بار جو زتارے کو ثریا سے آگے بڑھا ہوا پایا، تو فرمایا کہ میری موت قریب ہے۔ پہلے حسن بصری وفات پائیں گے، پھر میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سودن پہلے خواجہ حسن بصری فوت ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۷۶۶

### محمد بن عبد اللہ بن جحس

آپ قرشی اسدی ہیں۔ ہجرت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئے، اپنے والد کی ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مکہ معظمہ آئے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد دوم:- ۱۵۴۹

### محمد بن عمرو بن حسن بن علی

آپ حضرت جابر سے روایات لیتے ہیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۵۴۷

### محمد بن کعب قرظی

آپ قرظی مدنی ہیں، ایک جماعت صحابہ سے روایات لیتے ہیں۔ ۱۰۸ھ میں وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم:- ۲۷۰۲

### محمد بن مسلم

آپ کی کنیت ابوالزبیر ہے، آپ کا ذکر ”ز“ کی تختی میں ہو چکا ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۷۸۵

### محمد بن مسلمہ

آپ انصاری حارثی ہیں، سواتبوک کے تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ حضرت عمر  
وغیرہم نے آپ سے روایات لیں، فضلاء صحابہ سے ہیں، ۷۷ سال عمر ہوئی، اور ۴۳ھ میں  
مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد سوم: ۲۶۷۵-۲۶۷۲

### محمد بن واسع

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

آپ ازدی ہیں، کنیت ابو بکر ہے، بعض نے ابو عبد اللہ بتائی ہے، بصری تابعی ہیں،  
انس بن مالک، سالم بن عبد اللہ، عبد اللہ بن صامت، مطرف بن عبد اللہ، ابوصالح حنفی، ابوصالح  
سمان، اور امام اعظم وغیرہم سے آپ نے روایت کی ہے۔  
آپ سے ہشام بن حبان، محمد بن حجاج، حماد بن ابی سلیمان، اسمعیل بن مسلم، ازہر بن  
سنان قرشی عبد السلام بن حرب، نے روایت لی۔ ۱۲۳ھ میں وصال ہوا۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۱۳۸

### محمود بن الربیع

آپ انصاری خزرجی ہیں، کنیت ابو نعیم ہے، عبادہ بن صامت کے داماد ہیں اور صحابی  
صغیر ہیں، عبادہ، ابویوب انصاری عتبہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔  
آپ سے انس بن مالک، امام زہری، رجاء بن حیوة، مکحول شامی، ہانی بن کلثوم،

وغیر ہم سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے وقت آپ کی عمر تقریباً پانچ سال تھی، لہذا بعض حضرات نے حضور سے روایت کو تسلیم نہ کیا۔ اور بعض نے تو تابعین میں شمار کیا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۷۷۴

### محمود بن لبید انصاری

آپ انصاری ہیں اشمیلی ہیں، آپ کی صحابیت میں اختلاف ہے، امام مسلمہ نے آپ کو تابعی مانا ہے۔ امام بخاری آپ کو صحابی کہتے ہیں۔ امام بخاری کا قول قوی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر پانچ سال تھی۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد دوم: ۱۲۸۳-۱۷۳۵

### محمد بن عبد اللہ یزنی

آپ کی کنیت ابو الخیر ہے، مصری فقیہ تابعی ہیں، عقبہ بن عامر جہنی، عروہ بن عاص، عبد اللہ بن عمرو، ابو ایوب انصاری، ابو بصرہ غفاری، زید بن ثابت، وغیر ہم سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے یزید بن حبیب، جعفر بن ربیعہ، کعب بن علقمہ، عبد اللہ بن ابی جعفر، وغیر ہم روایت کرتے ہیں، اپنے زمانہ میں مصر کے مفتی تھے، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، دوسرے محدثین بھی آپ کو ثقہ کہتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۰۸۹

### مروان بن سالم

آپ مروان بن سالم مقفع ہیں، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔  
آپ سے حسین بن واقد، عزہ بن ثابت نے روایت کی ہے، ابن حبان نے ثقات



میں ذکر کیا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۰۱۳

## مسافع دہلی

آپ عبد ریح ججی مکی تابعی ہے، عبد اللہ بن عمرو، معاویہ بن ابی سفیان، حسین بن علی عروہ بن زبیر اور امام زہری سے روایت کرتے ہیں، ان سے منصور بن صفیہ، مصعب بن شبیبہ اور امام زہری نے بھی روایت کی ہے، محدثین نے ثقہ کہا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۵۷۱

## مستورد بن شداد فہری

آپ فہری قرشی ہیں، اہل کوفہ سے ہیں، بصرہ میں قیام رہا۔ حضور انور کی وفات کے وقت یہ لڑکے تھے۔ مگر حضور سے سماع ثابت ہے۔

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۷۴۹

## مسلم قرشی

آپ مسلم بن عبد اللہ ہیں، یا ابن عبد اللہ بن مسلم ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۴۳۵

## مسور بن فخرمہ

آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے زہری قرشی ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے بھانجے ہیں۔ ۲ھ میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ ۸۱ میں آپ کو مدینہ منورہ میں لایا گیا۔ ذی الحجہ میں حضور انور کی وفات کے وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی، اس کے باوجود آپ نے حضور سے احادیث

سنیں، حفظ کیں، بڑے فقیہ دیندار پرہیزگار تھے۔ شہادت عثمان غنی تک آپ مدینہ منورہ میں رہے۔ پھر مکہ معظمہ چلے گئے۔ امیر معاویہ کی وفات تک وہاں رہے۔ یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ جب یزید کی فوجوں نے مکہ معظمہ پر حملہ کر کے اس پر پتھر برسائے، منجلیق سے اس وقت آپ خطیم میں نفل پڑھ رہے تھے۔ ایک پتھر آپ کے لگا جس سے آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعہ ربیع الاول، ۶۴ھ میں ہوا آپ سے ایک خلقت نے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم: ۳۵۲۶۔

### مطلب بن ابی وداعہ

آپ کے والد حضرت ابووداعہ کا نام حارث ہے، سہمی قرشی ہیں، فتح مکہ کے دن ایمان لائے، پھر کوفہ میں بعد میں مدینہ منورہ میں رہے، آپ کے والد بدر کے دن قید کر لئے گئے تھے۔ تو آپ انکا فدیہ یعنی چار ہزار درہم لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آپ سے متعدد صحابہ و تابعین نے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۷۷۳۔

### معاذ بن انس

آپ حبشی ہیں، اہل مصر سے ہیں، آپ کے بیٹے سہل نے آپ سے احادیث لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۶۰۷-۶۰۸-۸۳۱-۸۵۱۔

جلد سوم: ۲۵۷۷۔

جلد چہارم: ۳۱۰۹-۳۶۲۱۔

### معاذ بن جبل

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ انصاری ہیں خزرجی ہیں، بیعت عقبہ دوم میں ستر صحابہ میں آپ بھی تھے۔ بدر وغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، حضور انور نے آپ کو یمن کا قاضی

و معلم بنا کر بھیجا، اٹھارہ سال کی عمر میں اسلام لائے، حضرت عمر نے ابو عبیدہ ابن جراح کے بعد آپ کو شام کا حاکم بنایا۔ اڑتیس سال عمر پائی۔ ۱۸ھ میں طاعون عموس میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۷۲-۱۲۶-۲۸۸-۳۷۷-۲۶۳-۵۵۳-۵۵۴-۶۳۷-۹۹۷۔

جلد دوم: ۱۰۲۲-۱۲۵۸-۱۳۷۵-۱۵۶۷-۱۵۶۸۔

جلد سوم: ۲۳۳۵-۲۳۳۶-۲۴۲۰-۲۴۲۶-۲۵۷۹-۲۶۰۸-۲۶۴۸-۲۷۸۴۔

جلد چہارم: ۳۲۵۲-۳۲۷۵-۳۳۰۹-۳۳۶۴-۳۳۷۲-۳۵۵۴-۳۵۹۴۔

### معاذ بن زہرہ

آپ ہنسی تابعی ہیں، کنیت ابو زہرہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارسال کرتے ہیں، ابن حبان نے آپ کو ثقہ میں ذکر فرمایا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۴۵۵-۱۴۵۶۔

### معاویہ بن ابی یحییٰ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۶۳۱۔

### معاویہ بن حکم

آپ صحابی ہیں، قبیلہ بنی سلیم سے ہیں۔ اہل مدینہ میں آپ کا شمار ہے۔ مرقات نے

فرمایا کہ آپ سے صرف یہی حدیث مروی ہیں۔ ۱۷ھ میں وفات پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۶۹۵۔

جلد سوم: ۲۶۷۰۔

جلد چہارم:- ۳۶۳۵

## معاویہ بن حیدہ

آپ قشیری ہیں بصرہ میں سکونت تھی، صحابی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد کے ساتھ حاضر ہوئے، آخر میں خراسان تشریف لے گئے، اور وہاں ہی وصال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۱۶۵

جلد دوم:- ۱۳۲۶

جلد سوم:- ۲۲۰۶-۲۲۵۵

## معاویہ بن ابی سفیان

آپ قرشی اموی ہیں آپ کی ماں ہند بنت عتبہ ہیں اور فتح مکہ کے دن ایمان لائے، مولف القلوب میں سے ہیں۔ آپ حضور انور کے کاتب وحی تھے۔ بعض مورخین نے کہا کہ آپ کاتب وحی نہ تھے بلکہ دوسری تحریریں حضور انور کی طرف سے لکھتے تھے۔ آپ سے حضرت عبداللہ بن عباس اور ابوسعید خدری نے احادیث لیں۔ خلافت فاروقی میں اپنے بھائی یزید بن ابوسفیان کے بعد شام کے حاکم بنے۔ پھر وفات تک وہاں ہی حاکم رہے۔ ۴۰ سال حکومت کی خلافت فاروقی میں چار سال، خلافت عثمانی میں پورے بارہ سال، پھر خلافت حیدری اور خلافت امام حسن میں اس طرح بیس سال حکومت کی پھر مستقل سلطان اسلام بنکر بیس سال سلطنت کی۔ ۴۱ میں امام حسن نے آپ کو خلافت سونپ دی، خود علیحدہ ہو گئے، رجب ۶۰ھ میں وفات پائی۔ دمشق میں دفن ہوئے۔ ۴۸ سال عمر پائی۔ آخر عمر میں لقوہ ہو گیا تھا، آپ وفات کے وقت کہتے تھے کہ کاش میں ایک قرشی شخص ہوتا جو ذی طوی گاؤں میں رہتا۔ حکومت میں حصہ نہ لیتا۔ آپ کے پاس حضور انور کے تبرکات بال، ناخن شریف، تہبند تھے۔ وصیت کی کہ مجھے حضور انور کے تہبند میں لپیٹا جائے۔ ہونٹوں، ناک۔ نتھنوں آنکھوں میں حضور کے بال، ناخن رکھ دینا۔ پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ آپ کی عمر شریف کے بیان میں غلطی غالباً



کاتب نے کی۔ آپ کی عمر ۷۸ سال ہوئی ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ کاتب وحی رہے۔ اور آپ نے اپنا اسلام فتح مکہ کے دن ظاہر فرمایا۔ ایمان پہلے ہی لاچکے تھے۔ عمرہ قضا میں حضور انور کی حجامت آپ نے ہی کی تھی۔ جیسا کہ بخاری میں ہے۔ کاتب بجائے ثمان و سبعون کے ثمان و اربعون لکھ گیا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۲۷۳۔

جلد دوم: ۱۸۱۸۔

جلد سوم: ۲۳۰۰-۲۵۹۷۔

جلد چہارم: ۳۰۲۱-۳۱۰۰-۳۱۱۲۔

### معاویہ بن جہمہ

آپ سلمیٰ ہیں، اور صحابی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کی اجازت کیلئے حاضر ہوئے تو آپ نے واپس فرمادیا تھا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد سوم: ۲۳۴۴-۲۳۴۶۔

### معقل بن یسار

آپ شجرہ والے صحابہ سے ہیں، جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت رضوان کی تھی بصرہ میں قیام رہا۔ خواجہ حسن بصری آپ کے شاگرد ہیں، امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات پائی۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۳۸۵-۱۶۷۰۔

### مغیرہ بن شعبہ

آپ قبیلہ بنی ثقیف سے ہیں، خندق کے سال ایمان لائے، امیر معاویہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر رہے۔ ستر سال عمر پائی۔ ۵۰ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔ آپ سے بہت احادیث مروی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۲۵۹-۸۸۹-۹۱۸

جلد دوم: ۱۱۶۲-۱۳۸۰-۱۶۴۵

جلد سوم: ۲۳۵۰-۲۴۲۹-۲۶۱۴

جلد چہارم: ۳۳۸۲

### مقداد بن اسود

آپ کا نام مقداد بن عمرو بن ثعلبہ کنذی ہیں، مگر مشہور ہیں مقداد بن اسود کے نام سے۔ اسلئے کہ آپ اسود کی پرورش میں رہے۔ آپ جلیل القدر صحابی اور چھٹے مومن ہیں۔ نوے سال کی عمر شریف پا کر ۷۳ھ میں مدینہ منورہ سے تین میل دور مقام جرف میں وفات پائی۔ لوگ آپ کی میت شریف کو کندھوں پر اٹھا کر لائے اور جنت البقیع میں دفن کیا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۸۵۶ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

جلد چہارم: ۳۰۳۷

### مقدم بن معدی کرب

آپ کی کنیت ابو کریمہ ہے۔ کنذی ہیں اہل شام میں آپ کا شمار ہے۔ اکیانوے سال عمر پائی۔ ستاسی ہجری میں شام میں وفات پائی۔ بہت احادیث کے آپ راوی ہیں مشہور صحابی ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۵۲-۲۲۲

جلد دوم: ۱۳۵۴-۱۶۴۸-۱۸۵۸

جلد چہارم: ۳۰۴۲-۳۵۳۳

### مکحول

آپ کا نام مکحول بن عبد اللہ ہے، کنیت ابو عبد اللہ، شامی ہیں، حضرت لیث کے غلام امام

اوزاعی کے استاذ، تابعی ہیں، بہت صحابہ سے ملاقات کی، ۱۱۸ھ میں وفات ہوئی۔ آپ کی احادیث مبارکہ زیادہ مرسل ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول:- ۳۶۹

جلد چہارم:- ۳۲۱۷

### مسیرۃ الفجر

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۱۹۸

### میمون بن شبيب

آپ تبعی کوفی ہیں، اور تابعی، معاذ بن جبل، عمر فاروق، مولیٰ علی، ابوذر غفاری، مقداد بن مسعود، قیس بن سعد، مغیرہ بن شعبہ، اور ام المومنین، وغیرہم سے روایت کرتے ہیں، آپ سے ابراہیم نخعی، حبیب بن ابی ثابت، حکم بن عتیہ، منصور بن داذن نے روایت کی۔

ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ۸۳ھ میں وصال ہوا۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول:- ۲۴۰

### میمون بن کردی

آپ کی کنیت ابوبصیر ہے، اپنے والد اور ابو عثمان نہدی سے روایت کرتے ہیں

آپ سے مالک بن دینار، فضل بن عمیرہ، ابو خدرہ، اور حماد بن زید وغیرہم نے

روایت کی ہے، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، دوسرے محدثین نے بھی آپ کو ثقہ کہا

ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم:- ۱۷۰۷

جلد سوم:- ۲۷۲۹

### ام المؤمنین میمونہ

آپ میمونہ بنت حارث ہیں، بلالیہ عامریہ ہیں، بعض نے فرمایا کہ آپ کا نام برہ تھا۔ حضور انور نے میمونہ نام رکھا، آپ پہلے مسعود بن عمرو ثقفی کے نکاح میں تھیں، اس نے آپ کو طلاق دے دی۔ پھر آپ سے ابو رہم نے نکاح کیا ان کی وفات کے بعد حضور نے آپ سے نکاح ذی القعدہ ۷ھ میں عمرہ قضاء کے موقع پر مقام سرف میں کیا۔ جو مکہ معظمہ سے دس میل ہے وہاں ہی آپ کی وفات ۶۱ھ میں واقع ہوئی۔ وہاں ہی آپ دفن ہوئیں، بلکہ عین نکاح کی جگہ ہی آپ کی قبر شریف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ ام الفضل زوجہ عباس کی بہن ہیں اسماء بنت عمیس کی بھی بہن ہیں۔ حضور انور کی آخری زوجہ آپ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں۔ آپ سے حضرت عبداللہ بن عباس اور جماعت صحابہ نے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۳۵۲-۳۷۳-۳۸۰

جلد دوم:- ۱۰۹۱

جلد سوم:- ۲۲۲۰

جلد چہارم:- ۲۹۲۳

### میمونہ بنت سعد

آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خادمہ ہیں، حضور سے روایت کرتی ہیں آپ سے ایوب بن خالد بن صفوان، طارق بن عبد الرحمن، ہلال بن ابی ہلال مدنی نے روایت کی۔



اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلداول:- ۱۰۰۶

## نافع

آپ حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ ہیں، دیلمی ہیں عظیم الشان تابعی ہیں، حضرت ابن عمر اور ابوسعید خدری سے روایات لیتے ہیں اور آپ سے زہری، امام مالک وغیرہ مشہور محدثین ثقہ علماء نے روایات لیں۔ حضرت بن عمر کی اکثر روایات آپ سے مروی ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں، کہ جب میں حضرت بن عمر کی احادیث نافع سے سن لیتا ہوں۔ تو مجھے کسی اور سے سننے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک سوترہ میں آپ کی وفات ہوئی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول:- ۳۸۵-۹۲۷-۵۲۸-۵۸۱-۵۸۳-۵۸۶-۵۸۶

۹۱۴-۷۹۱-۷۳۴-۶۷۶-۶۷۵

جلد دوم:- ۱۴۹۲-۱۹۲۷

www.alahazratnetwork.org

جلد سوم:- ۲۰۹۱-۲۴۱۲-۲۴۱۳

## نہیشہ خیر ہذلی

آپ ہذلی ہیں اہل بصرہ میں آپ کا شمار ہے۔ وہاں ہی آپ کی احادیث مشہور ہیں۔ اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم:- ۱۸۶۶-۱۹۱۸

## نہیسط بن شریط

آپ اشجعی کوفی ہیں اور صحابی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نیز سالم بن عبید، انس بن مالک سے بھی روایت کرتے ہیں، آپ سے آپ کے بیٹے سلمہ اور نعیم بن ابی ہند، ابو مالک اشجعی نے روایت لی ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۲۲۸۰

## نحج بن عبدالرحمن

آپ سندى مدنى ہيں، بنو ہاشم كے آزاد كردہ، ابو معشر كنيت ہيے، ابو امامہ بن سہل بن حنيف سے ملاقات ہيے، تابعى ہيں۔

سعید بن مسیب، محمد بن كعب قرظى، ہشام بن عروہ، موسى بن يسار، وغير ہم سے روايت كرتے ہيں۔

آپ سے آپكے بیٹے محمد، ليث بن سعد، عبد اللہ بن ادریس، ہشيم، ابن مہدی، وكيع وغير ہم نے روايت لی۔ آپ كے سلسلہ ميں محدثين مختلف ہيں، بعض توشيق كرتے ہيں اور بعض تضعيف۔

اس كتاب ميں ان سے مندرجہ ذيل صرف ايك حديث مروى ہيے۔

جلد دوم: ۱۵۴۲

## نزال بن سبرہ

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

آپ ہذلى كوفى ہيں، آپكى صحابيت ميں اختلاف ہيے، حضور نبى كريم صلى اللہ تعالٰى عليہ وسلم اور صدیق اكبر سے مرسلاروايت كرتے ہيں۔

عثمان غنى، مولىٰ على، ابن مسعود، سراقہ بن مالك، ابو مسعود انصارى سے روايت كرتے ہيں، آپ سے عامر شعمى، اسمعيل بن رجا، ضحاک بن مزاحم روايت كرتے ہيں،

امام عجلى نے كہا: تابعين سے ہيں اور كوفى ثقہ ہيں، بن حبان نے ثقات ميں ذكر كيا۔

اس كتاب ميں ان سے مندرجہ ذيل صرف ايك حديث مروى ہيے۔

جلد چہارم: ۳۴۹۹

## نصر بن عاصم

آپ ليثى بصرى ہيں، اور تابعى، عمر بن خطاب، مالك بن حويرث ليثى، ابو بكرہ، فروہ بن نوفل، عبد اللہ بن فطيمہ، وغير ہم سے روايت كرتے ہيں۔

آپ سے محمد بن ہلال، قتادہ، عمران بن حدير، بشر بن شعثاء، بشر بن عبید اور ابو سعید،

بقال وغیرہم نے روایت لی ہے۔

امام نسائی نے ثقہ کہا، اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد چہارم:- ۳۰۲۷

## نعمان بن بشیر

آپ بہت خرد سال صحابی ہیں، ہجرت سے چودہ ماہ بعد تولد ہوئے، آپ انصار میں پہلے بچہ ہیں، جو پیدا ہوئے۔ جیسے مہاجرین میں اول حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے بچے ہیں۔ حضور کی وفات کے وقت آٹھ سال سات ماہ کے تھے۔ کوفہ میں قیام رہا۔ امیر معاویہ کی طرف سے عراق کے حاکم تھے۔ جب حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تو آپ اس وقت یزید بن معاویہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے۔ آپ نے حضرت مسلم سے کوئی تعارض نہ کیا اس لئے یزید نے آپ کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو مقرر کیا۔ جب سر مبارک امام حسین کا کوفہ سے شام بھیجا گیا اس وقت اہل بیت پر بھی نعران مقرر تھے۔ آپ نے راہ میں اہل بیت کی بہت خدمات انجام دیں۔ اور اہل بیت اطہار نے آپ کو بہت دعائیں دیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول:- ۸۴۴

جلد سوم:- ۲۳۲۳-۲۳۵۶-۲۶۸۳-۲۶۸۶

جلد چہارم:- ۳۶۲۵-۳۶۲۶

## نعیم بن مسعود

آپ اشجعی ہیں، غزوہ خندق میں حضور انور کی خدمت میں مہاجر ہو کر آئے۔ آپ ہی جنگ احزاب میں ابوسفیان اور بنی قریظہ کے درمیان رابطہ پیدا کئے ہوئے تھے۔ جنگ احزاب میں ابوسفیان کفار کے سردار تھے۔ یہ ان کے خاص مددگار ایلچی آپ کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ کی وفات خلافت عثمانیہ میں ہوئی بعض مورخین فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں قتل کئے گئے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد چہارم: ۳۳۷۶

### نواس بن سمعان

آپ کلابی ہیں شام میں رہے ایک جماعت نے آپ سے روایات لیں۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۱۴۳

### نوبلہ بن مسلم

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۶۹۶

### وائل بن حجر

[www.alanazratnetwork.org](http://www.alanazratnetwork.org)

آپ کا نام وائل بن حجر بن ربیعہ بن وائل بن یحمر ہے۔ کنیت ابو عبیدہ، قبیلہ بنی حزم سے ہیں۔ حضور موت کے شہزادہ تھے۔ جب اسلام لانے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے انکے لئے اپنی چادر بچھا دی اور اپنے قریب بٹھالیا اور فرمایا: کہ تم نے اللہ کے لئے بہت دراز سفر کیا، اور بہت دعائیں دیں۔ اور حضور موت کا حاکم بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو ہمیشہ حاضری بارگاہ میسر نہ تھی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۷۰۱-۷۰۲-۷۰۴

### والصبہ بن معبد جہنی

آپ آخری صحابہ میں سے ہیں، ۹ھ میں ایمان لائے، بہت پرہیزگار ہمیشہ خوف خدا سے رونے والے تھے۔ آخر میں کوفہ قیام رہا، اور مقام رقعہ میں وفات ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو شداد ہے قبیلہ اوس سے ہیں۔



اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول: ۲۶۵۔

### واثلہ بن اسقع

آپ لیثی ہیں، جب حضور انور غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے۔ تب آپ ایمان لائے مشہور یہ ہے کہ آپ نے تین سال حضور انور کی خدمت کی۔ صفہ والوں سے تھے پہلے بصرہ میں رہے۔ پھر شام میں آپ کا گھر دمشق سے تین کوس دور بلاد میں تھا۔ پھر بیت المقدس چلے گئے وہیں وفات پائی۔ سو برس عمر پائی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلداول: ۴۳۱-۷۵۳

جلد دوم: ۱۰۸۳-۱۱۲۶-۱۹۴۹

جلد سوم: ۲۰۰۶-۲۵۴۲-۲۷۷۵

جلد چہارم: ۲۶۴۲۔ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### وحشی بن حرب

آپ حبشی سوڈانی ہیں۔ جبیر بن مطعم کے غلام، آپ نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اس زمانہ میں آپ کافر تھے۔ پھر غزوہ طائف کے بعد ایمان لائے۔ خلافت صدیقی میں غزوہ یمامہ میں آپ شریک ہوئے مسلمانہ کذاب کو آپ ہی نے قتل کیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس نیزہ سے اگر ایک خیر الناس کو قتل کیا تھا تو ایک شر الناس کو بھی قتل کیا ہے، شام میں رہے۔ حمص میں وفات پائی۔ آپ سے آپ کے بیٹے اسحاق اور حرب نے روایات لیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم: ۱۸۸۲

### وصنین بن عطاء

آپ خزاعی دمشقی تابعی ہیں، کنیت ابو کنانہ یا عبد اللہ ہے، ابوالاشعث صنعانی قاسم بن

عبدالرحمن، ابو عثمان صنعانی، محفوظ بن علقمہ، مکحول شامی وغیرہم روایت کرتے ہیں، آپ سے حماد بن سلمہ، حماد بن سلیمان، بقیہ بن ولید، ولید بن مسلم روایت کرتے ہیں، ثقہ ہیں، ۴۰۷ھ میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۷۶۴

### والد عبدالعزیز

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۳۶۹

### وہب بن منبہ

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے صنعانی ہیں اولاد فارس سے ہیں حضرت جابر بن عباس سے ملاقات ہے۔ ۱۱۴ھ میں وفات ہے۔  
www.alahazratnetwork.org  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد چہارم: ۲۸۲۱-۲۹۲۵-۳۳۲۴-۳۳۶۵-۳۶۰۵

### ہالہ بن ابی ہالہ

آپ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے ہیں، اور صحابی، آپ سے آپ کے بیٹے ہند بن ہالہ روایت کرتے ہیں،  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۰۸۵

### ہرمز

آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور بدری صحابی۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۳۳۱

### ہند بن ابی ہالہ

آپ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے اور حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پائی، بدری صحابی ہیں، جنگ جمل میں حضرت علی کیساتھ تھے، اور اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد چہارم: ۳۲۴۳-۳۵۳۵

### ہشام بن ابی رقیہ

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۲۵۴۳ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

### ہشام بن عروہ

آپ کی کنیت ابوالمندر ہے، قرشی مدنی ہیں، مدینہ منورہ کے مشہور تابعی ہیں بڑے محدثین و علماء سے ہیں۔ حضرت بن زبیر بن عمرو وغیرہم سے روایات لیتے ہیں، بغداد میں خلیفہ منصور کے پاس تشریف لے گئے۔ ۶۱ھ میں پیدا ہوئے ۱۴۶ھ وفات پائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۲۴۵

### ہلال بن یساف

آپ اشجع کے آزاد کردہ ہیں حضرت علی کی زیارت کی ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد سوم: ۲۴۸۳

## یحییٰ بن حبیب

آپ اسدی کوئی ہیں، کنیت ابو عقیل ہے، اپنے چچا ابو ثابت، محمد بن اسمعیل، محمد بن قاسم اسدی، ابواسامہ، جعفر بن عون، یحییٰ بن آدم وغیرہم سے روایت کرتے ہیں، آپ سے امام بخاری، ابن ابی حاتم، عبد اللہ بن احمد، احمد بن یحییٰ بن زہرہ، وغیرہم روایت کرتے ہیں، ثقہ ہیں، ابن حبان نے ثقات میں ذکر فرمایا ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۴۹۴

## یحییٰ بن عبدالرحمن

ابن حاطب بن ابی بلتعہ آپ مدنی ہیں۔ جماعت صحابہ سے روایت لیتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد اول: ۳۰۸

www.alafazratnetwork.org

## یحییٰ بن کثیر

آپ کی کنیت ابوالیسر ہے، اصلی باشندے بصرہ کے تھے۔ پھر یمامہ چلے گئے تھے۔

حضرت انس بن مالک سے ملاقات ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۶۹۴

جلد سوم: ۲۴۵۳

## یزید بن اسود

آپ سوائی ہیں، اہل طائف میں آپ کا شمار ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۹۰۸-۹۱۳



## یزید اودی

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول:- ۴۹۷

## یزید بن حبیب

آپ ازدی مصری ہیں، کنیت ابورجاء ہے، تابعی ہیں، عبداللہ بن حارث، ابوالطفیل عامر بن واثلہ، اسلم بن یزید، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین اور امام زہری وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے سلیمان تیمی، محمد بن اسحاق، عمرو بن حارث، حیوۃ بن شریح، لیث بن سعد، سعید بن ابی ایوب، اپنے دور میں مفتی مصر تھے۔ مصر میں علم دین کا چرچہ آپ ہی کے ذریعہ ہوا۔ سب نے اپنا پیشوا مانا۔ محدثین آپ کو ثقہ مانتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلداول:- ۶۹۷

## یزید بن رکانہ

آپ قرشی مطلبی ہیں، اور صحابی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد دوم:- ۱۱۲۱

## یزید بن رومان

آپ اسدی مدنی ہیں، آل زبیر کے آزاد کردہ، کنیت ابوروح تھی، ابن زبیر، انس، سالم بن عبداللہ، عبید اللہ بن عبداللہ، عروہ بن زبیر، امام زہری وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔

آپ سے ہشام بن عروہ، ابن اسحاق، امام مالک وغیرہم نے روایت کی، محدثین آپ کو ثقہ کہتے ہیں، ۱۳۰ھ میں وصال ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد دوم: ۱۱۲۱

### یزید بن عبداللہ بن مغفل

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔  
جلد اول: ۷۲۵

### یزید قسملی

آپ کے حالات نہیں مل سکے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد اول: ۳۰۰  
جلد سوم: ۲۱۵۹

www.alahazratnetwork.org

### یعلیٰ بن عطا

آپ عامری لیشی طائفی ہیں، اور تابعی، اپنے والد، اوس بن اوس، عمار بن حدید بجلی، عمرو بن الثرید، بن سوید، ابوعلقہ ہاشمی، جابر بن یزید، بن اسود، وغیرہم سے روایت کرتے ہیں آپ سے امام شعبہ، امام ثوری، حماد بن سلمہ، ہشیم، شریک بن ابوعوانہ وغیرہم نے روایت لی ہے، محدثین آپ کو ثقہ کہتے ہیں، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔  
اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔  
جلد دوم: ۱۷۷۷-۱۷۷۸

### یعلیٰ بن مرہ ثقفی

آپ ثقفی ہیں حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ حنین طائف، تبوک میں شریک ہوئے، آپ کا شمار اہل کوفہ میں ہے۔

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد دوم: ۱۵۵۹-۱۶۷۴

جلد سوم: ۲۰۴۲-۲۰۷۰

جلد چہارم: ۳۱۸۶-۳۵۳۴

### رجل من الصحابہ

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل احادیث مروی ہیں۔

جلد اول: ۲۲-۵۰-۱۰۹-۲۰۹-۳۶۲-۲۲۹-۱۰۱۴

جلد دوم: ۱۰۲۸-۱۲۹۰-۱۵۴۱-۱۶۹۶-۱۹۰۸

جلد سوم: ۱۹۷۵-۲۲۵۱

جلد چہارم: ۳۱۸۰-۳۵۰۲-۳۵۲۳-۳۵۹۹-۳۶۳۱

### امراة من الصحابیات

اس کتاب میں ان سے مندرجہ ذیل صرف ایک حدیث مروی ہے۔

جلد سوم: ۲۳۰۴

# امام احمد رضا قدس سرہ نے جن کتب سے احادیث نقل فرمائیں

متوفی

﴿الف﴾

- ۱۔ الابانة عن اصول الديانة ابو نصر السنجرى
- ۲۔ الاتحاف السادة المتقين السيد مرتضى الزبيدى ۱۲۰۵
- ۳۔ الاتقان فى علوم القرآن جلال الدين عبد الرحمن بن ابى ابكر السيوطى ۲۵۶
- ۴۔ الاجر الجزل فى الغزل جلال الدين بن عبد الرحمن بن ابى بكر السيوطى ۹۱۱
- ۵۔ احياء العلوم امام محمد بن محمد الغزالى ۵۵۰۵
- ۶۔ اخبار المدينة زبير بن بكار الزبيرى ۵۲۵۶
- ۷۔ اخبار مدنيه محمد حسن المدنى ابن زباله ۵۳۰۰
- ۸۔ الادب المفرد امام محمد بن اسماعيل البخارى ۲۵۶
- ۹۔ اربعين طائيه اربعين سمي بالماء المعين برهان خجندى
- ۱۰۔ اربعين سمي بالماء المعين تقریباً ۱۰۰۰
- ۱۱۔ ارشاد السارى شرح بخارى شهاب الدين احمد بن محمد



- القسطلانی الشافعی ۹۲۳
- ۱۲۔ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ابو عمر یوسف بن عبد البر ۴۵۳
- ۱۳۔ اشعة اللمعات شیخ محقق عبد الحق الدہلوی ۱۰۵۲
- ۱۴۔ الاصابہ فی تمیز الصحابة ابو نعیم احمد بن عبد اللہ ۴۳۰
- ۱۵۔ اصطناع المعروف ابو بکر عبد اللہ محمد بن عبید بن ابی الدنیا ۲۸۱
- ۱۶۔ الاطراف الحافظ شہاب الدین احمد بن حجر العسقلانی المکی ۹۷۳
- ۱۷۔ اعتدال القلوب محمد بن جعفر الخرائطی ۳۲۷
- ۱۸۔ القاب الرواة احمد بن عبد الرحمن الشیرازی ۴۰۷
- ۱۹۔ اقتباس الانوار ابو عبد اللہ حریر بن علیر شاطی ۱۳۰۴
- ۲۰۔ اکتفا فی فضل الاربعة الخلفاء ابراہیم بن عبد اللہ الیمینی
- ۲۱۔ امالی فی الحدیث قاضی عبد الجبار بن احمد ۴۱۵
- ۲۲۔ امالی فی الحدیث ابو القاسم عبد الملک بن محمد بن بشران ۴۳۲
- ۲۳۔ امثال النبی ﷺ الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزی ۳۶۰

محمد بن ادريس الشافعى ۲۰۴  
ابو الحسن على بن  
محمد الجزرى ۶۳۰

۲۴۔ الام للشافعى  
اسد الغابة

### ﴿ب﴾

جلال الدين عبد الرحمن بن  
ابى بكر السيوطى ۹۱۱  
علاء الدين بن ابى بن مسعود  
الكاسافى ۵۸۷  
حافظ شهاب الدين احمد بن  
حجر عسقلانى المكى ۹۷۳  
بدر الدين ابى محمد محمود  
بن احمد العينى ۸۵۵

۲۵۔ الباب المزبور

۲۶۔ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع

۲۷۔ بلوغ المرام

۲۸۔ البناية شرح الهداية

احمد بن محمد عبد ربه ۸۶۰  
اسماعيل بن كثير القرشى  
الدمشقى ۷۷۴  
حافظ ابو بكر احمد بن عمرو  
العتكى البزار ۲۹۳

۲۹۔ بهجة المجالس  
البداية و النهاية

البحر الزخار

### ﴿ت﴾

امام محمد بن اسماعيل  
البخارى ۲۵۶  
امام احمد بن محمد بن حنبل  
۲۴۱  
ابو عبد الله الحاكم نشاپورى  
۴۰۵

۳۰۔ تاريخ البخارى

۳۱۔ تاريخ نيشاپور

۳۲۔ تاريخ الحاكم

- ۳۳۔ تاریخ الطبری ابو جعفر محمد بن جریر  
الطبری ۳۱۰
- ۳۴۔ تاریخ دمشق علی بن حق الدمشقی بابن  
عساکر ۵۷۱
- ۳۵۔ تاریخ بغداد علی بن حسن الدمشقی معروف  
بابن عساکر ۵۷۱
- ۳۶۔ التاريخ شمس الدين محمد صالح ۱۱۳
- ۳۷۔ التاريخ الحافظ ابو بكر ابی خيثمه ۲۷۹
- ۳۸۔ تاريخ ابی اسحاق ابو اسحاق الجوزجانی ۳۸۰
- ۳۹۔ تاريخ بغداد محمد بن محمود حسن  
البغدادی النجار ۶۴۳
- ۴۰۔ تبين الحقائق فخر الدين عثمان بن علی  
الزيلعي ۷۴۳
- ۴۱۔ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (التبيين) فخر الدين عثمان بن علی  
الزيلعي ۷۴۳
- ۴۲۔ التجريد للصباح و السنن ابو الحسن احمد بن رزين  
۵۳۵
- ۴۳۔ التحرير المختار امام عبد القادر الرافي الفاروقی  
۱۳۲۳
- ۴۴۔ تحفة الزائر علی بن الحسن الدمشقی  
معروف بابن عساکر ۵۷۱
- ۴۵۔ التحقيق في فضل الصديق ابراهيم بن عبد الله اليميني
- ۴۶۔ تخريج احياء العلوم المدنی الشافعی ۱۳۰۴  
حافظ شهاب الدين احمد بن

- حجر عسقلانی المکی ۹۷۳
- ۴۷۔ تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی (التدریب)  
جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر  
السیوطی ۹۱۱
- ۴۸۔ تذکرۃ الحفاظ امام ابو عبد اللہ الذہبی ۷۴۸
- ۴۹۔ ترجمان التراجم ابو عبد اللہ الفہری الہستی
- ۵۰۔ ترغیب الذکر ابو حفص محمد بن احمد
- ۵۱۔ الترغیب و الترهیب بغدادی معروف بابن شایین ۳۸۵
- حافظ زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المنذری ۶۵۶
- ۵۲۔ تعظیم الصلاۃ محمد بن نصر المروزی ۲۹۴
- ۵۳۔ التعقبات علی الموضوعات جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی ۹۱۱
- www.alahazratnetwork.org
- ۵۴۔ تفسیر ابن حبان ابو الشیخ محمد بن حبان ۳۵۴
- ۵۵۔ تفسیر بن ابی حاتم ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم محمد الرازی ۳۲۷
- ۵۶۔ تفسیر ابن جریر ابو جعفر محمد بن جریر الطبری ۳۱۰
- ۵۷۔ تفسیر ابن مردویہ احمد بن موسی بن مردویہ ۴۱۰
- ۵۸۔ تفسیر جویبر
- ۵۹۔ تفسیر ثعلبی ابو اسحاق احمد بن محمد ۴۲۷
- ۶۰۔ تفسیر واحدی ابو الحسن علی بن احمد
- الواحدی ۴۶۸



- ۶۱۔ التفسیر الکبیر امام فخر الدین الرازی ۶۰۶
- ۶۲۔ تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل علاء الدین علی بن محمد
- ۶۳۔ التقریب جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی ۹۱۱
- ۶۴۔ تقریرات الرافعی امام عبد القادر الرافعی فاروقی ۱۳۲۳
- ۶۵۔ تلخیص المتشابه ابو بکر احمد بن علی الخطیب
- ۶۶۔ تنبیہ الغافلین البغدادی ۴۰۶۳
- ۶۷۔ تہذیب الآثار فقیہ ابو الیث نصر بن محمد بن ابراهیم سمرقندی ۳۷۳
- ۶۸۔ التہذیب ابو جعفر محمد بن جریر الطبرای ۳۱۰
- ۷۰۔ تہذیب التہذیب جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی ۹۱۱
- ۷۱۔ التفسیر المناوی امام ابو عبد اللہ الذہبی ۷۴۸
- ۷۲۔ الجامع الصحیح عبد الرؤف المناوی ۱۰۳۱



الجامع الصحیح ، اول ، ثانی

امام محمد بن اسماعیل البخاری

۲۵۶

امام مسلم بن حجاج القشیری

۳۶۱

۷۲۔ الجامع الصحیح

۷۴۔ جامع الترمذی

ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ

- الترمذی ۲۷۹
- ۷۵۔ الجامع الكبير جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر السيوطی ۹۱۱
- ۷۶۔ الجامع الصغير للسيوطی جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر السيوطی ۹۱۱
- ۷۷۔ جامع الرموز شمس الدين محمد الخراسانی القهستانی تقریباً ۹۶۲
- ۷۸۔ جذب القلوب الى ديار المحبوب شيخ عبد الحق محدث الدهلوی ۱۰۵۲
- ۷۹۔ جزء حدیثی قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقي الانصاری ۵۳۵
- ۸۰۔ جزء حدیثی ابو عبد الله محمد بن مخلا دوری البغدادی ۲۳۱
- ۸۱۔ جزء رد الشمس شاذان الفضلی
- ۸۲۔ جزء حدیثی حسن بن عرفه ابو علی حسن بن عرفه ۲۵۶
- ۸۳۔ جزء ابو معاذ مروزی ابو معاذ المروزی
- ۸۴۔ جزء املا محمد بن المبارك بن الصباح
- ۸۵۔ جزء حدیثی ابو حاتم محمد بن عبد الواحد الخزاعی
- ۸۶۔ جزء حدیثی ابو العباس اصم
- ۸۷۔ الجعديات عبد الله بن محمد البغوی ۵۱۶
- ۸۸۔ جمع الجوامع جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر السيوطی ۹۱۱
- ۸۹۔ جوهر منظم شهاب الدين بن احمد بن

حجر العسقلانی المکی ۹۷۳



- ۹۰۔ الحديقة الندية شرح الطريقة محمدیہ شیخ اسماعیل بن الغنی  
النابلسی ۱۱۴۳
- ۹۱۔ الحرز المعانی ابو احمد دھقان
- ۹۲۔ حرز حدیثی ابو نعیم احمد بن عبد اللہ
- ۹۳۔ حلیۃ الاولیاء الاصبھانی ۴۳۰
- ۹۴۔ الحلیۃ علامہ ابراہیم الحلبي ۹۷۱
- ۹۵۔ حملة القرآن ابو بکر محمد بن الحسين
- الاجری ۳۰۶
- ۹۶۔ الحمام ابو عیسیٰ محمد عیسیٰ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)
- الترمذی، ۲۷۹



- ۹۷۔ خلاصۃ الحقائق
- ۹۸۔ خزائن الروایات مستند مائتہ مسائل قاضی جکن الخنفي
- ۹۹۔ الخصائص الكبرى جلال الدين عبد الرحمن بن ابی
- بکر السیوطی ۹۱۱
- ۱۰۰۔ الخلاصۃ محی الدین زکریا یحی بن
- شرف لنوی ۶۷۶
- ۱۰۱۔ خلاصۃ الاخبار ترجمۃ خلاصۃ الوفا محمد العاشق بن عمر الحافظ
- المرومی الخنفي
- ۱۰۲۔ الاخلاقیات ابو بکر احمد بن حسین بن علی

- ۴۵۸ البیہقی  
حسین بن محمد بن حسن دیار  
بکری
- ۱۰۳۔ الخمیس فی احوال انفس نفیس



- محمد بن محمود بن بغدادی  
ابن النجار ۶۴۳  
جلال الدین عبد الرحمن بن ابی  
بکر السیوطی ۹۱۱  
امام ابو القاسم محمد لولوی  
بستی
- ۱۰۴۔ الدر الثمینة فی تاریخ المدينة
- ۱۰۵۔ الدر المنثور للسیوطی
- ۱۰۶۔ در منظم

- محمد بن ابو الحسن المکی  
ابو بکر احمد بن حسین بن علی  
البیہقی ۴۵۸  
ابو نعیم احمد عبد اللہ الاصبہانی  
۴۳۰
- ۱۰۷۔ دقائق الطريقة
- ۱۰۸۔ دلائل النبوة
- ۱۰۹۔ دلائل النبوة
- ۱۱۰۔ الدلائل (دلائل الخیرات)
- محمد بن سلیمان الجزولی ۸۷۰



- عبد لاحکم بن ہوازن القشیری  
۴۶۵
- ۱۱۱۔ رسالة قشیریة
- ابو جعفر احمد بن احمد  
الشہید بالمحب الطبری ۶۹۴
- ۱۱۲۔ الرياض النضرة فی فضائل العشرة





- ۱۱۳۔ زوائد کتاب الزہد عبد اللہ بن الامام احمد ۳۹۰
- ۱۱۴۔ زائد مسند عبد اللہ بن امام احمد ۲۹۰
- ۱۱۵۔ زواجر الحافظ شہاب الدین احمد بن حجر العسقلانی المکی ۹۷۲
- ۱۱۶۔ زیارت مسند مسدد
- ﴿س﴾
- ۱۱۷۔ سراج منیر شرح جامع صغیر امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی، ۲۷۵
- ۱۱۸۔ السنن، اول، دوم ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائی ۳۰۳
- ۱۱۹۔ السنن، اول، دوم ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائی ۳۰۳
- ۱۲۰۔ السنن الكبرى ابو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه ۲۷۲
- ۱۲۱۔ السنن اول دوم ابو جعفر احمد محمد الطحاوی ۳۲۱
- ۱۲۲۔ السنن الطحاوی ابو بکر احمد بن حسين بن علی البيهقي ۳۵۸
- ۱۲۳۔ السنن الكبرى امام ابو الحسن علی بن عمر الدر قطنی ۳۸۵
- ۱۲۴۔ السنن عبد الله بن عبد الله الدارمی ۲۵۵
- ۱۲۵۔ السنن ابن السكن سعید بن عثمان ۳۵۳
- ۱۲۶۔ السنن سعید بن السكن



۱۴۲۔ شرح السیر الکبیر

محمی الدین ابو زکریا یحی بن

۱۴۳۔ شرح المہذب

شرف النووی ۶۷۶

۱۴۴۔ شرح مسند

عبد القادری الرافعی الفاروقی

۱۳۳۲

۱۴۵۔ شرح الطیبی علی مشکوۃ المصابیح

شرف الدین حسین بن محمد

بن عبد اللہ الطیبی ۷۴۳

۱۴۶۔ شرح احیاء العلوم

سید مرتضیٰ بلگرامی ۱۲۰۵

۱۴۷۔ شرح المصابیح

شہاب الدین فضل بن حسین

توریشی حنفی ۶۶۱

۱۴۸۔ شرح منتقى

قاضی ناصر الدین ابو الخیر عبد

۱۴۹۔ شرح المصابیح

اللہ بن عمر بن محمد بن الشیرازی

www.alahazratnetwork.org

البیضاوی ۶۴۱ یا ۶۸۵

۱۵۰۔ شرح المؤطا

علامہ محمد بن عبد الباقي

الزرقانی ۱۱۲۲

۱۵۱۔ شعب الایمان

ابو بکر احمد بن حسین بن علی

البیہقی ۴۵۸

۱۵۲۔ شفاء السقام فی زیارت خیر الانام

تقی الدین علی بن عبد الکافی

السبکی ۱۷۵۶

۱۵۳۔ الشفاء تعریف حقوق المصطفی

ابو الفضل عیاض بن موسی ۵۴۴

۱۵۴۔ الشہاب

قضاعی

ابو بکر احمد بن حسین بن علی

شعب الایمان

البیہقی ۴۵۸

## ﴿ص﴾

- ۱۵۵۔ صحیح ابن حبان  
 ۱۵۶۔ صحیح ابن ابان  
 ۱۵۷۔ صحیح ابو عوانہ  
 ۱۵۸۔ صحیح ابن خزيمة  
 ۱۵۹۔ صحیح بن السکن  
 ۱۶۰۔ صحیح التقاسیم و الانواع  
 ۱۶۱۔ الصحاح  
 ۱۶۲۔ صفة قبر النبی ﷺ  
 ۱۶۳۔ الصواعق المحرقة  
 ابو الشيخ محمد بن حبان ۳۵۴  
 عیسی بن ابان بن صدقة ۲۲۱  
 یعقوب بن اسحاق الاسفرائنی ۳۱۶  
 محمد بن اسحق بن خزيمة ۳۱۱  
 ابن السکن سعید بن عثمان ۳۵۳  
 ابو الشيخ محمد بن حبان ۳۵۴  
 ابو عبد الله الحاکم نیشاپوری ۴۰۵  
 ابوبکر محمد بن حسین الآجری ۳۰۶  
 الحافظ شهاب الدین احمد بن حجر  
 عسقلانی المکی ۹۷۳

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## ﴿ض﴾

امام موسی کاظم

۱۶۴۔ الضعفاء

## ﴿ط﴾

- ۱۶۵۔ الطب النبوی  
 ۱۶۶۔ طبقات ابن سعد  
 ۱۶۷۔ طبقات الحفاظ  
 ۱۶۸۔ الطحاوی علی الدر  
 ۱۶۹۔ الطريق ابن الاعرابی  
 ۱۷۰۔ الطیورات  
 ابو نعیم احمد بن عبد الله الاصبهانی  
 ۴۳۰  
 محمد بن سعد ۳۲۰  
 امام ابو عبد الله الذهبی ۷۴۸  
 سید احمد الطحطاوی ۱۳۰۲  
 امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث  
 السبجتنی ۲۷۵  
 ابو طاهر السلفی ۵۷۶





- ۱۷۱۔ علوم الحديث  
ابو عبد الله الحاكم النيشاپورى ۴۰۵
- ۱۷۲۔ عمل اليوم والليلة  
حافظ ابو بكر احمد بن محمد بن
- ۱۷۳۔ عمدة القارى شرح صحيح البخارى  
اسحاق بن السنى ۳۶۴
- ۱۷۴۔ العناية  
علامہ بدر الدين محمد احمد العینى ۸۵۵
- ۱۷۵۔ عوافى سعيد بن منصور  
اکمل الدين محمد بن محمد البابرى ۷۸۶
- ۱۷۶۔ عوالى الفرش الى معالى العرش  
ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني ۴۳۰

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)



- ۱۷۷۔ غاية البيان  
شيخ اقوام الدين امير اکتب امير
- ۱۷۸۔ غاية سمعانية  
الاتقانى ۷۸۵
- ۱۷۹۔ غرائب امام مالك  
امام ابو الحسن على بن عمر الدر قطنى ۳۸۵
- ۱۸۰۔ غريب الحديث  
ابو عبيد الله القاسم بن سلام ۲۲۴
- ۱۸۱۔ غريب الحديث  
ابراهيم الحربى
- ۱۸۲۔ غريب الحديث  
ابو الحسن على بن مغيرة البغدادى
- ۱۸۳۔ غنية  
المعروف باثرم ۲۳۰
- الشر بن لالى ۱۰۶۹  
حسن بن عمار بن على ابو الاخلاص

- ۱۸۴۔ الغنیۃ شرح منیۃ  
علامہ ابراہیم الحلبی ۹۷۱
- ۱۸۵۔ الغیلانیات  
ابو بکر الشافعی

## ﴿ف﴾

- ۱۸۶۔ فتاویٰ امام سخاوی  
شمس الدین محمد بن عبد الرحمن  
السخاوی ۹۰۲
- ۱۸۷۔ فتوح المصر  
ابو القاسم بن عبد الحکیم  
ابو حذیفہ
- ۱۸۸۔ فتوح الشام
- ۱۸۹۔ فتح الملک المجید
- ۱۹۰۔ فتح اللہ المعین السید
- ۱۹۱۔ فتح القدر
- ۱۹۲۔ فتح الغیب  
ابو منصور محمد بن احمد ۹۸۰  
کمال الدین محمد بن عبد الواحد نابن  
الہمام ۸۶۱
- ۱۹۳۔ الفتوحات المکیہ  
امام محی الدین محمد بن علی ابن  
العربی ۶۳۸
- ۱۹۴۔ فتح الباری  
الحافظ شہاب الدین احمد بن حجر  
العسقلانی المکی ۱۷۳
- ۱۹۵۔ فتاویٰ حدیثیہ  
الحافظ شہاب الدین احمد بن حجر  
العسقلانی ۹۷۳
- ۱۹۶۔ فتح القدر
- ۱۹۷۔ الفجر المنیر
- ۱۹۸۔ فضائل الصحابة  
ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی  
۴۳۰
- ۱۹۹۔ فضائل لباس العمائم  
ابو عبد اللہ محمد بن وضاح

- ۲۰۰۔ فضائل القرآن لابن جریر  
۷۲۸۔ ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ
- ۲۰۱۔ فضائل الصحابة  
خثیمہ بن سلیمان الطرابی
- ۲۰۳۔ فضائل الصديق  
ابو طالب العشاری
- ۲۰۴۔ فضائل مکہ  
خلیل بن اسحاق الجندی ۷۷۶
- ۲۰۵۔ الفوائد  
تمما بن محمد بن عبد اللہ الحلبي ۴۱۴
- ۲۰۶۔ فوائد ثقفيات  
ابو عبد اللہ الثقفي
- ۲۰۷۔ فوائد نہاد  
ابو الحسن علی بن الحسین الموصلي
- ۲۰۸۔ فوائد الحلبي  
۴۹۲
- ۲۰۹۔ فوائد سمويه  
اسماعیل بن عبد اللہ بن الملقب
- ۲۱۰۔ فوائد سورة الاخلاص  
بسمويه ۲۶۷
- ۲۱۱۔ فوائد ابو بکر بن خلاد  
ابو بکر غلام الجلالی ۴۳۹
- ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن الاصبهانی

۳۳۰

## ﴿ق﴾

- ۲۱۲۔ قرۃ العین  
شاہی ولی اللہ محدث الدہلوی ۱۱۷۶
- ۲۱۳۔ قصر الامل  
ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن عبید بن
- ۲۱۴۔ قضاء الحوائج  
ابی الدنيا القرشی ۲۸۱
- ۲۱۵۔ قضاء الحوائج  
ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن عبید بن
- ۲۱۶۔ قمع الحرص  
ابی الدنيا القرشی ۱۸۱
- ۲۱۷۔ قوۃ القلوب فی معاملۃ المحبوب  
ابو الغنائم الفرسی
- محمد بن جعفر الخرائطی ۳۲۷
- ابو طالب محمد بن علی المکی ۳۸۶

۲۱۸۔ القول الصواب فی فضل عمر بن الخطاب / ابراهیم بن عبد اللہ المدنی الشافعی



- ۲۱۹۔ کتاب الادب ابو جعفر محمد بن جریر الطبری ۳۱۰
- ۲۲۰۔ کتاب الاخوان ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن عبید بن ۲۸۱
- ۲۲۱۔ کتاب الاخوة حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن ۳۶۴
- ۲۲۲۔ کتاب الامثال اسحاق بن السنیٰ حسن بن عبد اللہ ابو احمد العسکری ۳۸۲
- ۲۲۳۔ کتاب لاحکام ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد ۶۴۳
- ۲۲۴۔ کتاب الاستذکار والتحذیر ابو عمر یوسف بن عبد البر ۴۶۳
- ۲۲۵۔ کتاب الاعتدال محمد بن جعفر الخرائطی ۳۲۷
- ۲۲۶۔ کتاب الایمان عمر بن رستہ ۳۰۰
- ۲۲۷۔ کتاب التمام فی دخول الحمام ابو المحاسن محمد بن علی ۳۸۵
- ۲۲۸۔ کتاب الافراد ابو حفص محمد بن احمد بغدادی ۲۷۶
- ۲۲۹۔ کتاب الاشریة معروف بابن شابین ۲۷۶
- ۲۳۰۔ کتاب اتباع الاموات ابن قتیبہ عبد اللہ بن مسلم الدینوری ۷۷۴
- ۲۳۱۔ کتاب الاموال ابراهیم الحربی ۵۸۲
- ۲۳۲۔ کتاب الاحکام ابو عبد القاسم بن سلام ۵۸۲
- ۲۳۳۔ کتاب الاسماء والصفات ابن خراط امام عبد الحق اشبیلی ۴۵۸
- ۲۳۴۔ کتاب الآثار ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیهقی ۱۸۹



- ۱۳۵۔ کتاب البعث و النشور ابو بکر احمد بنہیسن بن علی البیہقی  
۴۵۸
- ۱۳۶۔ کتاب التاریخ ابو بکر احمد بن علی الخطیب  
البغدادی ۴۶۳
- ۲۳۷۔ کتاب التوہیح ابو الشیخ محمد حبان ۳۴
- ۲۳۸۔ کتاب التمهید ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن عبید بن  
ابی الدنیا القرشی ۲۸۱
- ۲۳۹۔ کتاب التمهید ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی  
۴۳۰
- ۲۴۰۔ کتاب الترغیب امام ابو القاسم الاصبہانی ۵۳۵
- ۲۴۱۔ کتاب التذکرۃ ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی  
۶۷۱
- ۲۴۲۔ کتاب التلخیص امام ابو عبد اللہ الذہبی ۷۴۸
- ۲۴۳۔ کتاب الثواب ابو الشیخ محمد بن حبان ۳۵۴
- ۲۴۴۔ کتاب الحبیس و الانیس معافی
- ۲۴۵۔ کتاب الجامع لآداب الراوی و السامع / ابو بکر احمد بن علی الخطیب  
البغدادی ۴۶۳
- ۲۴۶۔ کتاب الحجۃ امام ابو القاسم اصبہانی ۵۳۵
- ۲۴۷، کتاب الحجۃ علی تارک الحجۃ اجرین ابراہیم المقدسی ۴۹۰
- ۲۴۸۔ کتاب الدعاء ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی  
۳۶۰
- ۲۴۹۔ کتاب ذم الغیۃ ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن عبید بن  
ابی الدنیا القرشی ۲۸۱
- ۲۵۰۔ کتاب الرواۃ عن مالک ابن انس / ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی ۴۳۰

۲۵۱۔ کتاب الرياضة

۲۵۲۔ کتاب الرعاع عن محرمات اليهود و السماع / الحافظ شہاب الدین احمد بن

حجر العسقلانی المکی ۹۷۳

۲۵۳۔ کتاب الروضة

ابو الحسن ابن البراء

۲۵۴۔ کتاب الزهد

امام احمد بن محمد بن حنبل

۲۴۱

۲۵۵۔ کتاب الزهد

عبد اللہ بن المبارک ۱۸۰

یناد

۲۵۶۔ کتاب الزهد

امام محمد بن محمد الغزالی

۲۵۷۔ کیمائے سعادت

۵۰۵

۲۵۸۔ کتاب السنة

ابو القاسم ہثیة اللہ بن حسن

المعروف محدث لالکائی ۴۱۸

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۲۵۹۔ کتاب السنة ابن ابی عاصم

ابو حفص محمد بن احمد

۲۶۰۔ کتاب السنة

البغدادی معروف بابن شاہین

۳۸۵

۲۶۱۔ کتاب السنة

ابو القاسم اسماعیل بن محمد

بن الفضلی البلخی

۲۶۲۔ کتاب السنة

ابو القاسم

۲۶۳۔ کتاب الشمائل

ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ

۲۷۹

الترمذی

۲۶۴۔ کتاب الشافی

ابو بکر غلام الخلال ۴۳۹

۲۶۵۔ کتاب الصحابة

ابن منده

۲۶۶۔ کتاب الصفوة

ابو الفرج عبد الرحمن بن علی

- ۵۹۷ بن الجوزی
- ۲۶۷۔ کتاب الصغیر
- یحیٰ بن سلیمان الجعفی
- ۲۶۸۔ کتاب الصلاة
- محمد بن نصر المروزی ۲۹۴
- ابو محمد بن الابرہیمی
- ۲۶۹۔ کتاب الصلاة
- ابو جعفر محمد بن عمرو
- ۲۷۰۔ کتاب الصحابة
- العقيلي المکی ۳۲۲
- ۲۷۱۔ کتاب الضعفاء الكبير
- ابو الشيخ محمد بن حبان ۳۵۴
- ۲۷۲۔ کتاب الضعفاء
- حافظ ابو بکر احمد بن محمد
- ۲۷۳۔ کتاب الطب
- بن اسحق بن السنی ۳۶۴
- ابو القاسم بن سلام ۲۲۴
- ۲۷۴۔ کتاب الطهور
- علی بن معبد
- ۲۷۵۔ کتاب الطاعة و المعصية
- ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ
- ۲۷۶۔ کتاب العلل
- الترمذی ۲۷۹
- ۲۷۷۔ کتاب العظمة
- ابو الشيخ محمد بن حبان ۳۵۴
- ابو محمد عبد الرحمن بن ابی
- ۲۷۸۔ کتاب العلل علی ابواب الفقه
- کاطم محمد الرازی ۳۲۷
- ابو بکر عبد الله محمد بن عبید
- ۲۷۹۔ کتاب العقوبات
- الله بن ابی الدنيا القرشی ۲۸۱
- ابو الفرج عبد الرحمن بن علی
- ۲۸۰۔ کتاب العلل
- بن الجوزی ۵۹۸
- ۲۸۱۔ کتاب العاقبة
- امام عبد الحق اشبیلی ۵۸۲
- ابو الحسن التیمی
- ۲۸۲۔ کتاب العقل
- علاء الدین علی المتقی حسام
- ۲۸۳۔ کنز العمال

- ۲۸۴۔ کتاب العباد علی ابن احمد الغوری
- ۲۸۵۔ کشف الغمة عن جميع الامة شیخ عبد الوهاب بن احمد
- ۲۸۷۔ کتاب فضل الصحت ابو بکر عبد الله بن محمد بن عبدی ابن الدنيا القرشی ۲۸۱
- ۲۸۸، کتاب فضل العلم الموهبی
- ۲۹۰۔ کتاب الفوائد ابو سعید ہشیم بن کلب الشاشی
- ۲۹۱۔ کتاب الفوائد الشیخ المخلص ۳۳۵
- ۲۹۱۔ کتاب الفوائد ابو الحسن بن بشران
- ۲۹۲۔ کتاب الفوائد حسن بن سفین النوی ۳۰۳
- ۲۹۳۔ کتاب الفوائد
- ۲۹۴۔ کتاب الفتوح
- ۲۹۵۔ کتاب الفرائض سفین ثوری الکوفی ۱۶۱
- ۲۹۶۔ کتاب الفتن نعیم بن حماد استاذ البخاری
- ۲۹۷۔ کتاب الفوائد ۱۲۵
- ۲۹۸۔ کتاب الفوائد ابو بکر العاقولی
- ۲۹۹۔ کتاب الفضائل حاجب الطوسی
- ۳۰۰۔ کتاب القنوت الدرلابی
- ۳۰۱۔ کتاب القبور ابو بکر احمد بن علی الخطیب
- بن ابی الدنيا القرشی ۲۸۱



- ۳۰۲۔ کتاب الکنی و الالقاب ابو عبد اللہ الحاکم النیشاپوری  
۴۵۰
- ۳۰۳۔ الکامل لابن عدی ابو احمد عبد اللہ بن عدی  
۳۶۵
- ۳۰۴۔ کتاب المراسیل امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث  
۲۷۵ السجستانی
- ۳۰۵۔ کتاب المناقب امام احمد بن محمد بن حنبل  
۲۴۱
- ۳۰۶۔ کتاب المعرفة ابو بکر احمد بن حسین بن علی  
۴۵۸ البیهقی
- ۳۰۷۔ کتاب المعجزات ابو عبد اللہ الحاکم النیشاپوری  
۴۵۰
- ۳۰۸۔ کتاب المتفق و المتفرق ابو بکر احمد بن علی الخطیب  
۴۶۳ البغدادی
- ۳۰۹۔ کتاب المعالم عبد اللہ بن محمد البغوی ۵۱۶
- ۳۱۰۔ کتاب المواعظ حسن بن عبد اللہ ابو احمد  
۳۸۲ العسکری
- ۳۱۱۔ کتاب المعرفة ابن منده
- ۳۱۲۔ کتاب المجالس ابن قتیبہ عبد اللہ بن سالم  
۲۷۶ الدینوری
- ۳۱۳۔ کتاب المصاحب ابن الانباری
- ۳۱۴۔ کتاب المغازی محمد بن عمر بن واقد الواقدی  
۲۰۷
- ۳۱۵۔ کتاب المغازی حافظ محمد بن عائذ

- ۳۱۶- کتاب المعرفة ابو الحسن علی بن الماوردی  
البصری ۴۵۰
- ۳۱۷- کتاب الرواة ابو بکر بن المرزبان
- ۳۱۸- کتاب النسخ و المنسوخ محمد بن موسى الحاذمی ۵۸۴
- ۳۱۹- کتاب الوفاء سید نور الدین علی بن احمد
- ۱۲۰- کتاب الوفا سمهوی المدنی الشافعی ۹۱۱
- ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی ۵۹۷
- ۳۲۱- کتاب الهواتف محمد بن جعفر الخرائطی
- ۳۲۷



- ۳۲۲- اللالی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی ۹۱۱
- ۳۲۳- لسان المیزان الحافظ شهاب الدین احمد بن حجر عسقلانی المکی ۹۷۳
- ۳۲۶- لمعات شیخ محقق عبد الحق محدث الدهلوی ۱۰۵۲



- ۳۲۵- مسند امام اعظم امام ابو حنیفة نعمان بن ثابت ۱۵۰
- ۳۲۶- المدخل ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیهقی ۴۵۸
- ۳۲۷- مسند امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل، ۱۴۱

- ۳۲۸۔ مؤطا امام مالک امام مالک بن انس المدنی ۱۷۹
- ۳۲۹۔ مؤطا امام محمد ابو عبد اللہ بن محمد بن الحسن الشیبانی ۱۸۹
- ۳۳۰۔ معانی الآثار ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی ۳۲۱
- ۳۳۱۔ مکارم اخلاق محمد بن جعفر الخرائطی ۳۲۱
- ۳۳۲۔ مبسوط امام محمد ابو عبد اللہ عبد اللہ حسن الشیبانی
- ۳۳۳۔ المہرانیات ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی ۴۶۰
- ۳۳۴۔ المعجم الاوسط الموتلف و المختلف ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی ۴۶۳
- ۳۳۵۔ مصنف ابن ابی شیبہ ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن احمد النسفی ۲۳۵
- ۳۳۶۔ المائتین ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصایونی ۴۴۹
- ۳۳۷۔ مشیخہ ابو علی الحسن بن شاذان احمد بن ابراہیم شاذان البراء ابو زکریا یحییٰ بن عائد
- ۳۳۸۔ مشیخہ مسند ابن منیع ابن منیع
- ۳۳۹۔ مشیخہ مسند اسحاق بن راہویہ
- ۳۴۰۔ المولد مسند بن سخبیر (مسند سنجرى) ابو اسحق و علیج ۳۵۱
- ۳۴۱۔ مسند ابن منیع
- ۳۴۲۔ مسند اسحاق بن راہویہ حافظ اسحاق بن رایہ ۲۳۸
- ۳۴۳۔ مسند بن سخبیر (مسند سنجرى) ابو اسحق و علیج ۳۵۱

- ۳۴۴۔ معجم ابن منیع  
ابن منیع
- ۳۴۵۔ معجم ابن قانع (معجم الصحابة)  
ابو الحسن عبد الباقي بن قانع  
۳۵۱
- ۳۴۶۔ معجم ابی یعلیٰ  
احمد بن علی الموصلی ۳۰۷
- ۳۴۷۔ مستخرج اسماعیلی  
ابو احمد بن ابراہیم اسماعیلی  
۳۷۱
- ۳۴۸۔ مسند ابو داؤد  
سلیمان بن داؤد الطیالسی  
۲۰۴
- ۳۴۹۔ موضوعات ابن جوزی  
ابو الفرج عبد الرحمن بن علی  
بن الجوزی، ۵۹۷
- ۳۵۰۔ مؤطا ابن ذؤیب  
محمد بن عبد الرحمن بن ابی  
ذؤیب ۷۳۷
- ۳۵۱۔ مائتین  
محمد بن یحییٰ عدنی ۲۴۳
- ۳۵۲۔ مختصر ابی داؤد  
للحافظ المنذری عبد العظیم  
بن عبد القوی المنذری ۶۵۶
- ۳۵۳۔ مصنفات بن بشکوال  
امام ابو القاسم بن بشکوال  
۵۷۸
- ۳۵۴۔ مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث)  
ابو عمرو تقی الدین عثمان بن  
عبد الرحمن صلاح الدین ۶۴۳
- ۳۵۵۔ المیزان  
امام ابو عبد اللہ الذہبی ۷۴۸
- ۳۵۶۔ مناهل  
جلال الدین عبد الرحمن بن ابی  
بکر السيوطی ۹۱۱
- ۳۵۷۔ معرفت الاصحاب  
حافظ ابو موسیٰ المدینی ۲۳۴
- ۳۵۸۔ مرسل و بلاغ مالک  
امام مالک بن انس المدنی ۱۷۹



- ۳۵۹۔ مسند البزار ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ۲۹۲
- ۳۶۰۔ مجمع البحار ( مجمع بحار الانورا ) علامہ محمد بن طاہر الفتنی (پٹنی) ہندی ۹۸۶
- ۳۶۱۔ مدارك التنزيل ( تفسیر نسفی ) ابو البركات عبد الله بن احمد لنسفی ۷۱۰
- ۳۶۲۔ مسند ترویانی
- ۳۶۳۔ الترویانی
- ۳۶۴۔ المقاصد الحسنه فی الاحادیث الدائرة علی الاسنة شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی ۹۰۲
- ۳۶۵۔ مطالع المسرات ابو حامد بن ابی المحاسن یوسف بن محمد الفاسی ۱۰۵۲
- ۳۶۶۔ المغنی عن حمل الاسفار ( مخرج احیاء العلوم ) حافظ عبد الرحیم بن حسین العراقي ۸۰۶
- ۳۶۷۔ المنتقى فی الحديث عبد الله بن علی جارود ۳۰۷
- ۳۶۸۔ المسند فی الحديث ضیاء الدین محمد بن عبد الواهد المعروف بضياء المقدسی ۶۴۳
- ۳۷۰۔ مسند ذی الیدین امام احمد بن محمد بن حنبل ۲۴۱
- ۳۷۱۔ موجبات الرحمة و عزائم المغفرة ابو العباس احمد بن ابو بکر رواد الصوفی
- ۳۷۲۔ مسند سراج احمد بن ملقن سراج الدین عمر ۸۰۵

ابو عبد اللہ الحاکم النیشاپوری  
 ۴۰۵  
 ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن  
 عبید بن ابی الدنیا القرشی ۲۸۱  
 ابو سعید النقاشی  
 علی بن سلطان ملا علی القاری  
 ۱۰۱۴  
 ابن الحاج ابی عبد اللہ محمد  
 بن العبدری ۷۳۷  
 شیخ امام عبد الوہاب بن  
 احمد الشعرانی ۹۷۳  
 ابو القاسم سلیمان بن احمد  
 الطبری ۳۶۰  
 ابو القاسم سلیمان بن احمد  
 الطبرانی ۳۶۰  
 جلال الدین عبد الرحمن بن ابی  
 بکر السيوطی ۹۱۱  
 ابو جعفر احمد بن محمد  
 الطحاوی ۳۲۱  
 الحافظ شہاب الدین احمد بن  
 حجر عسقلانی المکی ۹۷۲  
 ابو محمد عبد بن محمد حمید  
 الکشی ۲۳۸  
 محمد بن یحیٰ المدنی ۲۴۳

۳۷۳۔ المستدرک للحاکم  
 ۳۷۴۔ مکائد الشیطان  
 ۳۷۵۔ معجم الشیوخ  
 ۳۷۶۔ وقاة شرح مشکوة  
 ۳۷۷۔ مدخل الشرع الشریف  
 ۳۷۸۔ میزان الشریعة الکبریٰ  
 ۳۷۹۔ مسند شافعیین  
 ۳۸۰۔ المعجم الصغیر  
 ۳۸۱۔ مرقاة الصعود  
 ۳۸۲۔ مصنف الطحاوی  
 ۳۸۳۔ المطالب العالیة  
 ۳۸۴۔ مسند عبد بن حمید  
 ۳۸۵۔ مسند مدنی

- ۳۸۶۔ مصنف عبد الرزاق  
ابو بکر عبد الرزاق بن ہمام  
الصنعانی ۲۱۱
- ۳۸۷۔ مقدمة غزنویة
- ۳۸۸۔ مسند الفردوس  
شہر دار بن شیروہ الدیلمی ۸۵۸
- ۳۸۹۔ مسند قضاعی  
ابو عبد اللہ محمد سلامہ
- ۳۹۰۔ المعجم الكبير  
ابو القاسم سلیمان بن احمد  
الطبرانی ۳۶۰
- ۳۹۱۔ مسند كبير
- ۳۹۲۔ موضوعات كبير  
علی بن سلطان ملا علی القاری  
۱۰۱۱۴
- ۳۹۳۔ المواهب اللدنیة -  
شہاب الدین احمد بن محمد  
القسطلانی الشافعی ۹۲۳
- ۳۹۴۔ مسند مسدد  
مسدد بن مسرہد ۹۳۸
- ۳۹۵۔ مشکوة امصایح للتبریزی  
شیخ ولی الدین العراقی ۷۴۲
- ۳۹۶۔ منح المدح  
ابو الفتح محمد بن محمد بن  
سید الناس ۷۳۴
- ۳۹۷۔ مصنفات مغلطائی  
حافظ علاء الدین المغلطائی  
۷۶۲
- ۳۹۸۔ مسند مدینی  
علی بن المدینی ۲۳۴
- ۳۹۹۔ مصنف و کیع  
و کیع بن الجراح ۱۹۸
- ﴿ن﴾
- ۴۰۰۔ نسخة  
کامل الحجدری
- ۴۰۱۔ نسیم الریاض  
علامہ شہاب الدین الخفاجی

۱۰۶۹

۴۰۲۔ نصب الراية في تخريج احاديث الهداية عبد الله بن يوسف الزيلعي ۷۲۶

۴۰۳۔ النجلاء ابو بكر احمد بن علي الخطيب

البغدادی ۴۶۳

۴۰۴۔ نواذر الاصول في معرفة اخبار الرسول ابو عبد الله بن محمد بن علي

الحكيم الترمذی ۲۵۵

۴۰۵۔ النهاية في غريب الحديث و الاثر محب الدين مبارك بن محمد

الجزري ابن اثير ۶۰۶

۴۰۶۔ نيل الاوطار محمد بن علي الشوکانی ۱۲۵۵



۴۰۷۔ الوجيز في الفروع ابو حامد محمد بن محمد

الغزالی ۵۰۵ [www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

۴۰۸۔ وصايا العلماء عند العلماء ابن زهير

۴۰۹۔ وفاء الوفاء سيد نور الدين علي بن احمد

سموهوى مدنى الشافعى ۹۱۱



۴۱۰۔ الهداية برهان الدين علي ابو الحسن

الفرغانى ۵۹۳ يا ۵۹۶



۴۱۱۔ اليوقيت و الجواهر برهان الدين علي ابو الحسن

الفرغانى ۵۹۳ يا ۵۹۶



## مآخذ و مراجع

### کتاب

### مطبوع

احیاء العلوم للغزالی	ابناء مولوی غلام رسول ممبئی
الادب المفرد للبخاری	ابناء مولوی غلام رسول ممبئی
الاصابه فی تمیز الصحابة لا بن حجر	دارالکتب العلمیہ بیروت
اسد الغابۃ للجزری	دار احیاء التراث العربی بیروت
البداية والنهاية لا بن کثیر	دار المعرفۃ بیروت
البحر الزخار للبزار	مکتبۃ العلوم والحکم مدینہ منورہ
تاریخ دمشق لا بن عساکر	دار احیاء التراث العربی
الترغیب والترہیب للمندری	ابناء مولوی غلام رسول ممبئی
	دار احیاء التراث العربی
التفسیر لا بن جریر	دار الفکر بیروت
التفسیر للبخاری	دار الفکر بیروت
تقریب التہذیب للعسقلانی	مکتبۃ اشرفیہ دیوبند
تہذیب التہذیب للعسقلانی	دارالکتب العلمیہ بیروت
الجامع الصحیح للبخاری اول ثانی	فاروقیہ بکڈ پو، شید کتب خانہ
الجامع الصحیح للمسلم	فاروقیہ رشیدیہ
جامع الترمذی	کتب خانہ رشیدیہ
الجامع الصغیر للسیوطی	دارالکتب العلمیہ بیروت
جذب القلوب الی دیار المحبوب للشیخ	رضوی کتاب گھر دہلی

بیروت	جمع الجوامع للسیوطی
دارالفکر۔ بیروت	حلیۃ الاولیاء لا بی نعیم
مرکز اہلسنت برکات رضا۔ پور بندر	الخصائص الکبریٰ للسیوطی
دارالفکر بیروت	الدر المنثور للسیوطی
دارالکتب العربیہ۔ بیروت	دلائل النبوة للبیہقی
تصویر مطبوعہ حیدرآباد۔ دکنی	دلائل النبوة لا بی نعیم
بیروت	الریاض النضرۃ فی فضائل العشرہ للطبری
دارالاشاعت اسلامیہ۔ کلکتہ	السنن لا بی دائود
رحیمہ۔ دیوبند	السنن للنسائی
مکتبہ اشرفیہ دیوبند۔ رمیمہ دیوبند	السنن الکبریٰ للنسائی
یاسر ندیم۔ دیوبند	السنن لابن ماجہ
رشیدیہ۔ دہلی	السنن للطحاوی
دارالکتب العلمیہ	السنن الکبریٰ للبیہقی
الطباعة الفنیہ	السنن للدارقطنی
بیروت	السنن للدارمی
	السنن لابن منصور
دارالکتب العلمیہ بیروت	السنن لا بن ابی شیبہ
	شرح معانی الآثار للطحاوی
دارالکتب العلمیہ بیروت	شعب الایمان للبیہقی
ابوالخیر اکیڈمی۔	شفاء السقام فی زیارت خیر الانام للسبکی
ملتان	الشفاف فی تعریف حقوق المصطفیٰ للقاضی
دارالکتب العلمیہ بیروت	شعب الایمان للبیہقی
دارالکتب العلمیہ بیروت	الصحیح لا بن حبان
دارالکتب العلمیہ بیروت	الصحیح لا بی عوانہ

المکتبۃ الاسلامی	الصحيح لابن خزيمة
ملتان	الصواعق المحرقة للمكي
دارالکتب العلمیہ بیروت	الطبقات الكبرى لا بن سعد
دارالکتب العلمیہ بیروت	عمل اليوم واليلة لا بن السني
مکتبہ رشیدیہ۔ کوئٹہ	عمدة القارى للعيني
دارالفکر بیروت	فتح القدير لا بن الهمام
دارالکتب العلمیہ بیروت	فيض القدير للمناوى
ادارہ قرآن کراچی پاکستان	فتح البارى للعسقلانى
دارالديان، القاہرہ	كتاب الآثار لمحمد الشيباني
دارالمعراج الدولۃ ریاض	كتاب الزهد لا حمد بن حنبل
دارالفکر بیروت	كتاب الزهد لعبدالله بن مبارك
دارالاشاعت اسلامیہ کلکتہ	الكامل لابن عدى
بیروت	كتاب المراسيل لا بنى داؤد
مجتبائی۔ دہلی	الآلی المصنوعة للسيوطی
دارالکتب العلمیہ بیروت	المسند للامام الاعظم
داراحیاء التراث العربی بیروت	المدخل
مجتبائی۔ دہلی	المسند لا حمد بن حنبل
رحیمیہ۔ دیوبند	المؤطا لمالك
رحیمیہ دیوبند	الموطا لمحمد الشيباني
داراحیاء التراث العربی۔ بیروت	معانى الآثار للطحاوى
دارالحرین قاہرہ	المعجم الصغير للطبرانى
داراحیاء التراث العربی۔ بیروت	المعجم الاوسط للطبرانى
دارالکتب العلمیہ بیروت	المعجم الكبير للطبرانى
	المصنف لابن ابی شیبہ

دارالقبلہ جدہ	المسند لا بی علی
حیدرآباد۔ دکن	المسند لا بی داؤد الطیالسی
المکتب الاسلامی۔ بیروت	المصنف لعبدالرزاق
دارالکتب العربی۔ بیروت	المقاصد الحسنۃ للسخاوی
دارالکتب العلمیہ بیروت	المستدرک للحاکم
	مدخل الشرع الشریف للعبدی
دارالکتب العلمیہ بیروت	المسند الفردوس للدیلمی
مرکز اہل سنت برکات رضا۔ پور بندر	المواہب اللدنیہ للقسطلانی
فاروقیہ بکڈ پو	مشکوۃ المصابیح للعراقی
دارالکتب العربیہ بیروت	نسیم الرياض للخفاجی
دارالکتب العلمیہ بیروت	نصب الراية للزیلعی
موسسة المعیلمان ایران	النهاية فی غریب الحدیث للجزری

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## موسوعة اطراف الحديث النبوی سے جن کتب کا حوالہ لکھا گیا

الاتحافات السنية
اخلاق النبوة
الاذکار النووية
الاذکیا لا بن الجوزی
الاسرار المرفوعة لعلی القاری
الاستذکار لا بن عبد البر
الاشربة لاحمد بن حنبل
تاریخ اصبهان لا بی نعیم
الاولیاء لا بن ابی الدنیا
الایمان لا بن ابی شیبہ



تجريد التمهيد لا بن عبد البر

التاريخ الكبير للبخارى

تذكرة الموضوعات للفتنى

تغليق التعليق لا بن حجر

تلبيس ابليس لا بن الجوزى

تلخيص الحبير لا بن حجر

التمهيد لا بن عبد البر

تنزيه الشريعة لا بن عراق

تاريخ جرجان للسهمى

الشريعة للآجرى

جمع الجوامع للسيوطى

الحاوى للفتاوى للسيوطى

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

موارد الظمان للهيثمى

الحبائك فى الملائك للسيوطى

مسند الربيع بن حبيب

الفتاوى الحديثية للهيثمى

المسند للحميدى

جامع مسانيد ابى حنيفة

مسند ابى حنيفة

قضاء الحوائج لا بن ابى الدنيا

كشف الخفا للعجلونى

الدر المنتشرة للسيوطى

رياض الصالحين للنووى

عمل اليوم و الليلة لا بن السنى

- الامالی للشجرى  
السلسلة الصحيحة للالبانى  
السلسلة الضعيفة للالبانى  
الاسماء والصفات للبيهقى  
التاريخ للطبرى  
السنة لا بن ابى عاصم  
الضعفاء للعقيلي  
علل الحديث لا بن ابى حاتم  
ارواء الغليل للالبانى  
السنن للدارقطنى  
لسان الميزان لا بن حجر  
الآلى المصنوعة للسيوطى  
العلل المتناهية لا بن الجوزى  
المجروحين لا بن حبان  
مجمع الزوائد للهيثمى  
الجامع الكبير  
القول المسدد لا بن حجر  
زاد المسير لا بن الجوزى  
مشكل الآثار للطحاوى  
المطالب العالية لا بن حجر  
جامع بيان العلم لا بن عبد البر  
المنتقى لا بن الجارود  
منحة المعبود للساعاتى  
السنن لسعيد ابن منصور

المنار المنیف لا بن القیم  
الموضوعات لابن الجوزی  
مناہل الصفا  
اسباب النزول للواحدی